



خاص نمبر

کہانیوں کی ایک دلچسپ
کتاب پڑھو بھی



WWW.PAKSOCIETY.COM

June 2014

یادگار : شہید پاکستان حکیم محمد سعید اشاعت کا ۶۲ واں سال

خاص نمبر

قیمت خاص نمبر
₹ ۵۰

قیمت عام شمارہ
₹ ۳۵

سالانہ (۱۲ شمارے)
₹ ۳۸۰

سالانہ (۱۲ شمارے)
₹ ۵۰۰

سالانہ (۱۲ شمارے) دیکھ لیں برا
₹ ۳۳۰

سالانہ (غیر ماگت)
₹ ۵۰ امریکی دار

ماہنامہ ہمدرد نونہال

رکن آل پاکستان نوز و پیر سوسائٹی

شمارہ ۶

جون ۲۰۱۳ عیسوی

صفحہ ۶۲

شعبان المعظم ۱۴۳۵ ہجری



36620949 - 36620945

میل فون

36616004 - 36616001

(054 | 052 | 066)

پبلیشنگ

(92-021) 36611755

نیچلس نمبر

hfp@handardfoundation.org

ای میل

www.handardfoundation.org

ویب سائٹ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان

www.handardlabswaqi.org

ویب سائٹ ہمدرد لیبارٹری (تحف)

www.hakimsaid.info

ویب سائٹ ادارہ سعید

دفتر ہمدرد نونہال ہمدرد ڈاک خانہ، ناظم آباد، کراچی ۷۴۶۰۰

”ڈاک خانے کے نئے قاعدوں کی وجہ سے آجندہ ہمدرد نونہال کی قیمت صرف

بیک ارافٹ یا سی آر آر کی صورت میں قابل قبول ہوگی، VPP بھیجنا ممکن نہیں ہے۔“

قرآنی آیات اور احادیث نبوی کا احترام ہم سب پر فرض ہے

سعدیہ راشد، پبلشر نے اس پر عمر زکراہی سے مجھاکر اور اسٹیبلشمنٹ ہمدرد، ناظم آباد، کراچی سے شائع کیا

سیف القادری، امان القادری، براؤن پینڈی

سردق کی تصویر

ISSN 02 59-3734

WWW.PAKSOCIETY.COM

WWW.PAKSOCIETY.COM

ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ عیسوی

اس شمارے میں کیا کیا ہے؟

۵	شہید حکیم محمد سعید	جاگو جگاؤ
۶	مسعود احمد برکاتی	پہلی بات
۸	نہجے گلچیں	روشن خیالات
۹	حکیم خاں حکیم	نعتِ رسولِ مقبول
۱۳	ہمارے قلم کار - نئے اور پڑانے
۱۵	شاعر گلشنوی	حکیم (نظم)
۱۹	مہتاب عالم مہتاب	شہید پاکستان کی یاد میں (نظم)
۳۶	رفیع یوسفی محرم	گری (نظم)
۳۷	نہجے گلچیں	علم در پیچے
۴۱	نونہالوں کا انتخاب	ادھر ادھر سے
۴۵	مسعود احمد برکاتی	جیل جالبی یا اردو ادب کی تاریخ
۵۱	ڈاکٹر طاہر مسعود	میں وعدہ کرتی ہوں
۵۷	امجد علی امجد	ہائے سولن!
۵۹	خوش ذوق نونہال	بیت بازی
۶۰	غلام حسین حسین	تاریخوں کا اتفاق
۶۹	فضیلہ کشمال ڈکا بھٹی	محنت کا پھل
۷۹	ادیب سیخ حسن	شہید پاکستان (نظم)
۸۰	ڈاکٹر سہیل برکاتی	روشنی پیدا کرنے والے جانور

بابا امن کی آنکھیں کھول

بصارت اور بصیرت
میں کیا فرق ہے۔
پارکھنے والی باتیں

شہید حکیم محمد سعید

۱۶

امی جان

تحریر سعید راشد
کے بچپن کی خوب صورت
اور سبق آموز یادیں

سعید راشد

۳۳

زندگی کا اجالا

انسان کا ہر کام، ہر قول،
ہر قدم اتفاق کے دائرے میں ہو
تو یہی زندگی کا اجالا ہے

مسعود احمد برکاتی

۱۰

بے کی قیمت (ناول)
تجسس سے بھرپور
انتہائی سنسنی خیز مکمل ناول
اشتیاق احمد
۹۸

ایک جیل کی کہانی
ایک چال باز جیل نے
کس طرح معصوم کیوتروں
پر پتھرائی کی
ڈاکٹر جمیل جاہلی
۶۳

بابا چنیا
شہزادے کی تربیت کرنے والا
درویش اصل میں کون تھا؟
ریحس قاطر
۱۸۱

- ۸۴ کرشن پرویز
۸۵ پردیسر مشتاق اعظمی
۸۹ ادارہ
۹۱ غزال امام
۹۳ گلہ نوزخرا ختر
۱۳۹ نسرین شاہین
۱۳۳ شمس القمر عاتق
۱۳۴ سلیم قاروتی
۱۶۱ شبیم قاطر
۱۶۲ وقار حسن
۱۶۵ مسعود احمد برکاتی
۱۶۸ امان اللہ خیر شوکت
۱۶۹ ادارہ
۱۷۰ ننھے آرٹسٹ
۱۷۳ عبدالغنی شمس
۱۸۰ قاطر شریا بیجا، سلیم الہی زلفی
۲۰۸ سید علی بخاری، حیات محمد بھٹی
۲۱۳ انور شہزاد

- مشورہ (نظم)
نئی زندگی
سکرانی لکیری
آجے مصوری سیکس
تھانے دار کے نام ایک درخواست
سندھ درستہ الاسلام
خاص نمبر (نظم)
ایک پانچ کاکھیل
یہ باتیں چھوڑو (نظم)
جادو کی چھڑی
تہذیب کی ابتدا کیسے اور کہاں سے ہوئی؟
باغ کی سیر (نظم)
تصویر خانہ
نونہال مصور
بندر یا بیگم
دانشوروں کی باتیں
ہمدرد نونہال اسپلی
دیوی کی آنکھیں

عمارت نمبر ۳۲

عمارت آہستہ آہستہ
دھنس رہی تھی اور
بچے مایہ پورے تھے

انوار آس محمد

۳۱

اصلی شہزادی	۲۲۵	ڈاکٹر عمران مشتاق
اے ارض وطن (نظم)	۲۲۹	محمد خورشید عالم
چاگ اٹھا سردار	۲۳۱	مدیحہ ذکاء بھٹی
ایک ٹانگ کا بادشاہ	۲۳۷	سیدہ مبین قاطر عابدی
مٹی کا روشن دیا	۲۳۵	مسعود احمد برکاتی
بہی گھر	۲۳۹	نغمے مزاح نگار
وقار دار ہاتھی	۲۵۵	حیرا سید
دادی کی باتیں	۲۶۱	انور فرہاد
شکریہ	۲۶۷	جدون ادیب
معلومات افزا-۲۲۲	۲۷۰	سلیم فرخی
نونہال ادیب	۲۷۳	نغمے لکھنے والے
آدمی ملاقات	۲۸۸	نونہال پڑھنے والے
جوابات معلومات افزا-۲۲۰	۲۹۳	ادارہ
انعامات بلا عنوان کہانی	۲۹۷	ادارہ
نونہال خبر نامہ	۳۰۰	سلیم فرخی
ہنڈکلیا	۳۰۲	ذائقہ پسند نونہال
اشاعت سے معذرت	۳۰۳	ادارہ
نونہال لغت	۳۰۳	ادارہ

وہ میرا بیٹا نہیں ہے

وہ اسے اپنا بیٹا کیوں نہیں
مان رہے تھے، آخر راز کیا تھا؟

شمینہ پروین


۲۰۲

بلا عنوان انعامی کہانی

اس خوب صورت کہانی
کہانی کا عنوان بتا کر
ایک کتاب حاصل کیجیے

م۔ ندیم علیگ

۱۳۹




مہمان کی خاطر تواضع کرنا ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ کسی غریب سے غریب آدمی کے ہاں بھی مہمان آتے ہیں تو وہ ان کی زیادہ سے زیادہ خاطر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ بعض وقت میزبان نے خود بھوکا رہ کر مہمان کو کھلایا اور مہمان کو احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ اس کا میزبان خود بھوکا رہ گیا ہے۔

میزبان کی طرح مہمان کو بھی ایک مہذب انسان کی حیثیت سے اعلا اخلاق کا نمونہ ہونا چاہیے۔ مہمان کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے میزبان کے لیے زحمت اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ بے وقت نہ پہنچے، زیادہ نہ ٹھیرے۔ بعض لوگ کسی کے ہاں جانے سے پہلے اس کو اطلاع نہیں کرتے۔ بغیر اطلاع کے پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح میزبان بعض وقت پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاں مہمان پہنچے، وہ عین اسی وقت کسی ضروری کام سے جانے والا تھا۔ مہمان کو دیکھ کر اس کو مجبوراً رکنا پڑا اور اس کا کام خراب ہوا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی ہن بلا یا مہمان پہنچا، وہ وقت میزبان کے آرام کا تھا اور وہ تھک ہار کر ذرا سی دیر آرام کرنے لیتا تھا یا وہ وقت اس کے کھانے کا تھا، مہمان کی وجہ سے وہ وقت پر کھانا نہیں کھا سکا۔

کراچی جیسے بڑے شہروں میں ایک خراب عادت لوگوں کی یہ بھی ہو گئی ہے کہ رات کو دیر سے کسی کے ہاں جاتے ہیں۔ رات کو دس گیارہ بجے کسی کے گھر جانے میں کوئی بُرائی نہیں سمجھتے، حال آں کہ یہ طریقہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ ہمیشہ اطلاع کر کے کسی کے ہاں جاؤ یا اطلاع نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اندازہ کر کے صحیح وقت پر جاؤ۔ زیادہ دیر نہ بیٹھو۔ زیادہ باتیں نہ کرو۔ چلتے وقت میزبان کا شکر یہ ادا کرو۔

میزبان کا فرض ہے کہ وہ مہمان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے اور مہمان کے چلتے وقت اس کو دروازے تک پہنچائے۔ ☆ (ہمدرد نونہال دسمبر ۱۹۹۳ء سے لیا گیا)

اس مینے کا خیال



خیال میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔

اگر خیال تعمیری ہو تو انسان بلند یوں پر پہنچ جاتا ہے۔

پہلی بات

مسعود احمد برکاتی

خاص نمبر پیش کرتے ہوئے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا خاص بات لکھوں؟ بہر حال خاص بات یہی ہے کہ خوب موٹا تازہ خاص نمبر آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کا انتظار ختم ہوا۔ خاص نمبر پریس سے آتے ہی میں سب سے پہلے صدر ہمدرد محترمہ سعدیہ راشد کو پیش کروں گا۔ انہوں نے خاص نمبر کی تیاری شروع کرنے سے اب تک پوری دل چسپی کے ساتھ اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا۔ مجھے یقین ہے کہ خاص نمبر دیکھ کر وہ بھی شہید حکیم محمد سعید کی طرح خوش ہوں گی۔ حکیم صاحب ”ہمدرد نونہال“ کے بانی توتھے ہی، اس کو نونہالوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنانے میں مستقل اور مسلسل شریک بھی رہتے تھے۔ ہمدرد نونہال کو نونہالوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید اور دل چسپ بنانے کی کوششوں سے بہت خوش ہوتے تھے۔ جب خاص نمبر نکلنے والا ہوتا تو میں چاہتا تھا کہ اس میں حکیم صاحب کی تحریر بھی ضرور ہو۔ میں ان سے درخواست کرتا اور وہ اپنی بے حساب مصروفیتوں کے باوجود خاص نمبر کے لیے ضرور لکھتے۔ حکیم صاحب کی تحریر زیادہ تر ان کے اپنے بچپن کے کسی واقعے کے بارے میں ہوتی تھی۔ بعد میں، میں نے حکیم صاحب کی ان تحریروں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب ”وہ بھی کیا دن تھے“ بنا دی تھی، جو بہت پسند کی جا رہی ہے۔ اب تک اس کے دو ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔

محترمہ سعدیہ راشد بھی خاص نمبر کے لیے لکھنے کا وقت نکال ہی لیتی ہیں۔ ان کی تحریر سبق آموز ہوتی ہے اور نونہال بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

خاص نمبر | ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ء | ۶

سعد یہ صاحبہ بھی بہت مصروف رہتی ہیں۔ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے فلاحی کاموں کے علاوہ ہمدرد یونیورسٹی کے معیار کو بلند سے بلند معیار پر لے جانے میں بہت وقت دیتی ہیں۔ اسٹاف کی رہنمائی اور بہتر خدمت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ سعدیہ صاحبہ ہمدرد یونیورسٹی کی چانسلر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ پبلی کیشنز ڈویژن کی نگرانی بھی ان کا وقت لیتی ہے۔ ہمدرد نونہال کے علاوہ ہمدرد صحت اور تین علمی رسائل کی اشاعت کے لیے سعدیہ راشد صاحبہ کو وقت نکالنا پڑتا ہے۔

ہمدرد نونہال خاص نمبر پیش کرتے ہوئے مجھے پوری امید ہے کہ نونہالوں کو بہت پسند آئے گا۔ خاص نمبر کے ۲۷۲ صفحات کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن آپ کے ہاتھوں میں ۳۰۴ صفحات کا خاص نمبر ہے۔ خاص نمبر کا تحفہ بھی بہت خاص ہے، کیوں کہ وہ ایک پوری کتاب ہے، مزے دار کہانیوں کی کتاب۔ یہ تحفہ ”ہمدرد و خانہ وقف“ کی طرف سے ہے، جس کے لیے ہم محترم ڈاکٹر نوید الظفر صاحب (مینجنگ ڈائریکٹر، ہمدرد وقف) کے ممنون ہیں۔

قلمی معاونین کا شکر یہ بھی کرتا ہوں۔ خاص نمبر جو کچھ ہے وہ ہمارے ان دوستوں ہی کا دیا ہوا ہے۔ میں ان دوستوں کا شکر یہ ادا کرتا ہوں۔ نونہال بھی ان کا شکر یہ ادا کریں۔ میں ان ادیب اور شاعر دوستوں سے معذرت کرتا ہوں جن کی تحریر کسی مجبوری کی وجہ سے خاص نمبر میں شامل نہ ہو سکی۔ آئندہ شماروں میں ان شاء اللہ ان کی تحریریں شامل ہوں گی۔

خاص نمبر کی ترتیب و تیاری میں میرے ساتھی بھی شب و روز لگے رہے۔ سلیم فرخی، سیدہ نقوی، شکیل صدیقی، محمد اکرم خاں، عبدالباقار، فیصل علی احمد اور سید بابر علی نے اپنے اپنے حصے کے کام محنت اور خوبی سے انجام دیے۔ میں ان کا شکر یہ ادا کرتا ہوں۔

☆☆☆

خاص نمبر | ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ء | ۷

www.PAKSOCIETY.COM

سونے سے لکھنے کے قابل زندگی آموز باتیں

روشن خیالات

بابا فرید گنج شکرؒ

اچھائی کرنے کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں رہو۔ مرسلہ: فرازیہ عائشہ اقبال، عزیز آباد

شہید حکیم محمد سعید

کتاب کھولتے رہیے، زندگی میں کام یابی کا ہر دروازہ کھلتا چلا جائے گا۔ مرسلہ: قمرناز دہلوی، کراچی

ارسطو

تمہارا دشمن خواہ پتھر سے بھی چھوٹا ہو، مگر اسے ہاتھی سے بھی بڑا سمجھو۔

مرسلہ: سیدہ اویسہ بتول، کراچی

بطلموس

مال دار بننا چاہتے ہو تو اپنی ضروریات کو کم کرو۔

مرسلہ: منوگر بہار، بلوچستان

کنفیوشس

ایک اندھا اگر دوسرے اندھے کی قیادت کرے گا، تو دونوں ہی غار میں گریں گے۔

مرسلہ: کول قاطرہ اللہ بخش، کراچی

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔

مرسلہ: ہادی اقبال، کراچی

حضرت ابو بکر صدیقؓ

سوال کا نرمی سے عمدہ جواب دینا حسن اخلاق ہے۔

مرسلہ: اولیس نورال کذابی، میرپور ماٹیلو

حضرت عمر فاروقؓ

غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتا چلتا ہے۔

مرسلہ: منہک اکرم، لیاقت آباد

شیخ سعدیؒ

کسی کو اپنے نیک کام سے خوش کرنا، ہزار حمد سے کرنے سے بہتر ہے۔ مرسلہ: علینہ سلیم، رحیم یار خان

امام غزالیؒ

صبر کی کڑواہٹ، عجم کی سٹھاس اور عمل کی سختی وہ دوا ہے، جس سے دل کی خرابی کا علاج ہوتا ہے۔ مرسلہ: عرشید حبیب الرحمن، کراچی

نعتِ رسول ﷺ

حکیم خاں حکیم

کبھی جو ہم نے مدینے کے خواب دیکھے ہیں
دل و نگاہ میں کھلتے گلاب دیکھے ہیں

نظرِ نظر میں سنی تھے سوال پوشیدہ
نظرِ نظر سے اُڈتے جواب دیکھے ہیں

جنھوں نے آپؐ کا دامن کبھی نہیں چھوڑا
وہ لوگ ہم نے بڑے کام یاب دیکھے ہیں

یہ سوچ کر کہ خدا کا نہ دین بنو زسوا
مرے حضورؐ نے دکھ بے حساب دیکھے ہیں

وہ رسولؐ پہ پہنچے تو رحمتوں کے حکیم
زمینِ دل پر برستے سحاب دیکھے ہیں



زندگی کا اُجالا

مسعود احمد برکاتی

”اللہ کی قسم! اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ آپ صلواتی کرتے ہیں، قرض داروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی دعوت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔“

یہ الفاظ ایک بیوی کے ہیں۔ ایک ایسی بیوی کے جس نے ۲۵ برس تک اپنے شوہر کی زندگی دیکھی اور برتی تھی۔ یہ بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں اور انہوں نے یہ الفاظ اپنے سر تاج اور تمام عائلموں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائے تھے۔ کسی کے کردار اور اخلاق کی سچی گواہی اس کی بیوی سے بڑھ کر کس کی ہو سکتی ہے۔

اخلاق صرف کسی سے اچھی طرح ملنے اور بیٹھی زبان میں بات کرنے کا ہی نام نہیں ہے، بے شک یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے، لیکن اخلاق پوری زندگی پر حاوی ہے۔ زندگی کا ہر کام، ہر واقعہ، ہر قول، ہر قدم اخلاق کے دائرے میں آتا ہے۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل خوبی اور سچائی کے ساتھ کیا جائے۔ اخلاق اُجالا ہے۔ اس اُجالے میں انسان کا ہر کام چمکنے لگتا ہے اور اس چمک سے خود وہ انسان ہی نہیں، دوسرے انسانوں کی زندگی بھی چمک دار ہو جاتی ہے۔ اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے،

بہت پھیلا ہوا ہے۔ اس دائرے سے باہر انسان کا کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے اگر کسی انسان کے اخلاق پر رائے دینی ہو تو اس کی صرف باتوں پر نہ جاؤ، اس کے دوسرے عمل بھی دیکھو۔ اس کے بیوی بچوں سے پوچھو، اس کے پڑوسیوں سے معلوم کرو، اس کے دوستوں کی رائے لو، اس کے گاہکوں سے، اس کے افسروں سے، اس کے ماتحتوں سے، اس کے مخالفوں سے، یہاں تک کہ اس کے دشمنوں سے سوال کرو۔ ان کے جوابوں کی روشنی میں اس انسان کے اخلاق کا فیصلہ کرو۔

اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاق کا بہترین نمونہ ہے، اعلیٰ ترین مثال ہے۔ یہ نمونہ کامل بھی ہے اور دائم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ کی نقل اور پیروی کو اللہ نے اپنی پیروی قرار دیا ہے۔ حضور نے بھرپور زندگی بسر کی۔ آپ دنیا سے الگ ہو کر کونے میں نہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے ایک فرد کی حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک بزرگ اور باپ کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے، ایک حاکم کی حیثیت سے، غرض انسان کی ہر حیثیت سے زندگی بسر کی۔ آپ سے خود اللہ تعالیٰ نے کہلوا یا:

”کہہ دو میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں۔“ (سورہ کہف: آیت نمبر ۱۱)

حضور کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا اور انسانیت کے سب سے بڑے مرتبے پر فائز کیا تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا تھا، اس لیے



آپ عام لوگوں کی زندگی سے دور ہو کر کس طرح نمونہ بن سکتے تھے۔ آپ نے عام انسانوں کی سی زندگی بسر کی۔ نہ دنیا کو چھوڑا اور نہ مشکل راستہ اپنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کو جب دو باتوں میں سے کسی ایک کو اپنانے کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے جو بات آسان ہوتی اس کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ آپ ہر کام میں اپنے ساتھیوں صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ حصہ لیتے اور کبھی اپنی بڑائی نہ جتاتے۔ دوستوں میں پاؤں پھیلا کرتے بیٹھتے۔ باتیں ٹھیر ٹھیر کر اس طرح فرماتے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو یاد رکھ سکے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تربیت فرمائی تھی۔ ۲۳ سال سے زیادہ مدت تک آپ کا ساتھ رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور کسی کو بُرا نہیں کہتے تھے۔ کسی کے عیب نہیں نکالتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے۔ وہی باتیں کرتے تھے جن کا کوئی فائدہ ہو۔ کوئی دوسرا بات کرتا ہوتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا آپ خاموشی سے سنا کرتے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے، آپ بھی مسکرا دیتے، جن باتوں پر تعجب کرتے آپ بھی کرتے، کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے بات کرتا تو آپ گوارا کر لیتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سنا آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اگر کوئی آپ کے احسان یا انعام کا شکر یہ ادا کرتا تو آپ قبول فرما لیتے۔ آپ کسی کی بات

درمیان سے نہ کاٹتے۔ آپؐ نہایت سخی تھے۔ بچے تھے۔ نرم مزاج تھے۔

کسی سے ملنے وقت ہمیشہ پہلے سلام کرتے، مصافحہ کرتے۔ کوئی شخص جھک کر آپؐ کے کان میں کچھ کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹالے۔ کسی سے مصافحہ کرتے تو اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے۔

نبوت سے پہلے بھی لوگ آپؐ کے اعلا اخلاق کے قائل تھے۔ آپؐ تجارت فرماتے تھے۔ جن لوگوں سے آپؐ کا واسطہ پڑتا تھا وہ آپؐ کی سچائی، دیانت اور امانت کے گواہ تھے، اسی لیے قریش نے آپؐ کو مستفاد طور پر ”امین“ کا خطاب دیا تھا۔

ایک بار ایک شخص سے آپؐ نے کچھ کھجوریں قرض کے طور پر لیں۔ چند دن بعد وہ تقاضے کے لیے آیا۔ آپؐ نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا کہ اس کا قرض ادا کر دیں۔ صحابیؓ نے اس شخص کو جو کھجوریں دیں، وہ اتنی عمدہ نہیں تھیں جتنی اس شخص نے حضورؐ کو دی تھیں۔ اس شخص نے لینے سے انکار کر دیا۔ صحابیؓ نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی کھجوریں لینے سے انکار کرتے ہو۔

وہ شخص کہنے لگا: ”ہاں، رسول اللہ انصاف نہیں کریں گے تو اور کس سے توقع رکھی جائے۔“ حضورؐ نے یہ الفاظ سنے تو آپؐ کی آنکھوں میں آنسو بھرا آئے اور آپؐ نے فرمایا: ”یہ بالکل سچ ہے۔“

☆

خاص نمبر | ماہ نامہ ہمدرد تونہال جون ۲۰۱۳ عیسوی | ۱۳

ہمارے قلم کار - نئے اور پرانے

(بلا ترتیب)

ہمدرد نو تہال ۱۹۵۳ء میں جاری ہوا ہے۔ اب تک اس میں جن ادیبوں اور شاعروں کی تخلیقات شائع ہوئی ہیں، ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ اگر کچھ نام رہ گئے ہوں تو ہمیں مطلع فرمائیں۔ یہ نام آئندہ شائع کر دیے جائیں گے۔

ڈاکٹر جمیل جالبی، محمد احمد سبزواری، اعجاز الحق قدوسی، خالدہ سلطانہ، عبدالواحد سندھی، حامد اللہ انسر، علی ناصر زیدی، محشر بدایونی، مسلم ضیائی، اشرف صبوحی، سید علی اسد، عشرت رحمانی، پروفیسر حبیب اللہ رشیدی، محمد حسین حسان، تسلیم الہی زلفی، قرہ ہاشمی، اختر احمد برکاتی، شاعر لکھنوی، عبداللہ خاور، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، سید ابولانشاء وحیدہ نسیم، ماہر القادری، ساجی فاروقی، عبدالحمید نظامی، عارف حجازی، الطاف فاطمہ، ایم اسلم، کوثر چاند پوری، سحر انصاری، مناظر صدیقی، حسن ذکی کاظمی، سلطان جمیل نسیم، رفیع الزماں زبیری، طالب ہاشمی، تنویر پھول، سلیم فرخی، پروفیسر انجم اعظمی، فتح علی انوری، ڈاکٹر اسلم فرخی، غلام حسین میمن، ادیب سمیع چمن، مرزا ظفر بیگ، حکیم ابراہیم شاہ، اشتیاق احمد، ضیاء الحسن ضیاء، وقار محسن، نذیر انبالوی، ذکیہ بلگرامی، عباس العزم، شان الحق حقی، ثاقبہ رحیم الدین، ڈاکٹر اسد اریب، خانزادہ سمیع الوری، حمیرا سید، امان اللہ نیر شوکت، ناصر زیدی، انوار آس محمد، نسیم شاہین، انور فرہاد، حکیم خاں حکیم۔ معراج (خولجہ محمد عارف) کھتری عصمت علی پنیل، انور شعور، فیض لدھیانوی، عبدالغنی شمس، عفت گل اعزاز، سرور بجنوری، احمد خاں خلیل، احمد ہمدانی، سید رشید الدین احمد، ابرار محسن، سرشار صدیقی، عنبر چغتائی، شمینہ پروین، نوشاد عادل، جدون ادیب، محمد عمران اسحاق۔

☆

ماہ نامہ ہمدرد نو تہال جون ۲۰۱۳ء پیوی ۱۳

خاص نمبر



حکیم

شاعر لکھنوی

کرتا جاتا ہے دھڑکنوں کا شمار
نام سے اس کے کا تپتا ہے مرض
ہے بھروسا خدا کی رحمت پر
اس کا ایمان ہے "ہوالشافی"
یہ نہیں کھینچتا مریض کی کھال
دوسروں پر نہیں مدار اس کا
بنک بیلنس سے نہیں ہے غرض
قوم پر تجربہ نہیں کرتا
اپنے ہی دیس کی جزی یوٹی
اس کی فطرت انھی کی ہے شیدا
کبھی پرہیز سے ، غذاؤں سے
اُس کا ویسا علاج ہوتا ہے
یہ بڑھاتا نہیں ہے بیماری
اپنی خدمت سے ہے مقام اس کا

ہاتھ میں اس کے نبض کی رفتار
یہ اشاروں سے بھانپتا ہے مرض
ڈکھ پڑکھنے کا جانتا ہے ہنر
کیوں نہ ہو نسخہ شفا کافی
فکرِ صحت ہے اس کے فن کا کمال
اپنی طب پر ہے اعتبار اس کا
ذہن ہے اس کو کہ جڑ سے جائے مرض
دوسرے دیس کی دواؤں کا
چھوٹی یوٹی ہو یا بڑی یوٹی
جو بھی ہوتی ہے شرق میں پیدا
شرقی ملک کی دواؤں سے
جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے
اُس کو آتی نہیں ریاکاری
ڈکھ بٹانا ہے خاص کام اس کا

اس کو جاں سے عزیز ملت ہے
اس کی سائنس اس کی خدمت ہے

بابا! من کی آنکھیں کھول!

شہید حکیم محمد سعید

نونہالو! میرے بچپن میں ایک فقیر تھا۔ صدائیں لگاتا تھا: ”بابا! من کی آنکھیں کھول!“ میں سوچا کرتا تھا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ آنکھیں تو تن کی ہوتی ہیں۔ ہر انسان کے ماتھے کے نیچے ایک محفوظ جگہ میں لگی ہوئی ہیں، پھر یہ من کی آنکھیں کیا ہیں؟ فقیر صدائیں لگاتا اور میں سوچ میں پڑ جاتا۔ پھر جب میں نے قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا تو ایک آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”لوگ حق سے دور ہو جاتے ہیں اور ہدایت قبول نہیں کرتے وہ نہ سن سکتے ہیں، آنکھیں ہیں، مگر دیکھ نہیں سکتے اور نہ بول سکتے ہیں۔“ اس سے معلوم ہوا کہ تن کی آنکھیں اور ہیں اور من کی آنکھیں کوئی اور! اور من کے کان بھی اور ہیں۔ نونہالو! بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی۔

بابا! من کی آنکھیں کھول!

بڑا ہوا تو فقیر کی یہ صدا سمجھ میں آئی۔ نونہالو! ایک تو بصارت ہوتی ہے، یعنی آنکھوں کی روشنی۔ ایک ہوتی ہے بصیرت۔ یعنی دانائی، ہوش مندی، دور جا کر سوچنے کی قوت۔ یہ من کی آنکھیں ہیں۔ یہ انسان کے چہرے کے ساتھ لگی نہیں ہوتی ہیں۔ دل کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ دل کی آنکھیں اندھیروں میں بھی چیزیں دیکھ لیتی ہے۔ بصیرت بڑی چیز ہوتی ہے۔

بصارت سے بڑی چیز! ایک انسان تکلیف میں ہے، مگر اس کی تکلیف بصیرت ہی سے دیکھی جاسکتی ہے۔ بصارت تکلیف کو دیکھ نہیں سکتی۔ فرض کرو کہ تمہارے سر میں درد



ہے۔ تم کہتے ہو: ”حکیم صاحب! میرے سر میں درد ہے۔“

میں سوال کرتا ہوں: ”اچھا درد مجھے دکھاؤ؟“

نوٹہالو! کیا تم مجھے اپنا درد دکھا سکتے ہو؟ نہیں دکھا سکتے۔ اگر میری بصیرت سالم ہے تو میں تمہارا درد دیکھ سکتا ہوں۔ یہ من کی آنکھیں ہی ہیں جو ہر طرح دیکھ سکتی ہیں۔ غریبوں کی فریادیں، ناداروں کی فاقہ کشیاں، محروموں کی آرزوئیں، مجبوروں کی آہیں، اگر ماتھے کی آنکھیں دیکھ سکتیں تو پاکستان میں کوئی فقیر نہ ہوتا۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے بصیرت چاہیے۔ یعنی ضمیر اور دل کی آنکھیں۔

بابا! من کی آنکھیں کھول!

نوٹہالو! اب تمہاری سمجھ میں آ گئی۔ فقیر کہتا ہے دل کی آنکھیں کھولو، تاکہ تم کو بنی نوع انسان کا دکھ درد محسوس ہو۔

نوٹہالو! کیا یہ آنکھیں روز نہیں دیکھتیں کہ ہزاروں، لاکھوں انسان چھت کے نیچے

WWW.PAKSOCIETY.COM

نہیں، آسمان تلے سورہے ہیں اور سخت سردی ان کو اکڑا رہی ہے؟ تن کی آنکھیں روز ہی دیکھتی ہیں کہ ٹونہال سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ماتھے والی آنکھیں روز یہ تماشا دیکھتی ہیں کہ محترم انسان بے آبرو ہو رہا ہے۔ قتل کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے۔ ٹونہالو! پاکستان میں یہ آنکھیں نابینا ہیں۔ اسی لیے تو فقیر صدا لگاتا ہے: بابا! من کی آنکھیں کھول، تاکہ تجھے بے بس انسانوں کا دکھ نظر آئے۔ ☆

گھر کے ہر فرد کے لیے مفید

ماہنامہ ہمدرد صحت

صحت کے طریقے اور جینے کے قرینے سکھانے والا رسالہ

• صحت کے آسان اور سادہ اصول • نفسیاتی اور ذہنی اُبھنیں

• خواتین کے صحیح مسائل • بڑھاپے کے امراض • بچوں کی تکالیف

• جزی بوٹیوں سے آسان فطری علاج • غذا اور غذا میت کے بارے میں تازہ معلومات

ہمدرد صحت آپ کی صحت دوسرت کے لیے ہر مہینے قدیم اور جدید تحقیقات کی روشنی میں مفید اور دل چسپ مضامین پیش کرتا ہے

رنگین ٹائٹل --- خوب صورت گٹ اپ --- قیمت: صرف ۴۰ روپے

اجھے بک اسٹالز پر دستیاب ہے

ہمدرد صحت، ہمدرد سینٹر، ہمدرد ڈاک خانہ، ناظم آباد، کراچی

شہید پاکستان کی یاد میں

حکمت کے لیے ایک نمایاں نوید تھا
ہمدرد تونہال کا یہ جو سعید تھا

مہتاب عالم مہتاب

اللہ کے کرم سے تجھے حاصل ، کئی ہنر
رکھتا تھا خوب ، وقت کی رفتار پر نظر

لکھنے کا اور پڑھنے پڑھانے کا کام تھا
تاریکیوں میں دیپ جلانے کا کام تھا

ایمان میں ، یقین میں وہ باکمال تھا
اپنی مثال آپ تھا یا بے مثال تھا

انسانیت کا درس تھا ہر دم زبان پر
سوجان سے قربان تھا ، ملت کی آن پر

بے کار نہیں ہے یہ شہادت سعید کی
ہر دور میں رہی ہے ضرورت شہید کی

عالم کا یہ کلام شہیدوں کے نام ہے
تم جیسے محسنوں کو ہمارا سلام ہے



عمارت نمبر بیس

انوار آس مح



یہ ۱۹۷۰ء کا ذکر ہے۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں انکرم اسکوائر کی بلڈنگ کے پیچھے بہت ساری زمین تھی، جس پر حکومت نے تین تین بلاک بنا دیے تھے۔ وہاں لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن کچھ فلیٹ خالی بھی تھے۔ آپ اس واقعے کے بارے میں کسی بزرگ سے یا وہاں کے پرانے رہنے والوں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آج تو وہاں بہت سارے فلیٹ بن چکے ہیں۔ جس وقت کی یہ بات ہے اس زمانے میں تمام بلاکوں کے درمیان سوگڑ سے زیادہ فاصلہ تھا اور ہر بلاک کے ساتھ ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی تھا۔

وہیں ایک عمارت تھی، جس کی بنیاد بہت کم زور تھی اور وہ زمین میں دھنسنے لگی تھی۔ وہ تقریباً چار فیٹ زمین میں دھنس چکی تھی۔ اس عمارت کو خالی کر دیا گیا تھا اور اس میں لکڑی کی موٹی موٹی بتیاں بطور ستون لگا کر اسے دھنسنے سے روکا گیا تھا۔ جلد ہی وہ دھنسنے والی عمارت

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد نوںہال جون ۲۰۱۴ء پیموی	۲۱
----------	---------------------------------------	----



سارے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اُس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے اور ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق اُس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بھی کرتا تھا۔ کوئی کہتا کہ مزدوروں کی غلطی ہے، کوئی کہتا کہ ناقص سینٹ بگری لگائی گئی ہے اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس عمارت میں آسب کا سایہ ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔



میں بھی اسی علاقے میں رہتا تھا۔ میرے ابو کو آفس کی طرف سے وہاں ایک فلیٹ ملا تھا۔ میں اپنی سائیکل پر اُس عمارت کو دیکھنے جایا کرتا تھا۔ اُن دنوں میں نویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ یہ کہانی دھسنے والی عمارت کی نہیں، یہ کہانی عمارت نمبر ۳۲ کی ہے، جو دھسنے والی عمارت نمبر ۳۱ سے تقریباً سو گز کے فاصلے پر تھی۔ عمارت نمبر ۳۲ ابھی تک خالی تھی اور مجھے وہ بھوت گھر سے کم نہیں لگتی تھی۔ ہماری عمارت کا نمبر ۳۳ تھا اور یہ تینوں عمارتیں ایک



ہی قطار میں کھڑی تھیں۔

یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ لوگ دھنسی ہوئی عمارت کو دیکھنے آتے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ اس علاقے سے بچے غائب ہونا شروع ہو گئے۔ شروع شروع میں یہ بات اتنی مشہور نہ ہوئی، مگر جب زیادہ بچے اغوا ہونے لگے تو لوگوں میں اُس عمارت کی وجہ سے خوف پھیل گیا اور رفتہ رفتہ وہاں لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ زندگی معمول پر تھی۔ میں گرمی کی ایک دوپہر میں اپنی سائیکل پر گھر جا رہا تھا کہ مجھے اچانک دھنسی ہوئی عمارت دیکھنے کا خیال آیا۔ گوکہ میں بہت ڈرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی دل چاہا کہ ایک بار وہاں جایا جائے۔ میں نے سائیکل کا رخ اُس عمارت کی طرف موڑ دیا۔ میں دو ہی منٹ میں اُس عمارت کے سامنے تھا۔ وہاں اُس وقت کوئی بھی نہ تھا دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گرمی کی دوپہر میں لوگ گھروں سے کم نکلتے تھے۔ میں عمارت کو بغور دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک زوردار

www.PAKSOCIETY.COM

چیخ سنائی دی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ چیخ عمارت نمبر ۳۲ سے آئی تھی۔ میرا خوف سے بُرا حال ہو گیا۔ میں نے فوراً اپنی سائیکل چلا دی۔ مجھے عمارت نمبر ۳۲ کی کھڑکی میں کوئی کھڑا ہوا بھی نظر آیا۔ میں اتنی رفتار سے جا رہا تھا کہ میں نے اس پر دھیان نہیں دیا اور اپنے گھر آ کر ہی سانس لیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ عمارت نمبر ۳۲ تو خالی تھی پھر اُس کی تیسری منزل کی کھڑکی میں کون کھڑا تھا؟ میں اکثر اس کے بارے میں سوچتا رہتا۔

وقت گزرتا رہا۔ ایک دن میں نے اپنی امی سے پوچھا: ”امی! ہمارے برابر والی عمارت اب تک خالی ہے کیا؟“

”نہیں بیٹا! اب وہاں تیسری منزل پر، رابرٹ صاحب اور اُن کی بیوی ماریہ آگئے ہیں، باقی بلڈنگ خالی ہے۔“ امی نے جواب دیا۔

”کیا وہ عیسائی ہیں؟“ میں نے پوچھا۔

”ہاں بیٹا! وہ مجھ سے ملنے آئے تھے، تم اُس وقت گھر پر نہیں تھے۔“

”اُن کے بچے بھی تھے؟“ دور بیٹھے ابو بھی گفتگو میں شریک ہو گئے۔

”نہیں، بے چاروں کی کوئی اولاد نہیں۔“ امی نے اُن پر ترس کھاتے ہوئے کہا۔

اوہ! تو وہاں لوگ آگئے ہیں اور مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ میں نے سوچا۔

ایک روز ایسا ہوا کہ چھٹی والے دن رابرٹ صاحب اپنی بیگم کے ساتھ ہمارے گھر

چلے آئے۔ اُس دن میں نے پہلی بار انھیں دیکھا۔ وہ دونوں امی ابو سے باتیں کر رہے

تھے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ رابرٹ صاحب جنھیں میں اب اٹکل بھی کہہ رہا تھا،

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۲ عیسوی ۲۵

خاص نمبر



مجھے اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو گھور رہے ہیں۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بچوں کے غائب ہونے کی باتیں بھی کر رہے تھے اور انہیں کرنے والوں کو بُرا بھلا بھی کہہ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے انکل رابرٹ اور آنٹی ماریہ بہت مشکوک سے لگے۔ جاتے جاتے انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو پیار بھی کیا۔ چلتے وقت انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا تو مجھے اندازا ہوا کہ انکل رابرٹ کا ہاتھ بہت سخت تھا۔ اس دن ان لوگوں کے بارے میں مزید باتیں پتا چلیں۔ وہ یہ کہ انکل رابرٹ اور ماریہ آنٹی پہلے راولپنڈی میں رہتے تھے۔ دونوں کالج میں پڑھاتے تھے، مگر اب وہ رٹائر ہو کر کراچی شفٹ ہو چکے تھے۔ پینشن سے ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ ان کی نہ کوئی اولاد تھی اور نہ رشتے دار تھا۔ وہ دنیا میں اکیلے تھے۔ امی بھانپ چکی تھیں کہ مجھے رابرٹ انکل پسند نہیں آئے۔

”کیا بات ہے عامر؟“ انہوں نے مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر پوچھا۔

”کچھ نہیں امی! بس مجھے انکل رابرٹ سے ڈر لگا۔“ میں نے امی سے دل کی بات

کہہ دی۔

”ارے بھئی وہ کیوں؟“ امی نے حیرت سے پوچھا۔

پھر میں نے ہمت کر کے امی کو اس دن کی بات بتادی، جب میں نے چیخ سنی تھی۔

”بیٹا! ہو سکتا ہے رابرٹ صاحب ہی چیخ سن کر کھڑکی پر آگئے ہوں۔“

”امی! مجھے لگا تھا کہ چیخ ان کے گھر ہی سے آئی ہے۔“ میں نے کہا۔

میری بات پر امی مسکرا دیں اور کہا: ”عامر! بلاوجہ شک نہیں کرتے۔“

امی کی باتوں سے میں مطمئن تو نہیں ہوا تھا، لیکن ایک دلا سا ضرور مل گیا، لیکن اب

میں عمارت نمبر ۳۲ کے پاس سے نہیں گزرتا تھا۔ میں سب کچھ بھول کر اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ بچوں کے اغوا ہونے کی خبریں بھی آتی رہتی تھیں۔ ایک دن میں تیز تیز سائیکل چلاتے ہوئے گھر واپس آ رہا تھا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ انکل رابرٹ دھنسی ہوئی عمارت سے نکل رہے ہیں۔ ان کو وہاں سے آتا دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے بلا ارادہ سائیکل روک دی۔

”گڈ آفٹرنون؟“ انھوں نے مجھے دیکھ کر کہا۔

میں نے ان سے پوچھا: ”انکل! آپ یہاں؟“

”بس بیٹا! یوں ہی آ گیا تھا، یہ عمارت دیکھنے۔“ انھوں نے کہا۔

”جی اچھا۔“ میں اتنا کہہ کر وہاں سے چلنے ہی والا تھا کہ انھوں نے مجھے روکا۔

اس بلڈنگ میں کوئی نہیں جاتا تھا، کیوں کہ وہ گر بھی سکتی تھی، پھر وہاں رابرٹ انکل کیوں

گئے تھے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب انھوں نے مجھے روکا تو میری جان

نکل گئی۔

”جی انکل!“ میں نے کہا، لیکن ساتھ ہی میں تیار تھا کہ سائیکل چلا دوں۔ وہ

بھانپ گئے کہ میں رکنہ نہیں چاہتا، اس لیے انھوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے جانے کو

کہہ دیا اور میں ایک منٹ بھی وہاں نہیں رکا۔

وہ رات بہت عجیب تھی۔ رات کے سنانے میں پولیس کی سائرن بجاتی گاڑیاں

عمارت نمبر ۳۲ کے پاس آ کر رکیں۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ پولیس نے وہاں

چھاپا مارا اور دوسری منزل سے اغوا شدہ ۳ بچے برآمد کر لیے۔ پولیس پوری بلڈنگ کی

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد نو تہال جون ۲۰۱۳ بیوی

۲۷



تلاشی لے رہی تھی۔ بلڈنگ میں کوئی نہیں تھا۔ انکل رابرٹ اور آئی ماریہ تالا لگا کر کہیں جا چکے تھے۔

”یہاں اس بلڈنگ میں کوئی رہتا ہے؟“ پولیس انسپکٹر نے لوگوں سے پوچھا۔
ہر شخص نے یہی کہا کہ عمارت نمبر ۳۲ تو خالی ہے اور وہاں کوئی نہیں رہتا۔ لوگوں کی باتیں سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے اپنے ابو کی طرف دیکھا، وہ بھی خاموش کھڑے تھے اور انہوں نے مجھے بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شاید وہ کوئی مصیبت مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ کیا انکل رابرٹ اور آئی ماریہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا؟ وہ تو عمارت نمبر ۳۲ کی تیسری منزل پر رہتے تھے۔ میں نے سوچا۔

”ہم اس عمارت کوئی الحال بند کر کے سیل لگا رہے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق ایک مرد اور عورت شہر بھر سے بچے اغوا کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ذرا ہوشیار رہیے گا۔“ پولیس انسپکٹر نے وہاں جمع ہونے والے لوگوں کو بتایا۔

اس کے بعد پولیس نے عمارت نمبر ۳۲ کو بند کر دیا۔ ابو نے مجھے گھر آ کر بتایا کہ رابرٹ صاحب ایک ہفتے پہلے ہی فلیٹ خالی کر کے چلے گئے تھے، اس لیے وہ پولیس کے سامنے خاموش رہے۔ اس بات کو کئی ہفتے گزر گئے۔ جب میں اسکول آتے جاتے دھنسی ہوئی عمارت اور عمارت نمبر ۳۲ کو دیکھتا تو مجھے ان دونوں میں کوئی گہرا تعلق لگتا تھا۔

ایک شام میں اپنے محلے کے دوستوں کے ساتھ میدان میں فٹ بال کھیل رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہر عمارت کے درمیان سوگڑ سے زیادہ کا فاصلہ تھا، اس لیے ہر کھیل ہم آسانی سے کھیل لیا کرتے تھے۔ میں گول کیپر بنا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر عمارت نمبر ۳۲

WWW.PAKSOCIETY.COM

کی تیسری منزل پر گئی تو وہاں مجھے کوئی کھڑکی میں کھڑا نظر آیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے تمام لڑکوں کو اپنے ساتھ جمع کیا اور سب کو بتایا کہ وہاں کوئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، پوری فٹ بال ٹیم عمارت کے سامنے تھی۔ وہاں تو اب بھی پولیس کا تالا لگا ہوا تھا۔ پھر میں نے لڑکوں کو یہ بھی بتایا کہ ایک بار میں نے یہاں سے چیخ بھی سنی تھی جو کسی بچے کی تھی۔ سب لڑکے میری باتیں سن کر حیران تھے۔ اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھر لوٹ آئے۔ میں جب گھر آیا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، کیوں کہ انکل رابرٹ اور آنٹی ماریہ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ وہ امی ابو کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔

”گڈ ایونگ!“ انکل نے مجھے دیکھ کر کہا۔ میں نے بھی جواباً گڈ ایونگ کہا اور مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر میں بستر پر ڈھیر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ انکل رابرٹ یہاں ہیں تو ان کے فلیٹ کی کھڑکی پر کون کھڑا تھا؟ ایک بار پھر میرا دماغ الجھ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں امی میرے کمرے میں آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انکل رابرٹ اب ہماری ہی عمارت کی تیسری منزل پر رہنے آ رہے ہیں۔ انہیں یہ علاقہ پسند آ گیا ہے۔ ہماری تیسری منزل خالی ہونے والی تھی۔ پھر دو ہفتے بعد ہی انکل رابرٹ ہماری بلڈنگ میں آئے۔ میں بالکل خوش نہیں تھا۔ اب حال یہ ہو گیا کہ اکثر انکل رابرٹ سے میٹھیوں پر ملاقات ہو جاتی تھی۔ میں ان سے دور دور رہتا تھا، مگر وہ ہمیشہ میرے قریب آ جاتے تھے۔ ایک دن وہ ہاتھ میں ایک تھیلی لے کر نیچے اتر رہے تھے، جس میں سے بہت بدبو آ رہی تھی۔

”انکل! کیا ہے اس تھیلی میں؟“ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔

”گندا سڑا ہوا گوشت ہے، دیکھو گے۔“ انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا، جیسے میرا پوچھنا ان کو بُرا لگا ہو۔

”جی نہیں۔“ یہ کہتا ہوا میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور امی کو بتایا کہ انکل نے کس طرح بات کی۔

”ہاں، آج ان کا سوڈ خراب ہے۔ ان کا مچھلی کھانے کو دل چاہا تھا، مگر مچھلی والے نے ان کو سڑی ہوئی مچھلی دے دی، اب غصے میں واپس کرنے گئے ہیں۔“ امی نے ساری تفصیل بتادی۔

”اوہ! اچھا۔“ میرے منہ سے نکلا۔

میری ان دنوں دلی خواہش تھی کہ انکل رابرٹ فلیٹ کی عمارت چھوڑ کر چلے جائیں۔ اچانک میری زندگی کا سب سے خطرناک حادثہ ہوا، جس کو بتاتے ہوئے آج بھی میرے روتے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس رات لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بجلی نہیں تھی۔ گرمی بہت شدید تھی اور چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رات نو بجے کا وقت تھا۔ میں گرمی کی وجہ سے باہر نکل آیا تھا، تاکہ باغیچے میں بیٹھ جاؤں۔

”بیٹا عامر! زیادہ دور مت جانا۔“ امی نے کہا۔

جیسے ہی میں عمارت سے باہر آیا، میں نے انکل رابرٹ کو دھنسی ہوئی عمارت کی جانب جاتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی دبے پاؤں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ میں ان سے فاصلے پر تھا۔ وہ دھنسی ہوئی عمارت کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ میں ان سے تقریباً سو گز کے فاصلے پر تھا اور عمارت نمبر ۳۲ کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ یکا یک کسی نے پیچھے سے میرے

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۲ عیسوی

۳۰

سر پر کچھ مارا اور میرا سر چکرا گیا۔ میں پیچھے مڑا تو اپنے پیچھے اندھیرے میں ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔

”آئی ما..... ریہ۔“ میرے منہ سے نکلا اور میں بے ہوش ہو گیا۔

جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک کمرے میں بند پایا۔ میرے ہاتھ پاؤں اور منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ کان میں بھی روئی ٹھنسی ہوئی تھی۔ میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا، صرف رد سکتا تھا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں اور نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کاش! میں امی کی بات مان لیتا اور گھر کے پاس ہی رہتا۔ امی نے مجھے دور جانے سے منع کیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں ہوں، کس علاقے میں ہوں۔ مجھے صبح شام ایک کالا سا موٹا آدمی کھانا دے جاتا تھا۔ پانی کا ایک گولہ کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ مجھے بھوک ہی نہیں تھی، مگر جب تک کچھ نہ کھاتا وہ موٹا میرے ساتھ کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے زبردستی کچھ نوالے کھانا پڑتے تھے، تاکہ وہ چلا جائے۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا اور میں کچھ پوچھتا بھی تو مجھے ڈانٹ کر چپ کر دیتا۔ اب میں بالکل بڈھال ہو کر کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ رورو کر میرا اہم حال تھا۔ میں ہر حال میں اپنے گھر جانا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ کام انکل رابرٹ کا ہی ہے۔

میری وہاں تیسری رات تھی کہ اچانک مجھے پولیس کی سائرن بجاتی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ گاڑی نزدیک ہی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے اس طرح ہوا کہ کان میں روئی ٹھنسی ہونے کے باوجود میں سائرن سن سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے میرے کمرے کا دروازہ دھڑام

www.PAKSOCIETY.COM

سے کھلا اور چند پولیس والے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ابو اور انکل رابرٹ بھی تھے۔

میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ صرف اتنا پتا تھا کہ اللہ نے میری سن لی تھی اور میں اب آزاد ہو چکا تھا۔ جب پولیس مجھے کمرے سے باہر لائی تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، میں دھنسی ہوئی عمارت کی تیسری منزل پر قید کیا گیا تھا۔ موٹے کالے آدمی اور عورت کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا وہ دوسرے کمرے میں تھے۔ یہی دونوں بچوں کو اغوا کرتے تھے اور خالی عمارت میں چھپا دیتے تھے، تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔

پولیس ہمیں ضروری کارروائی کے لیے تھانے لائی تھی۔ وہاں مجھے پتا چلا کہ مجھے اغوا کرنے والے وہی موٹا آدمی اور عورت تھی۔ آنٹی ماریہ نے نہیں، بلکہ اس عورت نے میرے سر پر ڈنڈا مارا تھا۔ وہ اندھیرے میں تھی، اس لیے میں اس کو آنٹی ماریہ سمجھا تھا۔ وہ میرے ابو سے مجھے چھوڑنے کے پانچ لاکھ روپے مانگ رہے تھے۔ جب کہ انکل رابرٹ ہی پولیس کو دھنسی ہوئی عمارت پر لے کر آئے تھے۔ وہاں انکل رابرٹ نے بتایا کہ انھیں بہت دنوں سے شک تھا کہ دھنسی ہوئی عمارت میں کوئی آتا جاتا ہے وہ عمارت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ پھر ان کی نظر ایک روز موٹے آدمی پر پڑی تو وہ پولیس کو لے آئے اور پولیس نے مجھے چھڑوا لیا۔

”بیٹا! رابرٹ صاحب کا ہم پر احسان ہے، ورنہ نہ جانے تمہارے ساتھ کیا ہوتا۔“ ابو نے مجھے بتایا۔

میں نے انکل رابرٹ کا شکریہ ادا کیا اور ان سے لپٹ گیا۔ میں نے ان کو کتنا غلط

ماہ نامہ ہمدرد تو نہال جون ۲۰۱۳ عیسوی ۳۲

خاص نمبر

سمجھا تھا۔ انکل رابرٹ نے بچوں کو اغوا کرنے والوں کو بھی پکڑوایا تھا۔ پولیس نے بھی انکل رابرٹ کا شکر یہ ادا کیا۔ پھر ہم لوگ گھر آ گئے۔ امی نے مجھے بہت پیار کیا۔ میں گھر آ کر بہت خوش تھا۔

اس واقعے کے بعد میں انکل رابرٹ کی بہت عزت کرنے لگا تھا اور ان پر شک کرنا چھوڑ چکا تھا۔ میں ان کے کام بھی کرتا تھا، کیوں کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اب میں ان کا بیٹا بن گیا تھا۔ ایک روز میں انکل رابرٹ کے ساتھ عمارت نمبر ۳۲ کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اچانک چیخ سنائی دی۔ میں نے فوراً فلیٹ کی طرف دیکھا تیسری منزل کی کھڑکی پر کوئی کھڑا ہوا تھا، جو میری نظر پڑتے ہی ہٹ گیا۔ پھر میری نظر عمارت کے دروازے پر گئی، وہاں اب تک پولیس کا تالا لگا ہوا تھا۔ کون ہے جو بند دروازے سے اندر چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا اور جب میں نے انکل رابرٹ کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔

”انکل! آپ نے چیخ سنی؟“ میں نے پوچھا۔

انہوں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور بولے: ”بیٹا! میں تو اس فلیٹ میں رہ بھی چکا ہوں۔ یہ عمارت خالی ہے۔ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ جب میں یہاں رہنے آیا تھا تو ہمیں بھی عجیب عجیب آوازیں آتی تھیں اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اور بھی یہاں رہتا ہو۔ شاید یہاں دوسری دنیا کے لوگ آباد ہیں۔ جو کبھی کبھی اپنے وجود کا احساس دلاتے ہیں۔ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو بھی تنگ نہ کریں۔ تو پھر کوئی ہم کو بھی تنگ نہیں کرے گا، اس لیے ہم نے فلیٹ خالی کر دیا تھا۔“

☆ انکل رابرٹ بتا رہے تھے اور میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔

خاص نمبر | ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ | ۳۳

امی جان

سعدیہ راشد

نو نہالو! اب تک آپ اپنی نئی جماعتوں میں پہنچ چکے ہوں گے۔ نئی کتابیں بھی خریدنی ہوں گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج کل آپ اپنی کتابوں پر براؤن پیپر سے کور چڑھاتے ہیں یا نہیں۔ جب میری بچیاں چھوٹی تھیں تو انھیں نئی کتابوں پر کور چڑھانے اور ان پر اپنا نام لکھنے میں بڑا لطف آتا تھا۔ تینوں بچیاں اپنی کتابوں کو ترتیب سے رکھ کر بہت خوش ہوتی تھیں۔ اور یہ لکھتے لکھتے مجھے یاد آیا کہ میری امی جان بھی میرے ساتھ بیٹھ کر اسی اہتمام سے کتابوں پر کور چڑھواتی تھیں۔ حد تو یہ ہے کہ وہ کہانی کی کتاب بھی بغیر کور کے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کتاب پڑھ لی جائے تو اس کو کتابوں کے ریک میں سجادیں۔ وہ بالکل نئی لگیں گی۔

آج کل امی جان کی باتیں بہت یاد آ رہی ہیں۔ کل ہی کی بات ہے کہ بچے کے غلاف کی سلائی کے لیے سوئی دھاگا ہاتھ میں لیتے ہی امی جان کی یاد آ گئی۔ جب میں ان کے لیے سوئی میں دھاگا پروتی تو وہ لہک کر کہتیں: ”ورزی نے اپنے شاگرد سے کیا کہا؟“ میں اسی انداز سے کہتی: ”کیا کہا؟“ جواب میں وہ فرماتیں: ”کبھی لبادھاگا نہیں پروتا۔“ غور کریں تو یہ بڑی سمجھ داری کی بات ہے۔ لمبے دھاگے میں اکثر گرہ لگ جاتی ہے اور جھنجلاہٹ ہوتی ہے۔

ابا جان کو مہمان نوازی کا بہت شوق تھا۔ امی جان جب کھانا خود پکاتیں تو مٹر کے دانے نکالنا، شامی کباب بنانا یا سبزی کا ثنا ہم بچیوں کے حصے میں آتا۔ پیٹنگن کاٹتے ہوئے

ماہ نامہ ہمدرد نو نہال جون ۲۰۱۴ء یسوی ۳۳

خاص نمبر

۱۱

امی جان بتاتیں: ”بیٹلن نے کہا کہ اگر کوئی متواتر مجھے چالیس روز تک کھائے تو ناپینا ہو جائے۔ بیٹلن کی ڈنڈی فوراً بولی کہ اگر میں نہ ہوں تو؟ مطلب یہ کہ بیٹلن کے ساتھ اس کی سبز ڈنڈی ضرور پکائیں۔“

میری امی جان مجسم اخلاق تھیں۔ آج بھی ان کے اخلاق اور ان کا پیار یاد آتا ہے۔ مجھ سے کہتیں: ”اگر تمہارا اخلاق اچھا ہوگا تو سب تمہارے اپنے ہوں گے اور اگر تمہارا اخلاق اچھا نہ ہوگا تو اپنے بھی پرانے ہو جائیں گے۔“

یہ بات میں اپنی بچیوں کو بھی سمجھاتی ہوں کہ تمہارے نانا ابا تو پوری قوم کو اخلاق کا درس ”آوازاخلاق“ کی تحریک سے دے گئے۔

مجھے ابا جان بھی بہت یاد آتے ہیں اور باتوں کے ساتھ ان کی سادگی، شفقت اور محبت بھی یاد آتی ہے۔ ابا جان نے جس طرح اپنی زندگی کو انسانوں کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنی زندگی اسی سانچے میں ڈھالوں۔ ابا جان کی خواہش بھی یہی تھی۔ جب ابا جان نے مجھے دفتر میں بٹھانا شروع کیا تو فرمایا: ”یہاں میں ابا جان نہیں ہوں اور تم ہمدرد کی کارکن ہو۔ تمہیں ہمدرد کو سب سے زیادہ اہمیت دینا چاہیے۔“

امی جان اور ابا جان دونوں ہی ہمیں اچھے انسان بنانا چاہتے تھے۔ ایسے انسان جو اپنے سے زیادہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ میری کوشش بھی یہی رہی ہے کہ میری بچیاں بھی ایسی اخلاقی خوبیوں سے مالا مال ہوں۔

تو نہالو! میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سب بھی بہت اچھے انسان بنیں۔

☆ ہمدرد نہال پڑھتے ہیں نا، یہ آپ کی مدد کرے گا۔

☆

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد نہال جون ۲۰۱۴ عیسوی	۳۵
----------	------------------------------------	----

گرمی

رفیع یوسفی محرم

گرمی آئی ، گرمی آئی

دھوپ سے بھاگو میرے بھائی!

دیکھو کتنی دھوپ کڑی ہے

اب کے برس بھی خوب پڑی ہے

اپنے سر پر کیپ سجاؤ

دھوپ سے اپنے سر کو بچاؤ

جب بھی گھر سے باہر جاؤ

ہاتھ میں چھتری لے کر جاؤ

گرمی میں بھی خوب مزے ہیں

چیزوں سے بازار سجے ہیں

رنگ برنگ گولا مٹھا

میٹھا میٹھا ، ٹھنڈا ٹھنڈا

شربت ، نسی پتے جاؤ

مزے مزے کی تقاضی کھاؤ

اچھی ، ستھری چیزیں کھاؤ

شکر خدا کا ، کرتے جاؤ

دھوپ ڈھلے پھر کرکٹ کھیلو

محرم کو بھی ساتھ میں لے لو

خاص نمبر

۳۶

ماہ نامہ ہمدرد توں ہال جون ۲۰۱۳ پیری



علم و رتبے

زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیے اور اچھی اچھی نظر تحریر کریں جو آپ پڑھیں، وہ صاف نقل کر کے یا اس تحریر کی فوٹو کاپی ہمیں بھیج دیں۔ مگر اپنے نام کے علاوہ اصل تحریر لکھنے والے کا نام بھی ضرور لکھیں۔

نعتِ رسولِ مقبولؐ

شاعر: فاضل عثمانی

پند: غفر اسمیل

لیا جب محمدؐ کا نام، اللہ اللہ
قرشتوں نے بھیجا سلام، اللہ اللہ
رسولوں میں مہر درخشاں کی صورت
تو نبیوں میں ماہِ تمام، اللہ اللہ
رکھی جس نے اسوہ پہ اُن کے نظر
ہوا دہر میں نیک نام، اللہ اللہ
غلاموں کا اُن کے، شرف پوچھنا کیا
بنے وہ جہاں کے امام، اللہ اللہ
رہا اُن کی صحبت میں جو چند ساعت
ملا اُس کو عیشِ دوام، اللہ اللہ
بدل حشر تک ہو سکے گا نہ جس کا
محمدؐ وہ نظام لائے، اللہ اللہ

نہیں ہے کسی بات کا اُس کو دھڑکا

جسے ورد ہے اُن کا نام، اللہ اللہ

نہ بھولیں گے فاضل تجھے ایک مدت

حرم کے قعود و قیام، اللہ اللہ

انصاف

مرسلہ: محمد حسیب عباسی، سکرم

حضرت عمر فاروقؓ کے دورِ خلافت میں
ان کے دو صاحبزادے بصرہ گئے۔ ان دنوں
بصرے کے گورنر حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ تھے۔
انہوں نے دونوں بھائیوں کو خزانے میں سے
کچھ رقم دے کر کہا کہ اس رقم سے مالِ تجارت
خرید کر مدینے لے جاؤ، وہاں فروخت کرنا، نفع
اپنے پاس رکھ لینا اور اصل رقم واپس بھیج
دینا۔ دونوں صاحبزادوں نے ایسا ہی کیا۔

حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو بیٹوں سے
پوچھا کہ کیا ابوموسیٰؓ کا باقی لوگوں کے ساتھ ایسا

ہی برتاؤ ہے یا تمہیں خلیفہ کے بیٹے سمجھ کر یہ سلوک کیا ہے؟

دونوں صاحبزادے خاموش رہے۔

چنانچہ حضرت عمرؓ نے اصل رقم اور نفع

دونوں سرکاری خزانے میں جمع کرا دیے۔

انسانیت

مرسلہ : محمد رضا علی سرگاندہ، ملتان

شیخ سعدیؒ کو ان کے والد نے

بچپن میں انگٹھی خرید کر دی۔ شیخ سعدیؒ

کہیں کھیل رہے تھے کہ کسی اچلے نے مٹھائی

کالا لچ دے کر انگٹھی اتار لی۔

باپ نے سنا تو کہا: "بیٹا! اتنی قیمتی

انگٹھی ایک دھیلے کی مٹھائی کی خاطر کھودی۔

خیر اب جو ہوا سو ہوا، مگر میری بات یاد رکھو،

جس طرح میں نے تمہیں انگٹھی دی، اسی

طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک موتی دیا ہے،

جس کا نام انسانیت ہے۔ دنیا کی چھوٹی

چھوٹی لذتیں مٹھائی کی طرح ہیں، جو

شیطان اُس اچلے کی طرح تمہارے واسطے

لیے پھرتا ہے، تاکہ وہ موتی تم سے چھین

لے۔ خبردار ایہ انمول موتی مت گنوانا۔"

مہکتی کلیاں

مرسلہ : ایمان شاہد، جہلم

◉ قدم، قلم اور قسم ہمیشہ سوچ کر اٹھاؤ۔

◉ آپ کے الفاظ ہی آپ کی شخصیت ہیں۔

◉ افراد اور اقوام تاریخ سے ہمیشہ اپنے

مزاج کے مطابق سبق حاصل کرتے ہیں۔

◉ شہید دوسروں کے لیے جان دیتا ہے اور

تنگی دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے۔

◉ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت آزماؤ،

جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔

◉ ہر لفظ سوچ سمجھ کر ادا کرو، کیوں کہ

کمان سے نکلا ہوا تیز کبھی واپس نہیں آتا۔

ڈاکٹر علامہ اقبال اور استاد

مرسلہ : ثناء غفیل، سیالکوٹ

شمس العلماء مولوی میر حسن ڈاکٹر علامہ

اقبال کے استاد تھے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال اپنے

استاد کا بے حد احترام کرتے تھے۔ علامہ اقبال

ہی کی سفارش پر حکومت نے مولوی صاحب کو

یہی کی سفارش پر حکومت نے مولوی صاحب کو



WWW.PAKSOCIETY.COM

WWW.PAKSOCIETY.COM

شس العلماء کا خطاب دیا۔ ایک دفعہ علامہ اقبال اپنے چند دوستوں کے ساتھ سیالکوٹ کے ایک بازار میں اس حالت میں بیٹھے تھے کہ صرف ایک پاؤں میں جوتا تھا۔ اچانک علامہ اقبال نے دور سے مولوی صاحب کو آتے دیکھا۔ وہ اسی حالت میں دوڑ کر ان کے پاس پہنچے، ادب سے سلام کیا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یہاں تک کہ وہ مولوی صاحب کو ان کے گھر پہنچا کر اپنے دوستوں کے پاس آگئے۔

عبدالستار ایڈمی

مرسلہ : عہبر کامران، کراچی
 ✨ محترم عبدالستار ایڈمی سب کی پسندیدہ شخصیت کا نام ہے۔

✨ عبدالستار ایڈمی بھارت کی ریاست گجرات کے قصبے بانٹوا میں ۱۹۲۱ء میں پیدا ہوئے۔

✨ جب عبدالستار ایڈمی بھارت سے ہجرت کر کے کراچی آئے تو اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال تھی۔

✨ ۱۹۵۰ء میں برادری کے لوگوں کے ساتھ مل کر "بانٹوا خدمت کمیٹی" اور "بانٹوا میمن کورڈ" کی بنیاد رکھی اور بہت تھوڑے عرصوں سے ایک چھوٹی سی ڈسپنری بھی بنائی۔

✨ ۱۹۹۷ء کی "گینز بک آف ورلڈ رکارڈ" میں ایڈمی ایسوسی ایشن دنیا کی سب سے بڑی رضا کار ایسوسی ایشن قرار پائی۔

سنہری باتیں

مرسلہ : شازیہ مختار، پنڈ وادان خان
 ✨ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجیے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔

✨ چپ زبنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے، جتنا بحث کرنا۔

✨ مصائب سے مت گھبراؤ، ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔

✨ حکمت اور دانائی مقلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔

خصوصاً مغلوں کے آخری دو سو سال (۱۶۵۷ء سے ۱۸۵۷ء) میں اردو بہت پروان چڑھی۔

محنت

شاعر : اسماعیل میرٹھی

پسند : سیدہ اریہ بٹول، سید وسیم حیدر شاہ

لیاری ٹاؤن، کراچی

مکڑی نے کیا جالا تا
آخر اُس نے کیوں کر جانا
کیا اچھا ، تا تا بنا
اس سے مجھ کو ملے گا کھانا
جس نے مکڑی پیرا کی ہے
اس نے اتنی عقل بھی دی ہے
روزی کا کیوں تجھ کو غم ہے؟
جب تک تیرے دم میں دم ہے
مکڑی سے بھی کیا تو کم ہے؟
ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے
یکھ لے بابا! علم و ہنر تو
محنت کر تو ، محنت کر تو

☆☆☆

☆ عبدالستار ایڈمی کی بے مثال زندگی ، نیک نامی اور عظیم کردار کے پیچھے ان کی "ماں" کی دعاؤں کا بہت اثر ہے۔

اردو زبان

مرسلہ : کول فاطمہ اللہ بخش، کراچی

- اردو کا لفظ ترکی زبان کے لفظ "اوردہ" سے نکلا ہے، جس کا مطلب پڑاؤ یا لشکر ہے۔
- اردو زبان کی ابتدا دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے ہوئی۔
- اردو تقریباً چار سو سال پرانی زبان ہے۔
- علم کا کوئی اہم موضوع ایسا نہیں، جس پر اردو میں تحریر موجود نہ ہو۔
- دنیا کی کئی مشہور یونیورسٹیوں میں اس اردو زبان سکھانے کے انتظامات موجود ہیں۔
- مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک میں اردو زبان سمجھی جاتی ہے۔ تحریک پاکستان کو فروغ دینے میں اردو نے اہم کردار ادا کیا۔ بعض مغربی ممالک میں تو اردو کے اخبارات بھی نکلتے ہیں۔
- برصغیر میں مسلمانوں کے دور حکومت

ادھر ادھر سے

آپ جانتے ہیں؟

مرسلہ : نادیا اقبال، کراچی

ہمارے بعض قصوں اور دیہاتوں کے نام بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں مثلاً ”چچو میاں کی ملیاں، بھائی پھیرو، میاں والی، محمد رحیم کلرا، تخت بھائی، ٹوبہ ٹیک سنگھ، کاہنا کا چھا وغیرہ، مگر یہ تو کچھ بھی نہیں۔ نیوزی لینڈ میں ایک گاؤں ہے اور یہاں ملک کے قدیم باشندے رہتے ہیں، جو ”مواری“ کہلاتے ہیں۔ ذرا اس گاؤں کا نام تو پڑھیے: ”ٹو امانا دھا کا ٹنگی منگا کو آو آ انا مانے اپوکائی دھنوا کی نان انا ہو“ یہ مذاق کی بات نہیں حقیقت ہے۔

گدھے سے اظہارِ محبت

مرسلہ : نضا فاروق، غریب آباد

قاہرہ میں دو مصری گلوکاروں کے درمیان گدھے سے اظہارِ محبت کے گانے

پر جھگڑا ہو گیا۔ گدھے کو اپنی شرافت، برداشت اور محنت کی وجہ سے مصری لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اسی لیے اپنے گانے میں گدھوں سے اظہارِ محبت کرتے ہیں۔ یہاں ایک دل چسپ واقعہ سامنے آیا، جس میں دو مصری گلوکار گدھے سے اظہارِ محبت کا ملتا جلتا گیت گانے کے بعد لڑ پڑے اور عدالت میں جا پہنچے۔ صغیر نامی مصری گلوکار نے عدالت میں پہلے دعوا کیا کہ اس نے چند روز پہلے گدھے سے اظہارِ محبت کا گیت گایا تھا، جس کے بول تھے: ”میں اپنے گدھے سے محبت کرتا ہوں۔“ جب کہ حال ہی میں عبدالرحیم نے یہ گانا اس طرح گایا: ”مجھے تم سے محبت ہے گدھے“

اس طرح دونوں گانوں کے الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ گدھے سے اظہارِ محبت کے گانے پر دونوں گلوکاروں کے

جھگڑے کو حقوق کے تحفظ کی تنظیم نے خاصا
اچھالا ہے۔

دادا کی کہانی

مرسلہ : تحریم خان، نارتھ کراچی

اچھوتا خیال

ٹوپی بیچنے والا درخت کے نیچے آرام
کر رہا تھا کہ اچانک کچھ بندروں نے اس کی
ساری ٹوپیاں اٹھائیں اور سر پر رکھ کر درخت
پر چڑھ گئے۔ بندر انسان کی نقل کرتے ہیں۔
یہ خیال آیا تو آدمی نے اپنی ٹوپی اُتار کے
نیچے پھینکی۔ بندروں نے بھی ویسا ہی کیا اور وہ
آدمی اپنی ٹوپیاں لے کر چلا گیا۔ گھر جا کر
اس نے یہ واقعہ اپنے پوتے کو سنایا۔

چند سال بعد اسی آدمی کا پوتا بھی
ٹوپیاں بیچتا ہوا اس درخت کے نیچے آ کر
بیٹھ گیا۔ بندر پھر ٹوپیاں اٹھا کر لے گئے۔
اسے اپنے دادا کی سنائی ہوئی بات یاد آ گئی
اور اس نے اپنے سر کی ٹوپی اُتار کر نیچے
پھینکی۔ ایک بندر نیچے آیا، ٹوپی اٹھائی اور
لڑکے کو ایک تھپڑ مار کر بولا: ”ٹو کیا سمجھتا
ہے، ہمارے دادا نے ہم کو ٹوپی والا واقعہ
نہیں سنایا ہوگا؟“

مرسلہ : مہک اکرم، لیاقت آباد
ایک شخص بیساکھیوں کے سہارے
چلا جا رہا تھا کہ راستے میں اُسے اپنا ایک
پُرانا دوست مل گیا۔ دوست کے پوچھنے پر
اُس نے بتایا کہ جس ٹرین میں وہ سفر کر
رہا تھا، دوسری ٹرین سے اس کی ٹکر ہو گئی۔
بہر حال، اس حادثے کی وجہ سے
اُسے دس ہزار روپے ملے اور اس کی
بیوی کو پانچ ہزار روپے۔

دوست نے پوچھا: ”تو کیا تمہاری
بیوی بھی زخمی ہوئی تھی؟“
اس شخص نے جواب دیا: ”وہ زخمی
ہوئی تو نہیں تھی، مگر اس افراتفری کے
عالم میں بھی مجھے اُس کے دانتوں پر ایک
زور دار لات جمانے کا خیال سوجھ
ہی گیا۔“

مادری زبان

مرسلہ : عائشہ اقبال، عزیز آباد

اردو زبان کے مشہور شاعر میراجی کا تعلق لاہور سے تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا: ”ان کی مادری زبان کون سی ہے؟“ انھوں نے سنجیدگی سے جواب دیا: ”میری مادری زبان اردو ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ میری والدہ میری مادری زبان نہیں سمجھتیں۔“

دشمن سے لڑائی میں

مرسلہ : لبتی جبین، کراچی

ورزی نے کہا: ”میں تمہارے بیٹے اڈھیڑ دوں گا۔“
قسائی نے کہا: ”میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔“
ڈینٹرنے نے کہا: ”میں تمہارے ڈینٹ نکال دوں گا۔“
مستری نے کہا: ”میں تمہارے نٹ کس دوں گا۔“
ڈرائیور نے کہا: ”میں تمہیں ٹائر کے نیچے کچل دوں گا۔“

دھوپ نے کہا: ”میں تمہیں نچوڑ کر رکھ دوں گا۔“
جادوگر نے کہا: ”میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔“

ملاح نے کہا: ”میں تمہیں غوطے دے دے کر مار دوں گا۔“

دودھ والے نے کہا: ”میں تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔“

انسان اور جانور

مرسلہ : امیر بیان، نارتھ کراچی

اشرف المخلوقات کے مقابلے میں جانور مندرجہ ذیل خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں:
☆ انھیں کبھی فکر نہیں ہوتی کہ گھڑی میں کیا بجا ہے۔

☆ وہ موت کے کسی احساس کے بغیر مر جاتے ہیں۔

☆ ان کے آخری لمحات غیر ضروری رسموں اور ناخوش گوار تقریبات سے محفوظ ہوتے ہیں۔

☆ ان کی تجبیز و تکفین پر کچھ خرچ نہیں ہوتا۔
☆ ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کی وصیت کے بارے میں مقدمے بازی نہیں کرتا۔



جمیل
جالبی
یا
اردو
ادب کی
تاریخ

مسعود احمد برکاتی

آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملاتا ہوں، جن کے کام سن کر آپ کو خوشی کے ساتھ کچھ حیرت بھی ہوگی۔ ان صاحب سے میری ملاقات تو کم کم ہوتی ہے، لیکن ان کے کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر حیران رہ جاتا ہوں، مگر یہ حیرت خوشی سے بھری ہوتی ہے اور خوشی کیوں نہ ہو، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ کتابیں کیا ہیں، ادب کے موتی ہیں۔ ان کتابوں میں سے کچھ کے نام آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے اس نادر شخصیت کا نام تو پڑھ لیجیے۔ جی ہاں، یہ ہیں ڈاکٹر جمیل جالبی۔

خاص نمبر | ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ء | ۳۵

WWW.PAKSOCIETY.COM

جیل صاحب کو علم کا شوق بچپن ہی سے ہے، انھوں نے نہ صرف کتابیں خوب پڑھیں بلکہ یہ بھی خیال رکھا کہ سندیں یا ڈگریاں بھی حاصل کریں۔ نونہال بھی جیل جالبی کے نام سے نامانوس نہیں ہیں۔ جالبی صاحب نے بڑی بڑی کتابوں کے علاوہ نونہالوں کے لیے کہانیاں بھی لکھی ہیں۔

ہمدرد نونہال میں آپ ان کی کہانیاں پڑھ چکے ہیں۔ جالبی صاحب کی بچوں کے لیے بھی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ مجھے تین کتابوں کے نام یاد ہیں:

(۱) حیرت ناک کہانیاں۔ ۱۹۸۳ء میں چھپی تھی۔

(۲) نہ ہوئی قرولی۔ ۱۹۹۳ء میں شائع ہوئی۔

(۳) بارہ کہانیاں۔ یہ کتاب ۱۹۹۸ء میں چھپی۔

جالبی صاحب نو عمری سے ہی مطالعے کے شوقین اور اچھی اچھی کتابیں پڑھنے کے عادی ہیں۔ انھوں نے نوجوانی ہی میں اردو کے عظیم ادیبوں، جیسے مولانا الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، مولانا محمد حسین آزاد اور ان کے بعد مجنوں گورکھپوری، نیاز فتح پوری، فراق گورکھپوری، پروفیسر احتشام حسین، اختر حسین رائے پوری، حسن عسکری جیسے اہم مصنفوں کی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں اور آج بھی اچھی اچھی اور بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ان کے علاوہ جالبی صاحب انگریزی کے بڑے بڑے مصنفوں کی کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح جالبی صاحب کا ذہن بہت کشادہ اور وسیع ہو گیا اور انھیں علم کے سمندر کے پھیلاؤ اور گہرائی کا کچھ کچھ اندازہ ہونے لگا۔ ڈاکٹر جیل جالبی کو ایم اے کے ساتھ ساتھ قانون کی ڈگری ایل ایل بی اور اس کے بعد پی ایچ ڈی اور ڈی لٹ کی ڈگریاں بھی ملیں۔ لیکن ان ڈگریوں نے ان کے ذہن پر یہ



منفی اثر نہیں ڈالا کہ اب مزید مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا۔ اصل میں جب انسان کا علم بڑھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے اب تک پڑھا ہے، وہ کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ اب تک نہیں پڑھا، وہ

بہت ہے، اس لیے مجھے ابھی اور پڑھنا چاہیے، اور وہ خوب پڑھتا ہے۔ جالبی صاحب کی یہی سوچ ہے، اس لیے وہ اب بھی اپنی دوسری مصروفیات کے باوجود مطالعہ ضرور کرتے ہیں۔ مشکل سے یقین آتا ہے کہ وہ بارہ بارہ گھنٹے مسلسل مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ لکھنے کا بھی یہی حال ہے۔ جالبی صاحب کا قلم بھی ان کے ذہن کا ساتھ دیتا ہے۔ اور وہ خوب لکھتے ہیں۔

جالبی صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان کے علاوہ جالبی صاحب نے اردو ادب کی ایک جامع اور مفصل تاریخ بھی لکھی ہے، جس کا نام ”تاریخ ادب اردو“ ہے، اس کی پانچ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ اپنی کم زور صحت کے باوجود انہوں نے اس کتاب پر کام جاری رکھا۔ مکمل ہو کر یہ کتاب ادبِ اردو کی ایک جامع اور مکمل تاریخ ہوگی اور لوگ اس سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ کتاب اردو کے طالب علموں کے لیے ہی نہیں عالموں کے لیے بھی مفید ہے۔ ہمارے بڑے بڑے ادیبوں اور نقادوں کی رائے یہ ہے کہ اردو ادب کی اتنی جامع تاریخ اب تک نہیں لکھی گئی تھی۔

جالبی صاحب کو ادب کے علاوہ تعلیم و تدریس سے بھی لگاؤ رہا ہے۔ سب سے پہلے انھوں نے کراچی کے ایک ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ وہ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ اس کے علاوہ محکمہ انکم ٹیکس میں انسر بھی رہے۔ اردو ڈکشنری بورڈ کے صدر بھی رہے۔ مقتدرہ قومی زبان کے سربراہ کی حیثیت سے بھی جالبی صاحب نے اردو زبان کی ترقی اور وسعت کے لیے اہم کام کیے۔

اہم سرکاری عہدوں پر کام کرنے کے باوجود جالبی صاحب نے اپنا خاص شوق یعنی مطالعہ اور کتابیں لکھنا نہ چھوڑا۔ مقتدرہ قومی زبان کی سربراہی کے زمانے میں انھوں نے ”قومی انگریزی اردو لغت“ بھی مرتب کرائی۔ انتظامی اور دفتری ذمے داریوں کو خوبی سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ قلم اور کاغذ سے تعلق رکھنا ایسی عجیب اور نادر خوبیاں ہیں جو اس دور میں تو بہت ہی نایاب ہیں۔

جالبی صاحب کے بارے میں یہ بات بھی پڑھ لیجیے کہ ان کے دادا سوات کے ایک گاؤں سیداں سے صوبہ یوپی میں آئے تھے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ نبیل صاحب علی گڑھ میں یکم جولائی ۱۹۲۹ء کو پیدا ہوئے۔ پھر والدین کے ساتھ سہارنپور آ گئے اور ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ جمیل صاحب نے میٹرک سائنس سے کیا اور والد نے ان کو فرسٹ ایئر سائنس میں میرٹھ کے ایک کالج میں داخل کرادیا، لیکن جمیل صاحب کو سائنس سے ذرا دل چسپی نہیں تھی۔ ان کا دل پڑھائی سے ہی اچاٹ ہونے لگا۔ آخر انھوں نے والد کو بتائے بغیر خاموشی سے سائنس چھوڑ کر آرٹس میں داخلہ لے لیا اور ان کے اصلی جوہر کھلنے لگے اور وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتے ہی گئے۔

تعلیم پوری کر کے روزی کے لیے جمیل صاحب نے سرکاری محکمے میں ملازمت کر لی، خوب ترقی کی اور انکم ٹیکس کے محکمے سے کمشنر کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے۔ اس

کے بعد وہ یکسوئی سے علم و ادب کے شعبوں میں سرگرم عمل رہے۔ اب جالبی صاحب کی پوری توجہ اپنی کتابوں کی تصنیف و تالیف پر مرکوز ہے، خاص طور پر "تاریخ ادب اردو" کو مکمل کرنے میں ہمتن مصروف ہیں۔

ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کی اہم تصانیف میں سے چند کے نام یہ ہیں: (۱) پاکستان کلچر (۲) تنقید اور تجربہ (۳) مثنوی کدم راؤ پدم راؤ (اردو کی سب سے پرانی کتاب کی تلاش اور نئی ترتیب) (۴) ارسطو سے ایلین تک (۵) جانورستان (ترجمہ) (۶) قدیم اردو کی لغت۔

جالبی صاحب کی زندگی کا اہم ترین مقصد علم و ادب کا فروغ ہے۔ اُن کی زندگی سادگی اور یکسوئی سے گزری ہے۔

جالبی صاحب کو حکومت پاکستان کی طرف سے کئی اعزازات ملے ہیں، جن میں سے "ہلال امتیاز" سب سے بڑا ہے۔

بعض نو نہال پوچھتے ہیں کہ رسالہ ہمدرد نو نہال ڈاک سے منگوانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی سالانہ قیمت ۳۸۰ روپے (رجسٹری سے ۵۰۰ روپے) منی آرڈر یا چیک سے بھیج کر اپنا نام پتہ لکھ دیں اور یہ بھی لکھ دیں کہ کس مہینے سے رسالہ جاری کرانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ رسالہ کبھی کبھی ڈاک سے کھو بھی جاتا ہے، اس لیے رسالہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اخبار والے سے کہہ دیں کہ وہ ہر مہینے ہمدرد نو نہال آپ کے گھر پہنچا دیا کرے ورنہ اشالوں اور دکانوں پر بھی ہمدرد نو نہال ملتا ہے۔ وہاں سے ہر مہینے خرید لیا جائے۔ اس طرح پیسے بھی اکٹھے خرچ نہیں ہوں گے اور رسالہ بھی جلد مل جائے گا۔

ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد ڈاک خانہ، ناظم آباد، کراچی

خاص نمبر

۵۰

ماہ نامہ ہمدرد نو نہال جون ۲۰۱۴ عیسوی

میں وعدہ کرتی ہوں

ڈاکٹر طاہر مسعود

کسی شہر میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ دونوں ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ بیوی غصے کی تیز اور میاں بے پروا تھے۔ میاں کبھی کوئی کام وقت پر نہیں کرتا تھا، جس پر بیوی کو غصہ آ جاتا تھا اور وہ اسے صلواتیں سنانے بیٹھ جاتی۔ اصل میں قصور وار دونوں ہی تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنا قصور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔

خدا کا کرنا یہ ہوا کہ شادی کے پانچ سال بعد ان کے ہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کا نام انھوں نے سرمد رکھا۔ سرمد ذرا بڑا ہوا تو بے حد ذہین نکلا۔ وہ اپنے ماں باپ کو لڑتے دیکھتا تو بہت حیران ہوتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے والدین چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیوں لڑ پڑتے ہیں۔ آخر وہ امن اور محبت کے ساتھ کیوں نہیں رہتے۔

سرمد سے ماں باپ دونوں کو بہت پیار تھا۔ آخر کیوں نہ ہوتا، وہ ان کا کلوتا بیٹا جو تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ سرمد اسکول جانے لگا۔ اس کا داخلہ تیسری جماعت میں ہوا۔ اس نے اپنی محنت اور ذہانت سے اسکول کے اساتذہ کے دل جیت لیے اور وہ بھی سرمد کو عزیز رکھنے لگے۔ وہ دوسرے بچوں کو سرمد کی ذہانت اور محنت کی مثالیں دینے لگے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود سرمد اکثر اُداس رہتا تھا۔ اس کی وجہ گھر کا ماحول تھا، جس سے وہ خوش نہیں تھا۔

اس نے کئی بار اپنے والدین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ آپس میں نہ لڑا کریں،

لیکن والدین بھلا کہاں ماننے والے تھے۔ جب سرمد کو صلح کرانے میں ناکامی ہوئی تو وہ اور زیادہ اُداس رہنے لگا۔ اب وہ کسی سے بھی زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا۔ چپ سا رہتا تھا۔ اس کی یہ کیفیت، اسکول میں اردو کی مس شہناز سے بھانپ لی۔ ایک دن جب پیریڈ ختم ہوا اور وہ بستہ اُٹھا کر کلاس روم سے باہر جانے لگا تو مس شہناز نے اسے آواز دی: ”سرمد! ادھر آؤ۔“

”جی مس!“ اس نے سعادت مندی سے کہا۔

”کیا بات ہے سرمد! آج کل تم اتنے خاموش کیوں رہتے ہو۔ آج کل تم نہ ہنستے بولتے ہو، نہ کھیل کود میں حصہ لیتے ہو۔ سچ بتاؤ کیا بات ہے۔ دیکھو مجھ سے کچھ چھپانا نہیں، میں تمہاری مس ہوں۔“

ہمدردی کے یہ بول سن کر سرمد کا جی بھرا آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خساروں پہ بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر مس شہناز نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور بولیں: ”کیا کسی نے تم سے کچھ کہا ہے۔ آخر تم رو کیوں رہے ہو؟“

”نہیں مس! مجھ سے کسی نے کچھ نہیں کہا۔“ سرمد نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔

”تو پھر کیا بات ہے۔ آخر تم بتاتے کیوں نہیں۔“

اس پر سرمد نے مس شہناز کو گھر کی ساری صورت حال بتادی۔ یہ سب کچھ سن کر مس شہناز بھی گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ انھوں نے کہا: ”بیٹے! یہ تو بڑی بُری بات ہے۔ تمہارے بڑوں کو آپس میں اس طرح لڑنا نہیں چاہیے، مگر خیر تم اطمینان رکھو۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی۔“

www.PAKSOCIETY.COM

مس شہناز نے سرد سے اس کے گھر کا پتا پوچھا اور کہا کہ وہ اس سلسلے میں گھر میں کچھ نہ بتائے۔

اتوار کے دن سرد گھر میں اُداس بیٹھا تھا۔ اس کے ابو اخبار پڑھ رہے تھے اور امی باورچی خانے میں کام کر رہی تھیں۔ سرد کی اُداسی کی وجہ یہ تھی کہ صبح ہی ناشتے کی میز پر اس کی امی اور ابو میں لڑائی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں کو لڑنے بھڑنے سے روکنے کی کوشش کی تو اُلٹی اسے ڈانٹ پڑ گئی۔ اس بے وجہ کی ڈانٹ سے اس کا دل بُرا ہو گیا تھا اور وہ سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ گھر چھوڑ کر کہیں چلا جائے۔ یکا یک کال بیل بج اُنھی۔ وہ اُٹھ کر دروازے پہ گیا تو مس شہناز کھڑی تھیں۔

”کیا تمہارے امی ابو گھر پر ہیں؟“ انھوں نے پوچھا۔

”ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لڑ کر فارغ ہوئے ہیں۔“ سرد نے جواب دیا۔

سرد نے مس شہناز کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اپنے امی ابو کو مس کے آنے کی اطلاع دی۔ ابو ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو مس شہناز اپنی نشست سے اُٹھ کر کھڑی ہوئیں۔

”کیا آپ ہی سرد کے ابو ہیں؟“ انھوں نے پوچھا۔

”جی ہاں، فرمائیے، آپ نے کیسے زحمت کی۔“ سرد کے ابو نے کہا۔

”آپ اپنی بیگم کو بھی بلا لیں۔ مجھے آپ دونوں سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔“

مس شہناز بولیں۔

امی آئیں تو ان کا مزاج خراب تھا۔ انھوں نے بڑی سرد مہری سے مس شہناز سے

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد تو نہال جون ۲۰۱۴ عیسوی

۵۳



ہاتھ ملایا۔

”سرمد بیٹے! آپ ذرا کمرے سے باہر جائیں۔“ مس شہناز نے کہا۔

سرمد سعادت مندی سے کمرے سے نکل گیا۔ دونوں میاں بیوی اس ہدایت پر حیران ہوئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مس شہناز کیوں آئی ہیں؟ وہ کیا چاہتی ہیں؟ اور انہوں نے سرمد کو کمرے سے باہر نکل جانے کو کیوں کہا ہے۔

”بات یہ ہے۔“ مس شہناز نے کہا: ”میں آپ دونوں سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے سرمد نے بتایا ہے کہ آپ دونوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے اور آپ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ سرمد نے اس بات کا گہرا اثر لیا ہے۔ پہلے وہ کلاس میں ہنستا بولتا تھا، چبکتا تھا۔ اب وہ چپ چپ رہنے لگا ہے۔ دیکھیے! سرمد آپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ آپ لوگ کم از کم اسی کی خاطر آپس میں نہ لڑا کریں۔“

یہ سن کر سرمد کے والد نے سر جھکا لیا، لیکن اس کی امی بگڑ کر بولیں: ”آپ ہمارے گھریلو معاملے میں دخل دینے والی کون ہوتی ہیں۔ ہم لڑیں یا مریں۔ ہم جانیں اور ہمارا کام۔“

”دیکھیے ناراض نہ ہوں۔“ مس شہناز نے کہا: ”میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ اگر آپ لوگ یوں ہی لڑتے رہے تو سرمد ایک دن نفسیاتی مریض بن جائے گا۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔“

اس بات پر سرمد کی امی ٹھنڈی پڑیں اور کہنے لگیں: ”میں کہاں لڑتی ہوں۔ یہ ان کے ابو ہیں جو کوئی کام وقت پر نہیں کرتے۔ کام نالمانا ان کی عادت ہے۔ اس پر مجھے غصہ آ جاتا ہے اور یوں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔“

خاص نمبر | ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ء | ۵۴

سرمد کے ابو بولے: ”میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ ان سے بھی کہیں کہ یہ ہر وقت غصہ نہ کیا کریں۔“

”میں غصہ کرتی ہوں۔“ سرمد کی امی تیز لہجے میں بولیں: ”آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ اپنی حرکتیں نہیں دیکھتے۔“

”میں کہتا ہوں بیگم! زبان سنبھال کر بات کرو۔“ سرمد کے ابو نے بھی تیز لہجے میں کہا۔

”زبان تم سنبھالو۔ میں نے ایسی کیا بات کہہ دی۔“ سرمد کی امی بولیں۔

مس شہناز نے جو یہ منظر دیکھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ ان کے تند و تیز جملوں سے جو شور ہوا تو سرمد نے اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر وہی کچھ ہو رہا تھا، جس کا مشاہدہ کئی برسوں سے کر رہا تھا۔

جب دونوں چپ ہوئے تو مس شہناز بولیں: ”معاف کیجئے گا، آپ دونوں کی لڑائی دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ آپ دونوں اس قابل نہیں ہیں کہ سرمد آپ کے ساتھ رہے۔ سرمد کی خاطر اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ یہ میرے ساتھ رہے گا۔ آپ کے درمیان رہ کر خدا نہ کرے اس لڑکے کا ذہنی توازن بگڑ جائے گا۔“

یہ سن کر ماں باپ دونوں سکتے میں آگئے۔ سرمد کی امی بولیں: ”بچہ ہمارا ہے۔ آپ کون ہوتی ہیں، اسے ساتھ لے جانی والی۔“

اسی لیے تو میں آپ سے اجازت مانگ رہی ہوں۔“ مس شہناز نے دھیرے سے کہا۔

اتنے میں سرمد اندر داخل ہوا۔ اس نے مس شہناز کا ہاتھ پکڑا اور کہا: ”مس!

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ء عیسوی ۵۵

خاص نمبر

آئیے چلتے ہیں۔ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔“
 یہ دیکھ کر تو سرمد کی امی کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے: ”سرمد! میرا بیٹا..... کیا تو مجھے
 چھوڑ کر چلا جائے گا؟“

انہوں نے سرمد کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔
 ”تو پھر آپ لوگ وعدہ کریں کہ آئندہ ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے۔“
 ”میں وعدہ کرتی ہوں۔“ سرمد کی امی نے بے اختیار سرمد کا منہ چومتے ہوئے کہا۔
 بیوی کے الفاظ سن کر سرمد کے ابو نے بھی سرمد کو گود میں لے کر پیار سے چمٹا لیا۔
 ان کا پیار دیکھ کر مس شہناز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ ☆

کہیں چلا نہ جائے

ایک لڑکے نے الیکٹرونکس کی دکان میں فون کر کے پوچھا: ”آپ کے پاس فرج ہے؟“
 دکان دار نے جواب دیا: ”ہاں ہے۔“

لڑکے نے کہا: ”چل رہا ہے؟“

دکان دار نے کہا: ”جی، چل رہا ہے۔“

لڑکا بولا: ”پکڑ کر رکھیے، کہیں بھاگ نہ جائے۔“ اور فون رکھ دیا۔

تھوڑی دیر بعد لڑکے نے پھر فون کیا۔ دکان دار نے اٹھایا تو وہی لڑکا بولا: ”فرج ہے؟“

دکان دار نے آواز پہچان کر غصے سے کہا: ”نہیں ہے۔“

لڑکا بولا: ”میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پکڑ کر رکھیے، کہیں چلا نہ جائے۔“

مرسلہ: مریم عبدالرب، کراچی



ہائے سولن!

امجد علی امجد

یونان میں "سولن" نامی ایک شخص گزرا ہے۔ وہ ایک مانا ہوا قانون دان، فلسفی اور شاعر تھا۔ ایک بار قبرص کے بادشاہ "کریس" نے سولن کو اپنے محل میں آنے کی دعوت دی۔ سولن نے دعوت قبول کر لی۔ ملاقات کے دن بادشاہ اپنا قیمتی لباس جس میں ہیرے جواہر جڑے ہوئے تھے، پہن کر تخت پر جلوہ افروز ہوا اور پورے شاہانہ انداز سے سولن کا انتظار کرنے لگا۔ سولن آیا اور اطمینان و بے نیازی سے بادشاہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے بادشاہ کے تکبر اور شان و شوکت پر کوئی توجہ نہ دی۔ بادشاہ بے چین ہو گیا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا: "سولن کو ہمارے خزانے دکھائے جائیں۔"

وزیر نے سولن کے سامنے سونے چاندی اور ہیرے موتیوں کا ڈھیر لگوا دیا۔ یہ چمک دکھ بھی سولن کو متاثر نہ کر سکی۔ وہ بے پروا بیٹھا رہا۔ بادشاہ سے نہ رہا گیا۔ اس نے بلند آواز سے سولن کو مخاطب کیا: "سولن! تم یونان کے نام در فلسفی ہو، بتاؤ تمہارے نزدیک دنیا کسب سے خوش نصیب آدمی کون ہے؟"

سولن نے یہ دُعا لے لے کر کہا: "اے بادشاہ! میرے ملک میں "ٹیلیس" نام کا ایک آدمی بہت خوش نصیب تھا۔ وہ بہادر، نیک، خوش اخلاق اور چھٹے بچوں کا باپ تھا۔ اس نے اپنے وطن کی خاطر لڑتے لڑتے جان دے دی۔"

"اس کے بعد دوسرا سب سے خوش نصیب آدمی کون ہے؟" بادشاہ نے پوچھا۔

سولن نے کہا: "دو بھائی سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ انہوں نے اپنی ماں کی

خدمت کرتے کرتے جان دی۔“

بادشاہ غصے میں آ گیا: ”کیا تم ہمیں خوش نصیب نہیں سمجھتے؟“

سولن نے وضاحت کی: ”خوش نصیب وہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ خوش نصیبی زندگی کے آخری لمحے تک رہے۔ جس کی زندگی ابھی ختم نہ ہوئی ہو، اس کے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ انسان کی زندگی ہمیشہ ایک ہی حالت پر برقرار نہیں رہتی۔“

بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے سولن کے ساتھ انتہائی نفرت و حقارت کا سلوک کیا۔ کچھ عرصے بعد شہنشاہ سائرس نے قبرص فتح کر لیا اور بادشاہ کریس کو زندہ جلا دینے کا حکم دیا۔ کریس کو جلانے کے لیے لکڑیوں پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی: ”ہائے سولن!“

فاتح شہنشاہ نے ہاتھ اٹھا کر کارروائی اچانک روک دی اور کریس کے قریب جا کے سوال کیا: ”ہائے سولن، سے تمہاری کیا مراد ہے؟“ کریس نے اسے پورا واقعہ سنا دیا۔ سائرس یہ واقعہ سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے کریس کی جان بخش دی اور اس کے ساتھ عزت و کرم سے پیش آیا۔

ریاضی کا ایک کھیل

۲۵۹ کو اپنی عمر سے ضرب دیں۔ جو جواب آئے اس کو ۳۹ سے ضرب دیں۔ آپ کی عمر ۳ بار نظر آئے گی۔
مثلاً اگر آپ کی عمر ۱۰ سال ہے تو ۱۰ کو ۲۵۹ سے ضرب دیں۔ جواب آئے گا: ۲۵۹۰۔ اب اس عدد کو ۳۹ سے ضرب دیں تو آپ کی عمر کا عدد تین بار نظر آئے گا۔ دیکھیے: $۱۰ \times ۲۵۹ = ۲۵۹۰$ ۔
مرسلہ: فرازیہ اقبال، کراچی



بیت بازی

مطلبن ایسا کہ رہتا ہوں ہجوم شہر میں
مضطرب ایسا کہ سائے سے بھی ڈر جاتا ہوں

شاعر: امیر نقیس پند: محمد سرور، میر پور خاص

حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا
لوگ ٹھیرے نہیں حادثہ دیکھ کر

شاعر: عنایت علی خاں پند: شائم عمران، کراچی

نہیں رازداں سے شکوہ، مگر اتنا جانتا ہوں
نہ میں دل کی بات کہتا، نہ جہاں میں خوار ہوتا

شاعر: منہا سہارنپوری پند: محمد طلحہ، لاہور

پھر ہوا یوں کہ مجھ پہ ہی دیوار آگری
لیکن نہ کھل سکا، پس دیوار کون ہے

شاعر: نجیب احمد پند: اسد اسحاق، نارنگ پور کراچی

لا کے ماتھے پہ شکن، وقت سے کھجوتا کیا
غم کی تاریخ کے ہم اتنے گنہگار ہوئے

شاعر: نازش حیدری پند: لقی کامران، محمود آباد

کون سی بستی ہے ذرا آنکھ تو فل کر دیکھو
بیز ہر راہ میں موجود، مگر چھاؤں نہیں

شاعر: بیات لواز پند: دما قرآن، بفرزوں

اپنی خامیوں کو پس پشت ڈال کر
ہر شخص کہہ رہا ہے، زمانہ خراب ہے

شاعر: خالد محمود پند: حانور، کراچی

مشقت کی ذلت جنھوں نے اٹھائی
جہاں میں ملی ان کو آخر بوائی

شاعر: سولانا اللاف مسین حالی پند: سیدہ ادریسہ، کراچی

دیرانیاں دلوں کو بھی کچھ کم نہ تھیں ادا
کیا ڈھونڈنے گئے ہیں مسافر خلاؤں میں

شاعرہ: ادا جعفری پند: لطافا روقی، لیاقت آباد

تکست و تلخ مرا مسئلہ نہیں ہے فراز
میں زندگی سے نبرد آزما رہا، سو رہا

شاعر: احمد فراز پند: روینہ زار، کراچی

میری فطرت، میرا ملک، میرا غشاہی ہے
آوی جتنے بھی ہیں، انسان بن جائیں سبھی

شاعر: نجیب احمد پند: سیدہ ادریسہ، سولانا اللاف، کراچی

وہ کون ہے دنیا میں جسے غم نہیں ہوتا
کس گھر میں خوشی ہوتی ہے ماتم نہیں ہوتا

شاعر: ریاض خیر آبادی پند: درینا کلیل، کریم آباد

میں اپنی نیکیاں کرتا چلوں کسی کے نام
مرے گناہوں میں شاید کوئی کی آئے

شاعر: عارف شفیق پند: ناجیہ نسیم، کراچی

خود غرض، اہل ہوس، جھوٹے، منافق، بے وفا
کس قدر مشکل ہے جینا، اتنے بیماروں کے بیچ

شاعر: انسراہ پوری پند: اکرم وارثی، لیاقت آباد

تاریخوں کا اتفاق

غلام حسین مبین

۱۳- ستمبر ۷۸۶ء (بہ مطابق ۱۵ ربیع الاول ۱۷۰ھ) اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس تاریخ کو ایک عباسی خلیفہ ہادی کا انتقال ہوا، ایک عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے امور مملکت سنبھالا اور مستقبل کے عباسی خلیفہ مامون الرشید نے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔

مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ اس تاریخ کو چوتھے عباسی خلیفہ ہادی کا ایک سال تین ماہ خلیفہ رہنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ ہادی کا اصل نام موسیٰ تھا۔ پانچویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے خلافت سنبھالی اور اسی رات ترتیب کے اعتبار سے ساتویں خلیفہ مامون الرشید کی پیدائش عمل میں آئی۔ مامون کی عمر بہ مشکل چار دن ہی تھی کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ مامون، ہارون الرشید کا بیٹا تھا۔

۱۱- ہندستان کی تاریخ میں ۱۷۱۹ء (۱۱۳۱ھ) کا سال اس اعتبار سے اہم رہا ہے کہ اس سال تین بادشاہوں کو حکومتیں ملیں۔ یہ تین بادشاہ رفیع الدرجات، رفیع الدولہ اور روشن اختر تھے۔

۱۲- علامہ شبلی نعمانی اردو کے صاحب طرز ادیب اور عالم تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی کتاب "سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم" ہے۔ یہ ابھی تک مکمل تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں ان کے لایق ترین شاگرد سید سلیمان ندوی نے یہ کتاب مکمل کی۔

۱۳- علامہ شبلی نعمانی جس سال پیدا ہوئے وہ ۱۸۵۷ء کا سال تھا۔ جب ہندستان کے مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی تھی۔ یہ جنگ ناکامی پر ختم ہوئی۔ حسن اتفاق کہ علامہ شبلی

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ء عیسوی

۶۰

نعمانی کا انتقال ۱۹۱۳ء میں ہوا تو وہ سال پہلی عالمگیر جنگ کے آغاز کا سال تھا۔

☆ علامہ محمد اقبال ۹ نومبر ۱۸۷۷ء کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس طرح ۹ نومبر علامہ محمد اقبال کی سالگرہ کا دن اور یہی تاریخ ان کی والدہ کی تاریخ وفات بھی ہے۔ ان کی والدہ امام بی بی کا ۹ نومبر ۱۹۱۳ء کو سیالکوٹ میں انتقال ہوا۔ علامہ اقبال انھیں ”بے جی“ کے نام سے پکارتے تھے۔ والدہ سے محبت کا اظہار ان کی ۸۶ اشعار پر مشتمل نظم ”والدہ مرحومہ کی یاد میں“ میں بھی ملتا ہے، جو علامہ محمد اقبال کے شعری مجموعے بانگِ درا میں شامل ہے۔ اس کا آخری شعر ہے:

آسماں تیری لحد پر شبِ نیم افشانی کرے

بجز نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

☆ ۱۱۔ ستمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا تھا۔ قائد اعظم پر اخبارات میں کئی مضامین لکھنے اور ان کی سوانحی کتابیں لکھنے کا اعزاز حاصل کرنے والے رضوان احمد کا انتقال بھی ۱۱۔ ستمبر ہی کو ہوا۔ عیسوی سنہ ۲۰۱۲ء تھا۔ ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ اللہ کرے میرا انتقال بھی میرے قائد کی برسی کے دن ہو، تاکہ اس بہانے میں یاد رکھا جاؤں۔

☆ ۱۶ جنوری کو تحریک پاکستان کے ۲ رہنماؤں کا انتقال ہوا۔ ۱۶ جنوری ۱۹۱۵ء کو مسلم لیگ کے بانی رکن نواب سلیم اللہ خان کا انتقال ہوا۔ دوسرے راہنما حسن امام تھے۔ ان کا انتقال ۱۶۔ جنوری ۱۹۸۵ء کو ہوا۔ وہ مسلم لیگ کی مختلف کمیٹیوں کے رکن اور ۱۹۹۶ء کے عام انتخاب میں مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔

☆ ۱۶۔ اکتوبر تحریک پاکستان کے دو رہنماؤں کی تاریخ وفات ہے۔ ایک نواب

محسن الملک، جو سر سید احمد خاں کے ساتھیوں میں سے تھے۔ انھوں نے ۱۶- اکتوبر ۱۹۰۷ء کو انتقال فرمایا اور دوسرے قائد ملت لیاقت علی خاں تھے، جنھیں ۱۶- اکتوبر ۱۹۵۱ء کو راولپنڈی کے جلسہ عام میں شہید کر دیا گیا۔

☆ تحریک پاکستان کے دور ہنما ایسے بھی ہیں، جن کی ایک ہی ماہ میں تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات آتی ہے۔ ان میں ایک تو نواب زادہ لیاقت علی خاں ہیں، جو یکم اکتوبر ۱۸۹۵ء کو کرنال میں پیدا ہوئے اور ۱۶- اکتوبر ۱۹۵۱ء کو انھوں نے راولپنڈی میں شہادت پائی۔ دوسری شخصیت مادرِ ملت محترمہ فاطمہ جناح ہیں، جنھوں نے ۳۱ جولائی ۱۸۹۳ء کو کراچی میں آنکھ کھولی اور ۹ جولائی ۱۹۶۷ء کو اسی کراچی میں وفات پائی۔ ☆

کتوں کو پینشن دینے کا فیصلہ

انسانوں کو تو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کا حق دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ برطانیہ میں اب انسانوں کے ساتھ ساتھ پولیس کے کتوں کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن دی جائے گی۔ برطانیہ کے ایک علاقے نوٹنگھم شائر کے پولیس افسروں نے اپنے کتوں کو افسر کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے انھیں ریٹائرمنٹ کے وقت ۱۵۰۰ پاؤنڈ پینشن دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نوٹنگھم شائر کی پولیس برطانیہ کی پہلی پولیس فورس بن گئی ہے، جس نے انھیں پینشن دینے کا فیصلہ کر کے تربیت یافتہ کتوں کو مجرم پکڑنے میں ان کے کردار کو تسلیم کر لیا ہے۔

مرسلہ : علی بن یونس

ایک چیل کی کہانی

ڈاکٹر جمیل جالبی

بچو! یہ اس چیل کی کہانی ہے، جو کئی دن سے ایک بڑے سے کبوتر خانے کے چاروں طرف منڈلا رہی تھی اور تاک میں تھی کہ اڑتے کبوتر پر جھپٹا مارے اور اسے لے جائے، لیکن کبوتر بھی بہت پھرتیلے، ہوشیار اور تیز اڑان تھے۔ جب بھی وہ کسی کو پکڑنے کی کوشش کرتی وہ پھرتی سے بچ کر نکل جاتا۔ چیل بہت پریشان تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔

آخر اس نے سوچا کہ کبوتر بہت چالاک، پھرتیلے اور تیز اڑان ہیں۔ کوئی اور چال چلنی چاہیے۔ کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے کہ وہ آسانی سے اس کا شکار ہو سکیں۔ چیل کئی دن تک سوچتی رہی۔ آخر اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ کبوتروں کے پاس گئی۔ کچھ دیر اسی طرح بیٹھی رہی اور پھر پیار سے بولی:

”بھائیو! اور بہنو! میں بھی تمہاری طرح دو پیروں اور دو پنڈوں والا پرندہ ہوں۔ تم بھی آسمان پر اڑ سکتے ہو۔ میں بھی آسمان پر اڑ سکتی ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میں بڑی ہوں اور تم چھوٹے ہو۔ میں طاقت ور ہوں اور تم میرے مقابلے میں کم زور ہو۔ میں دوسروں کا شکار کرتی ہوں، تم نہیں کر سکتے۔ میں بلی کو حملہ کر کے زخمی کر سکتی ہوں اور اسے اپنی نوکیلی چونچ اور تیز پنچوں سے مار بھی سکتی ہوں۔ تم یہ نہیں کر سکتے۔ تم ہر وقت دشمن کی زد میں رہتے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ پوری طرح تمہاری حفاظت کروں، تاکہ تم ہنسی خوشی، آرام اور اطمینان کے ساتھ اسی طرح رہ سکو، جس طرح پہلے زمانے میں رہتے تھے۔ آزادی تمہارا پیدا ہونے کا حق ہے اور آزادی کی حفاظت میرا فرض ہے۔ میں تمہارے لیے ہر وقت پریشان رہتی ہوں۔ تم ہر وقت باہر کے خطرے سے ڈرے رہتے ہو۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ تم سب مجھ سے ڈرتے ہو۔“

بھائیو! اور بہنو! میں ظلم کے خلاف ہوں۔ انصاف اور بھائی چارے کی حامی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ انصاف کی حکومت قائم ہو۔ دشمن کا منہ پھیر دیا جائے اور تم سب ہر خوف سے آزاد، اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کر سکو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے میرے درمیان ایک سمجھوتا ہو۔ ہم سب عہد کریں کہ ہم مل کر امن کے ساتھ رہیں گے۔ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور آزادی کی زندگی بسر کریں گے، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ تم دل و جان سے مجھے اپنا بادشاہ مان لو۔ جب تم مجھے اپنا بادشاہ مان لو گے اور مجھے شاہی حقوق اور پورا اختیار دے دو گے تو پھر تمہاری حفاظت اور تمہاری آزادی پوری طرح میری ذمہ داری ہوگی۔ تم ابھی سمجھ نہیں سکتے کہ پھر تم کتنے آزاد اور کتنے خوش و خرم رہو گے۔ اسی کے ساتھ آزادی، چین اور سکون کی نئی زندگی شروع ہوگی۔“

چیل روز وہاں آتی اور بار بار بڑے پیار محبت سے ان باتوں کو طرح طرح سے دہراتی۔ رفتہ رفتہ کبوتر اس کی اچھی اور میٹھی میٹھی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ ایک دن کبوتروں نے آپس میں بہت دیر مشورہ کیا اور طے کر کے اسے اپنا بادشاہ مان لیا۔

اس کے دو دن بعد تخت نشینی کی بڑی شان دار تقریب ہوئی۔ چیل نے بڑی شان سے حلف اٹھایا اور سب کبوتروں کی آزادی، حفاظت اور ہر ایک سے انصاف کرنے کی قسم کھائی۔ جواب میں کبوتروں نے پوری طرح حکم ماننے اور بادشاہ چیل سے پوری طرح وقادار رہنے کی دل سے قسم کھائی۔

بچو! پھر یہ ہوا کہ کچھ دنوں تک چیل کبوتر خانے کی طرف اسی طرح آتی رہی اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتی رہی۔ ایک دن بادشاہ چیل نے ایک پلے کو وہاں دیکھا تو اس پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا زبردست حملہ کیا کہ پلا ڈر کر بھاگ گیا۔ چیل اکثر اپنی



میٹھی میٹھی باتوں سے کبوتروں کو لبھاتی اور انہیں حفاظت اور آزادی کا احساس دلاتی۔
اسی طرح کچھ وقت اور گزر گیا۔ کبوتر اب بغیر ڈرے اس کے پاس چلے جاتے۔ وہ
سب آزادی اور حفاظت کے خیال سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔

ایک صبح کے وقت جب کبوتر دانہ چنگ رہے تھے، چیل ان کے پاس آئی۔ وہ کم زور
دکھائی دے رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بیمار ہے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ میٹھی رہی اور پھر
شاہانہ آواز میں بولی: ”بھائیو! اور بہنو! میں تمہاری حکمران ہوں۔ تم نے سوچ کچھ کر مجھے
اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ میں تمہاری حفاظت کرتی ہوں اور تم چین اور امن سے رہتے ہو۔ تم
جانتے ہو کہ میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ یہ میرا شاہی اختیار ہے کہ جب میرا جی چاہے

اپنی مرضی سے تم میں سے ایک کو پکڑوں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ میں آخر کب تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتی ہوں؟ میں کب تک تمہاری خدمت اور تمہاری حفاظت کر سکتی ہوں؟ یہ صرف میرا ہی حق نہیں ہے کہ میں تم میں سے جس کو چاہوں پکڑوں اور کھا جاؤں، بلکہ یہ میرے سارے شاہی خاندان کا حق ہے۔ آخر وہ بھی تو میرے ساتھ



مل کر تمہاری آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس دن اگر اس بڑے سے چلے پر میں اور میرے خاندان والے مل کر حملہ نہ کرتے تو وہ یقیناً نہ معلوم تم میں سے کتنوں کو کھا جاتا اور کتنوں کو زخمی کر دیتا۔“

یہ کہہ کر بادشاہ جیل قریب آئی اور ایک موٹے سے کبوتر کو پنچوں میں دبوج کر



لے گئی۔ سارے کبوتر منہ دیکھتے رہ گئے۔

اب بادشاہ چیل اور اس کے خاندان والے روز آتے اور اپنی پسند کے کبوتر کو پنچوں میں دبوج کر لے جاتے۔

اس تباہی سے کبوتر اب ہر وقت پریشان اور خوف زدہ رہنے لگے۔ ان کا چین اور سکون مٹ گیا تھا۔ ان کی آزادی ختم ہو گئی۔ وہ اب خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ سمجھنے لگے اور کہنے لگے: ”ہماری بے وقوفی کی یہی سزا ہے۔ آخر ہم نے چیل کو اپنا بادشاہ کیوں بنایا تھا؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟“

☆☆☆

	۶۷	ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ عیسوی	خاص نمبر
--	----	--------------------------------------	----------

محنت کا پھل

فضیلہ کشمالہ ڈکاء بھٹی



پرانے زمانے کا ذکر ہے کسی ملک کے ایک گاؤں میں ایک غریب اور بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کے تین بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک کی عمر نو سال، دوسرے کی دس سال اور تیسرے کی بارہ سال تھی۔

غریب عورت کپڑے پر ریشم کے دھاگوں سے بہت خوب صورت پھول چٹیاں بناتی اور یہ کپڑا شہر لے جا کر بیچ ڈالتی۔ اس سے وہ اپنا اور اپنے تینوں بیٹوں کا پیٹ پالتی۔ تینوں لڑکے گاؤں کے ایک اسکول میں پڑھتے تھے۔

ایک دن غریب عورت بازار میں کپڑا بیچ کر کھانے پینے کی چیزیں خریدنے جا رہی

خاص نمبر

ماہنامہ بہار دونہال جون ۲۰۱۴ء ۶۹

تھی کہ راستے میں تصویروں کی ایک دکان پر اس نے ایک بہت خوب صورت تصویر دیکھی۔ تصویر میں ایک خوش نما محل بنا ہوا تھا۔ محل میں بہت ہی خوب صورت باغچہ تھا، جس میں رنگ برنگے پھولوں اور پھلوں کے پودے اور درخت تھے۔ ایک طرف بہت سے پرندے اور دوسری طرف ہرن کھڑے تھے۔ یہ سب اصلی معلوم ہو رہے تھے۔ عورت کو یہ تصویر بہت پسند آئی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں کپڑے پر اس تصویر جیسا محل اور باغچہ کا ڈھ لوں تو کیسا اچھا لگے گا۔ یہ سوچ کر اس نے تصویر خرید لی۔ وہ عورت جب گھر آ رہی تھی تو اسے راستے میں خیال آیا، کیسا اچھا ہوتا اگر اس کے پاس ایک ایسا ہی خوب صورت محل ہوتا۔ وہ کتنے آرام چھین سے اس میں رہتی، مگر یہ سب باتیں خواب کی طرح تھیں۔

جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اپنے بیٹوں کو وہ تصویر دکھائی۔ انہیں بھی تصویر پسند آئی اور سب نے اس کی بہت تعریف کی۔ اب اس عورت نے ایک بڑا سا کپڑا لے کر اس پر ریشم کے رنگین دھاگوں سے یہ محل بنانا شروع کر دیا۔ ایک سال گزر گیا، مگر محل تیار نہ ہو سکا۔ اس نے ہمت نہ باری اور رات دن محنت کر کے محل اور باغ کی تصویر کاڑھتی رہی۔ اس دوران وہ تھوڑا بہت دوسرا کڑھائی کا کام کر کے اپنے بیٹوں کو دے دیتی اور وہ بازار میں بیچ کر اس سے کھانے پینے کی چیزیں خرید لیتے۔

بڑی محنت مشقت کے بعد تین سال میں یہ تصویر مکمل ہوئی، جو اصلی تصویر سے بھی زیادہ خوب صورت تھی۔ وہ اس کپڑے کو پھیلا کر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کپڑے کو اڑا کر لے گیا۔ عورت اور اس کے بیٹوں نے بہت کوشش کی کہ اس کپڑے کو پکڑ لیں، مگر وہ آسمان میں مشرق کی طرف اڑتا چلا گیا۔ اس عورت کو بے حد

رنج ہوا اور وہ اپنی تین سال کی محنت کو یوں جاتے ہوئے دیکھ کر غم کے مارے بے حال ہو گئی۔
اس کے بیٹوں کو بھی بہت رنج ہوا۔ عورت نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ تم مشرق کی طرف
جاؤ اور جیسے بھی ہو سکے تم میرا کپڑا واپس لاؤ۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔

لڑکا اپنی ماں کے غم کو دیکھ کر بہت رنجیدہ تھا۔ چنانچہ وہ فوراً مشرق کی طرف
چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک مہینے کے بعد ایک پہاڑی پر بنے ہوئے محل کے پاس پہنچا۔
وہاں سفید بالوں والی ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ محل کے باغ میں ایک طرف خوش رنگ
سرخ سرخ خوبانیوں کا ایک درخت تھا۔ لڑکے کو بھوک بھی بہت لگی تھی۔

اس نے بوڑھی عورت سے اجازت لے کر بہت سی خوبانیاں پیٹ بھر کر کھائیں، پھر

اس بوڑھی عورت نے اس لڑکے سے پوچھا: ”تم یہاں کیوں آئے ہو؟“

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ عیسوی

۷۱

لڑکے نے بتایا کہ میری ماں نے تین سال کی محنت کے بعد کپڑے پر ایک خوب صورت تصویر کا ڈھکریا کر تیار کی تھی۔ اسے ہوا اس طرف اڑا کر لے آئی۔

بڑھیا نے کہا: ”ہاں مجھے معلوم ہے یہاں سے کچھ دور سرخ پہاڑیوں کے پاس جو سورج نکھی پہاڑ ہے، وہاں ایک محل ہے۔ اس میں پر یوں کی شہزادی رہتی ہے۔ اس شہزادی کو یہ کپڑا بہت پسند آیا اور اس نے اڑا لیا ہے۔ اب وہ اپنی سہیلی پر یوں کے ساتھ مل کر اسی نمونے کا کپڑا کاڑھ رہی ہے، مگر تم وہاں بہت مشکل سے پہنچ سکو گے۔“

لڑکے نے کہا: ”جس طرح بھی ہو میں وہاں ضرور جاؤں گا اور کپڑا لے کر آؤں گا، ورنہ میری ماں غم کے مارے زندہ نہ رہے گی۔“

بوڑھی عورت نے کہا: ”شہزادی تک پہنچنے کے لیے تمہیں سب سے پہلے اپنے دو دانت نکالنے پڑیں گے۔ وہ دانت نکال کر اس پتھر کے گھوڑے کے منہ میں لگا دو، پھر یہ گھوڑا اپنی اصلی حالت میں آجائے گا۔ تم اس پر سوار ہو کر محل کی طرف جاؤ، راستے میں سب سے پہلے تمہیں ایک آتش فشاں پہاڑ ملے گا، اس سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ اگر تم نے ذرا سی بھی غفلت کی تو یہ پہاڑ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس پہاڑ سے ہمت کے ساتھ گزر گئے تو پھر ایک برفانی سمندر ملے گا، جو تمہیں برف کی طرح ٹھنڈا کر دے گا۔ اگر تم اس سے بھی گزر گئے تو پھر تم پر یوں کی شہزادی کے محل تک پہنچ جاؤ گے۔“

لڑکا یہ باتیں سن کر گھبرا گیا۔ یہ دیکھ کر بوڑھی عورت نے کہا: ”میں تم کو ایک بکس دیتی ہوں، جس میں سونا بھرا ہوا ہے۔ تم اسے لے جاؤ اور ماں بیٹے ساری عمر چین آرام سے زندگی بسر کرو۔ کپڑے کے لیے اپنی جان جو کھوں میں مت ڈالو۔“

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد توں نہال جون ۲۰۱۴ عیسوی

۷۳

لڑکا اس پر راضی ہو گیا اور بوڑھی عورت سے سونے کا بکس لے لیا۔ اس نے سوچا میں یہ سونا لے کر اپنے گھر کیوں جاؤں؟ کیوں نہ شہر چلا جاؤں اور آرام سے تنہا رہ کر اپنی زندگی گزار دوں، یہ سوچ کر وہ سونے کا بکس لیے ہوئے شہر چلا گیا۔

بہت دن ہو گئے جب اس عورت کا بیٹا واپس نہ آیا تو وہ اس غم سے سوکھ کر کاٹھا ہو گئی۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹے سے جو اب تیرہ سال کا تھا، کہا کہ تمہارا بھائی لوٹ کر نہیں آیا، نہ جانے اس پر کیا ہوتی۔ اب تم جلدی سے جاؤ اور اپنے بھائی اور کپڑے کو ڈھونڈ کر لاؤ۔

دوسرا لڑکا ماں کے کہنے پر چل پڑا۔ وہ بیس روز کے بعد اسی محل میں پہنچا، جہاں بڑھیا رہتی تھی۔ بڑھیا نے اس کے آنے کا سبب پوچھا۔ جب اس نے بھی اپنی ماں کے کپڑے کا حال بتایا تو بڑھیا نے پہلے لڑکے کی طرح اسے بھی ساری باتیں بتائیں اور کہا: "تم اس مصیبت میں کیوں پڑتے ہو؟ میں تمہیں سونے سے بھرا بکس دیتی ہوں تم وہ لے جاؤ۔"

دوسرا لڑکا بھی بکس لے کر شہر چلا گیا اور پہلے لڑکے کی طرح لوٹ کر نہ آیا۔

اس غریب عورت کو اور بھی دکھ ہوا۔ اسے اپنے دونوں بیٹوں کی بھی فکر تھی اور تصویر کا بھی غم تھا۔ ماں اس غم سے بے حال ہو کر اور بھی بیمار ہو گئی۔ اس کے چھوٹے بیٹے نے جب ماں کا یہ حال دیکھا تو ارادہ کیا کہ وہ اپنے بھائیوں اور کپڑے کی تلاش میں جائے۔ ماں نے مجبور ہو کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ پڑوس کی عورتیں غریب عورت کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ چھوٹا بیٹا روانہ ہو کر اسی محل میں پہنچا۔ اسے وہی بڑھیا ملی اور اس نے اسے وہی ساری باتیں بتائیں جو پہلے دونوں لڑکوں کو بتائی تھیں اور سونے کا بکس دے کر کہا کہ تم آرام سے اپنے گھر واپس چلے جاؤ، لڑکے نے کہا: "میں یہ نہیں لوں

گا۔ میں شہزادی کے محل میں جا کر اپنی ماں کا کپڑا واپس لاؤں گا۔“

لڑکے نے پتھر مار کر اپنے اگلے دو دانت توڑے اور پتھر کے گھوڑے کے منہ میں لگا دیے۔ پتھر کا گھوڑا اصلی بن گیا اور ہنہانے لگا۔ پھر اس نے خوب سرخ خوبانیاں کھائیں۔

لڑکا اس پر سوار ہو گیا اور گھوڑا تیزی سے پہاڑ کی طرف بھاگنے لگا۔ راستے میں بڑھیا کا بتایا ہوا آتش فشاں پہاڑ ملا۔ لڑکا بڑی ہمت اور احتیاط سے اس کے شعلوں سے بچ کر گھوڑے کو وہاں سے نکال کر لے گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے برقانی سمندر ملا۔ گھوڑا جوں ہی اس میں چلتے لگا تو لڑکے کا سارا بدن برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، مگر وہ بڑی ہمت سے گھوڑے پر بیٹھا ہوا وہاں سے گزر گیا۔

چلتے چلتے سامنے پر یوں کی شہزادی کا خوش نما محل نظر آنے لگا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ شہزادی اور پریاں بیٹھی کپڑے پر اس کی ماں کی بنائی ہوئی تصویر کا نمونہ کاڑھ رہی ہیں۔ لڑکے کو دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئیں اور اس سے پوچھا: ”تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آئے ہو؟“

لڑکے نے بتایا: ”تم نے میری ماں کا بنایا ہوا کپڑا لے لیا ہے۔ میں وہ کپڑا لینے آیا ہوں۔“

شہزادی نے کہا: ”ہم اس تصویر کے نمونے کو کپڑے پر کاڑھ رہے ہیں۔ تم آج کی

رات یہاں پر رہو۔ ہم رات بھر میں اسے کاڑھ لیں گے، پھر تم اسے لے جانا۔“

لڑکا راضی ہو گیا۔ شہزادی نے لڑکے کو خوب عمدہ اور نفیس کھانے کھلائے۔ لڑکا

تھکا ہارا تھا کھانا کھا کر سو گیا۔ آدھی رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادی اور پریاں آپس

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ء عیسوی

۷۵



میں باتیں کر رہی تھیں کہ ہم نے جو تصویر کاڑھی ہے وہ اچھی نہیں بنی۔ ہم یہ تصویر اس لڑکے کو نہیں دیں گے کچھ اور تجھے دے کر اس کو راضی کر لیں گے اور یہاں سے چلتا کریں گے۔
 پر یاں سمجھ رہی تھیں کہ شاید لڑکا سو رہا ہے۔ وہ چپ چاپ لیٹا ان کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ پھر شہزادی اور پر یاں سب کی سب سو گئیں۔ لڑکا چپکے سے اٹھا اور اپنی ماں والا کپڑا لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے سرپٹ دوڑا دیا اور وہاں سے نکل آیا۔

راستے میں آتش فشاں پہاڑ اور برقانی سمندر سے گزرتا ہوا وہ بڑھیا کے محل میں آیا۔ بڑھیا اسے دیکھ کر حیران ہوئی اور اس کی بہادری اور ہمت کی بہت تعریف کی۔ اس نے بڑھیا کو سارا حال بتایا اور گھوڑے کے منہ سے دودانت نکال کر اپنے منہ میں لگا لیے۔
 گھوڑا پھر سے پتھر کا ہو گیا۔ بڑھیا نے لڑکے کی بہادری سے خوش ہو کر اسے سونے کا بکس بھی دے دیا۔ ہ خوشی خوشی سب چیزیں لے کر وہاں سے روانہ ہوا۔

جب گھر پہنچا تو ماں کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کے غم میں ہر وقت روتی رہتی تھی، جس سے اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اور وہ تقریباً اندھی ہو گئی۔ پڑوس کی عورتیں اسے کھانے پینے کو دیتیں اور اس کی خدمت کرتیں۔ بیٹے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور اپنی تصویر کا کپڑا آنکھوں کو لگاتے ہی اس کی آنکھیں بھی اچھی ہو گئیں۔ اسے سب کچھ نظر آنے لگا۔ اس نے کپڑے کو پھیلا یا اور دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کپڑا پھیل کر بہت لمبا ہو گیا اور اتنا ہی چوڑا ہو گیا۔ پھر اس کے ٹوٹے ہوئے گھر کی جگہ ایک بہت بڑا محل نظر آنے لگا۔ اس میں تصویر کی جگہ اصلی پھولوں اور پھولوں کا ایک خوش نما باغ دکھائی دینے لگا اور بہت سے چاند پرند وہاں دوڑنے پھرنے لگے۔ غریب عورت اور

اس کا لڑکا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ان کے خوابوں کا محل ان کے سامنے آ گیا۔

بڑھیا نے جو سونے سے بھرا ہوا بکس دیا تھا اسے کھانے پینے پر خرچ کرنے لگے۔ محل میں ہر قسم کا اعلا سا مان موجود تھا، جو سونے سے بنا تھا۔ اب یہ دونوں ماں بیٹے آرام سے رہنے لگے۔ انھوں نے گاؤں کے ان سب لوگوں کو بھی محل میں رہنے کے لیے بلا لیا، جنھوں نے عورت کی بیماری میں اس کی خدمت کی تھی، کیوں کہ یہ بہت بڑا عالی شان محل تھا۔ انھیں اسی طرح ہنسی خوشی رہتے رہتے کچھ دن گزر گئے۔

غریب عورت کو اب اپنے دونوں بیٹوں کا غم تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے اور کہاں کس مصیبت میں پھنس گئے۔ ایک دن ان کے محل پر دو فقیر بھیک مانگتے ہوئے آئے۔ یہ دونوں غریب عورت کے بیٹے تھے۔

انھوں نے شہر میں رہ کر اپنا سونا تھوڑے دنوں میں عیش و آرام میں خرچ کر دیا اور نہرے حال میں پہنچے تو بھیک مانگنے لگے۔ اس محل کو دیکھ کر وہ سمجھے کہ یہ کسی بہت امیر آدمی کا محل ہے تو یہاں بھیک مانگنے آ گئے۔ ان کے چھوٹے بھائی نے انھیں دیکھا تو پہچان گیا۔

پھر وہ ان کو ماں سے پاس لے گیا۔ ان دونوں نے ماں کے قدموں میں گر کر اور رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اس کے بعد اپنے لالچ کی سازی کہانی بھی سنائی۔

ماں نے ان کو گلے لگا کر ان کا تصور معاف کر دیا اور یہ سب خوب چھین سے زندگی گزارنے لگے۔ پھر تینوں لڑکوں نے خوب محنت کر کے پڑھنا لکھنا بھی سیکھ لیا تھا۔

اور اس طرح چھوٹے بھائی کی ہمت اور محنت نے سب کے دن پھیر دیے اور ان کی ماں کی محنت کا انعام اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا۔

☆

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد تو نہال جون ۲۰۱۴ء جیوی

۷۷

نونہال بک کلب

کے ممبر بنیں اور اپنی ذاتی

لائبریری بنائیں

بک کلب کا ممبر بننے کے لیے بس ایک سادہ کاغذ پر اپنا نام،

پورا پتا صاف صاف لکھ کر ہمیں بھیج دیں، آپ کو نونہال بک کلب کا ممبر بنا لیا جائے گا

اور ممبر شپ کے کارڈ کے ساتھ کتابوں کی فہرست بھی بھیج دیں گے۔

ممبر بننے کی کوئی فیس نہیں ہے۔

ممبر شپ کارڈ کی بنیاد پر آپ نونہال ادب کی کتابوں کی خریداری پر

۲۵ فی صد رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔

جو کتابیں منگوانی ہوں، ان کے نام، اپنا پورا صاف پتا اور ممبر شپ کارڈ نمبر لکھ کر بھیجیں اور

رجسٹری فیس کی رقم اور کتابوں کی قیمت منہی آرڈر کے ذریعے سے

ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان، ہمدرد سینٹر، ناظم آباد نمبر ۳، کراچی

کے پتے پر بھیج دیں۔ آپ کے پتے پر ہم کتابیں بھیج دیں گے۔

کم سے کم ایک سو روپے کی کتابیں منگوانے پر

رجسٹری فیس ممبروں سے نہیں لی جائے گی

ان کتابوں سے لائبریری بنائیں، کتابیں خود بھی پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی پڑھوائیں۔

علم کی روشنی پھیلائیں

ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان، ہمدرد سینٹر، ناظم آباد نمبر ۳، کراچی۔ ۷۳۶۰۰

شہیدِ پاکستان

ادیب سمیع چمن

اونچی و اعلا تیری شان تیری عظمت پہ قربان
 تو بھی تھا اک پاکستان پیارے شہیدِ پاکستان!
 علم و ادب کا پیکر تھا تو پاک وطن کا محور تھا تو
 تیری ہمت عالی شان پیارے شہیدِ پاکستان!
 کردار و گفتار میں اعلا قوم کا محسن ، چاہنے والا
 حق گوئی تیری پہچان پیارے شہیدِ پاکستان!
 وقت کا پابند اس پہ دائم تیری عزت قائم و دائم
 جب تک سورج ، چاند رہے گا تیرا زندہ نام رہے گا

ہر دل میں تیری تُہبان
 پیارے شہیدِ پاکستان!

روشنی پیدا کرنے والے جانور ڈاکٹر سہیل برکاتی

سمندر کے سفر کے دوران رات کے وقت پانی میں جگنو سے چمکتے نظر آتے ہیں۔ بعض مقامات پر یہ چمک اتنی تیز اور زیادہ ہوتی ہے کہ سمندر کا ایک بڑا حصہ روشنیوں سے جگمگا اٹھتا ہے۔ اٹھارویں صدی کے ایک سائنس دان "بنجامن فرنکلین" کا خیال تھا کہ اس روشنی کی وجہ یہ ہے کہ سمندر دن میں سورج کی جو روشنی جذب کرتا ہے وہ رات کو روشنی کی شکل میں منعکس کرتا ہے۔ کچھ اور سائنس دانوں کے مطابق یہ روشنی لہروں کے آپس میں ٹکرانے یا لہروں کے کسی دوسری چیز مثلاً جہاز کے کناروں کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اٹھارویں صدی ہی میں وینی سائنس دانوں نے معلوم کیا کہ اس روشنی کی وجہ دراصل سمندر میں موجود ایک ایسا جانور ہے جس کا جسم صرف ایک خلیے (CELL) پر مبنی ہے، اسے نوکٹی لوکا (NOCTILUCA) کہتے ہیں۔ اس دریافت کے کچھ عرصے بعد ایک اور سمندری جانور نجم البحر (جیلی فش) کو بھی روشنی پیدا کرتے دیکھا گیا۔ زندہ جانداروں کے روشنی پیدا کرنے کے عمل کو حیاتی نورانیت (BIOLUMINESCENCE) کہتے ہیں۔

سمندر میں رہنے والے بہت سے جانور نورانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے روشنی پیدا کرتے ہیں۔ روشنی ایک کیمیائی عمل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے جس میں ایک کیمیائی مادہ نورزا (LUCIFERIN) اور ایک خامرہ نور انگیز (LUCIFERASE) استعمال ہوتا ہے۔ سمندری مچھلیوں کی تقریباً بیس ہزار قسموں میں سے ایک سے ڈیڑھ ہزار قسمیں روشنی پیدا کر سکتی ہیں۔ سمندری جانور دو طرح سے روشنی

پیدا کر سکتے ہیں۔

پہلے طریقے میں روشنی پیدا کرنے کے لیے نہایت باریک نور بردار (PHOTOPHORE) استعمال ہوتے ہیں۔ نور بردار کو دیکھا جائے تو اس میں ایک عدسہ (لینس) روشنی لوٹانے کے لیے عاکس (REFLECTOR) اور ایک رنگ دار پردہ (اسکرین) ہوتا ہے۔ جانور کے جسم میں نور بردار باقاعدگی کے ساتھ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔

دوسرے طریقے میں سمندری بیکٹیریا جانوروں کے جسم کے مختلف حصوں میں گھر بنا لیتے ہیں اور اپنی غذا اس جانور سے حاصل کرتے ہیں۔ ان بیکٹیریا میں روشنی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور یہ مستقل اس عمل کو جاری رکھتے ہیں۔ جن جانوروں کے جسم پر یہ بیکٹیریا رہتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہر وقت روشنی نہیں چاہتا، اس لیے وہ ایک پردے کے ذریعے سے اس جگہ کو ڈھانپنے کا انتظام کر لیتے ہیں، جہاں سے روشنی نکلتی ہے، تاکہ وقت ضرورت پردے کو ہٹالیں۔

اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جہاز جب اس علاقے سے گزرتا ہے، جہاں روشنی پیدا کرنے والے جانور کثرت سے ہوں تو پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے۔ یہ روشنی ان جانداروں کے ایک دوسرے سے ٹکرانے سے بھی ہو سکتی ہے اور سمندر میں کسی طوفان یا زلزلے کی آمد سے بھی۔ حیاتی نورانیت یوں تو دنیا کے ہر حصے میں ہوتی ہے، لیکن وہ سمندر جو منطقہ خاڑہ میں آتے ہیں، اس کے لیے مشہور ہیں۔ بحیرہ عرب میں جولائی اور ستمبر کے مہینوں میں اس کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

سمندری جانوروں میں روشنی پیدا کرنے کی صلاحیت کا فائدہ کیا ہے؟ ایک دو نہیں، بلکہ جانوروں کی بہت سی قسمیں "حیاتی نورانیت" کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اس عمل کے کچھ فائدے ہم بتاتے ہیں۔ روشنی پیدا کرنے والا جانور اپنی غذا آسانی سے تلاش کر سکتا ہے۔ غیر فکری یعنی بغیر ہڈی والے جانوروں کی ایک قسم یوفاسڈ (EUPHAUSIID) اور مچھلیوں کی ایک قسم مکتوفم (MYCTOPHUM) اپنے نور بردار کی مدد سے غذا کو تلاش کرتی ہیں۔

سمندر کی تہ میں رہنے والی بعض مچھلیاں روشنی کی شعاعیں پھینک کر اپنے شکار کو پریشان کرتی ہیں اور پھر اس پر قابو پالیتی ہیں۔ مثلاً "ماہی گیر مچھلی" (ANGLER) کے منہ کے قریب ایک راڈ ہوتی ہے، جس کے کنارے سے روشنی نکلتی ہے۔ کچھ مچھلیوں کے منہ کے اندرونی حصے میں نور بردار ہوتے ہیں، جن کی طرف چھوٹے چھوٹے جانور متوجہ ہوتے ہیں۔ ان مچھلیوں میں "چلغوزہ مچھلی" (PINE-CONE) شامل ہے۔ بعض زہریلی مچھلیوں میں روشنی پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جیسے پورکتھس (PORICHTHYS) جس کو عام طور سے مڈشپ مین فش (MIDSHIPMAN FISH) کہتے ہیں۔ اس میں ایک زہریلا کائٹا ہوتا ہے۔ اس طرح ہم اس مچھلی کو کھانے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر ایک خاص قسم کی روشنی سمندر میں نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شکاری جانور قریب میں موجود ہے، اس لیے دوسرے جانور اپنے بچاؤ کا سامان کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف بعض چھوٹے جانور بھی روشنی اسی لیے پیدا کرتے ہیں کہ اپنے اوپر حملے کے دوران روشنی پیدا کر کے شکاری کو بھگا دیا جائے۔ روشنی کی چمک کی وجہ سے ان کا پیچھا کرنے والا شکاری جانور وقتی طور پر دیکھ نہیں سکتا، اتنی دیر میں چھوٹے جانور دور نکل جاتے ہیں۔

جھینگلوں سے ملنے چلتے بعض جانور جنھیں ”چپو پا“ (COPE PODS) کہتے ہیں، روشنی کے بادل چھوڑتے ہیں، جو پانی کو گدلا کر دیتے ہیں۔ گہرے سمندر میں رہنے والے صدقہ جانوروں کی ایک قسم قیرماہی (SQUID) پر جب کوئی بڑا جانور حملہ کرتا ہے تو یہ اپنے جسم میں موجود سیاہی کی طرح کا مائع نکال کر پانی کو گہرے رنگ کا بنا دیتی ہے اور اس کا دشمن اسے تلاش نہیں کر پاتا۔

سمندر میں روشنی پیدا کرنے کے عمل کا فائدہ ان جانوروں کو بھی ہوتا ہے جو گروہ بنا کر بہت بڑی تعداد میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں گروہ کے ممبر ایک دوسرے کو روشنی کے ذریعے سے آسانی سے پہچان سکتے ہیں، کیوں کہ روشنی پیدا کرنے کے طریقے ہر نوع کے مخصوص ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ سمندر کی وسیع و عریض دنیا میں جہاں بے شمار قسم کے جانور پائے جاتے ہیں رات کے اندھیرے اور سمندر کی گہرائی میں روشنیوں کی مدد سے جانور اپنی حدود کا تعین بھی کرتے ہوں۔ ☆

غیر ملکی کہاوتیں

- ☆ عمدہ دوا اکثر کڑوی ہوتی ہے۔ (جاپانی کہاوت)
 - ☆ جہاں صدق و خلوص نظر نہ آئے وہاں دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی ہی تمہاری بہترین رفیق ہے۔ (ایرانی کہاوت)
 - ☆ کپڑے کاٹنے سے پہلے سات بار ناپ لو، کیوں کہ اسے کاٹنے کا ایک ہی موقع ملتا ہے۔ (چینی کہاوت)
 - ☆ بغیر دیکھے کوئی چیز منہ میں نہ ڈالو اور بغیر پڑھے کسی کاغذ پر دستخط نہ کرو۔ (ایتھنی کہاوت)
 - ☆ جو بات عقل چھپاتی ہے، نشا سے ظاہر کر دیتا ہے۔ (لاٹینی کہاوت)
 - ☆ بزدل مریض کو کوئی ڈاکٹر اچھا نہیں کر سکتا۔ (افغانی کہاوت)
- ☆☆☆

مشورہ

کرشن پرویز

بچو! جب بھی منہ تم کھولو
جو بھی بولو ، سوچ کے بولو

جو بھی کہنا ، پیار سے کہنا
سب سے اچھا ، میٹھا بولو

پیار محبت سب میں بانٹو
دل میں اپنے زہر نہ گھولو

وقت کی قدر و قیمت سمجھو
تم یوں ہی بے کار نہ ڈولو

وقت پہ پڑھنا ، وقت پہ سونا
وقت پہ کھانا ، وقت پہ کھیلو

نئی زندگی

پروفیسر مشتاق اعظمی، انڈیا

پچھلے سال مئی کی آٹھویں سال گرہ کے موقع پر مئی کی ایک بہت ہی عزیز سہیلی نے تحفے میں اُسے مخمل کا ہنا ہوا ایک ننھا سا خوب صورت لکٹا پیش کیا تھا۔ مئی کو تمام تحفوں میں یہ لکٹا ہی سب سے زیادہ پسند آیا تھا۔ اس نے اس کا نام روپی رکھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش ہوتی تھی اور اس کی حفاظت بھی کرتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے ایسا معلوم ہو رہا تھا، جیسے مئی، روپی کو بھول سی گئی ہے، کیوں کہ اس نے روپی کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا تھا۔ روپی اب میز پر اُداس پڑا ہوا تھا۔ اُس کے جسم پر گرد کی تہ جم گئی تھی۔ دونوں کان جو ہمیشہ کھڑے رہتے تھے اب اس کے چہرے پر لٹک آئے تھے۔ مین کی بنی ہوئی اُس کی سیاہ چمکیلی آنکھیں دھاگوں کے ساتھ اس کے گالوں پر آنسوؤں کی بوندوں کی طرح جھول رہی تھیں۔

ایک رات کی بات ہے۔ مئی جلد سو گئی۔ اس کے دونوں بھائی راشد اور ساجد اپنے پرانے کھلونوں کو اکٹھا کر کے محنت کے ایک بڑے ڈبے میں رکھنے میں مصروف تھے۔ دوسری صبح کھلونوں کا یہ ڈبا انھیں غریب اور بیمار بچوں کے لیے اسپتال بھیجنا تھا۔ کھلونے اکٹھا کرتے ہوئے راشد کی نظر مئی کے روپی پر پڑی، جو میز پر نئے نئے کھلونوں کے درمیان حسرت اور نا اُمیدی لیے یوں پڑا تھا، جیسے کوئی بیمار آدمی تن درست لوگوں کے درمیان بیٹھا ہو۔ راشد نے لپک کر اسے اٹھالیا اور ساجد سے کہا: ”بھیا! روپی کو بھی ان کھلونوں میں شامل کر لو۔“

”نہیں راشد! یہ مئی کا کھلونا ہے۔ وہ بُرا مان جائے گی۔“ ساجد نے جواب دیا۔

”متنی تو اس سے جی بھر کے کھیل چکی ہے۔ وہ اس خستہ حال کھلونے کو رکھ کر کیا کرے گی؟ وہ ہرگز نرا نہیں مانے گی۔“ راشد نے یہ کہتے ہوئی روٹی کو بھی ڈبے میں ڈال دیا۔ کھلونوں کا یہ ڈبا دوسرے روز اسپتال روانہ کر دیا گیا۔

اسی روز کھیلتے کھیلتے یکا یک متنی کو روٹی کا خیال آیا۔ اُس نے میز کی طرف دیکھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ روٹی میز پر موجود نہیں تھا۔ اس نے میز کے نیچے جھانکا۔ روٹی وہاں بھی نہیں تھا۔ متنی نے اپنے بستر کے نیچے ٹولا، کھلونا رکھنے کی الماری میں تلاش کیا، لیکن روٹی کو کہیں نہ پایا۔ وہ پریشان ہو کر امی کے پاس پہنچی اور ان سے دریافت کیا، مگر وہ بھی روٹی کے بارے میں کچھ نہ بتا سکیں۔ پھر وہ راشد اور ساجد کے پاس گئی اور پوچھا: ”آپ نے میرے روٹی کو تو نہیں دیکھا؟“ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔

راشد اور ساجد نے پریشان نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک منٹ خاموش رہ کر ساجد بولا: ”ہاں متنی! ہم نے تمہارے روٹی کو اسپتال کے غریب اور بیمار بچوں کے لیے بھیج دیا ہے۔ ہم نے وہاں اپنے بھی بہت سارے کھلونے بھیجے ہیں اور تمہارا روٹی تو بہت خستہ حال.....“ ساجد بات پوری بھی نہ کر سکا، کیوں کہ متنی کے آنسو تیزی کے ساتھ بہ نکلے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر بیٹھ گئی اور سسکیاں لینے لگی۔ راشد اور ساجد نے اسے چپ کرانے کی جتنی کوشش کی متنی کی سسکیوں کی آواز اتنی ہی تیز ہوتی گئی۔ آخر امی کوچھ میں آنا پڑا۔ انہوں نے راشد اور ساجد کو ڈانٹ پلائی اور متنی سے روٹی کی جگہ دوسرا کھلونا لانا دینے کا وعدہ کیا۔

لیکن متنی کو کسی صورت چین نہیں تھا۔ اُسے روٹی کی یاد بُری طرح ستا رہی تھی۔ روٹی

میں لگا گیا اور خستہ حال سہی وہ مٹی کو پھر بھی پیارا تھا، اس لیے کہ وہ اس کی بہت ہی عزیز سہیلی کی یادگار تھا۔

انگلی صبح مٹی سو کر اٹھی تو اس کا تکیہ بھیگا ہوا تھا۔ آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں اور گالوں پر آنسو بہنے کے نشان تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا، جیسے وہ رات بھر روتی رہی ہے۔ امی سے مٹی کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مٹی کو لے کر اسپتال جائیں گی۔ مٹی کی بے چینی اور بے قراری کا یہی علاج تھا۔

مٹی اور اس کی امی اسپتال کے ایک کشادہ کمرے میں تھیں، جہاں ایک لمبی میز کے سامنے کرسی پر سفید کپڑے پہنے ایک نرس بیٹھی تھی۔ میز پر پڑانے اور مرمت طلب کھلونے بڑی تعداد میں رکھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی قینچی، کپڑے جھاڑنے کا برش اور چاقو وغیرہ بھی میز پر موجود تھے۔ نرس سوئی دھاگے کی مدد سے کپڑے کے ایک بوسیدہ کھلونے کی مرمت میں مصروف تھی۔

امی نے نرس کو بتایا کہ مٹی کا روپی وہاں غلطی سے بھیج دیا گیا ہے اور مٹی اس کے لیے بے کل ہے۔ نرس نے اپنے دماغ پر ذرا سا زور دیا اور کونے میں رکھی ہوئی شیشے کی ایک چھوٹی سی الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ”مٹی! وہ ہے تمہارا روپی، جاؤ، اپنے ہاتھوں سے اٹھا لو۔“

مٹی نے الماری میں رکھے ہوئے روپی کو دیکھا اور حیران رہ گئی۔ یقیناً وہ روپی ہی تھا، لیکن اب پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اس کا مخلی جسم اتنا صاف اور نکھرا ہوا تھا، جیسے اسے غسل دیا گیا ہو۔ اس کے کان سیدھے کھڑے تھے۔ آنکھیں اب اپنی درست جگہ پر تھیں اور ان

میں خوشی اور اطمینان کی جھلک تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ متنی کو خاموش اور حیران دیکھ کر نرس مسکرائی۔

وہ بولی: "متنی! تمہیں خوش دیکھ کر اسپتال کے بچے بھی روہی کے چلے جانے کا کوئی رنج نہ کریں گے۔"

متنی چپ چاپ کھڑی کبھی روہی اور کبھی نرس کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ بول پڑی: "آپ روہی کو نہیں رہنے دیتے۔ وہ یہاں زیادہ خوش ہے۔ آپ نے اسے نئی زندگی دی ہے، سنو! اس لیے بچے کو دے دیتے جو مجھ سے زیادہ اس کا حق دار ہو، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکتا ہو۔"

اس کے بعد متنی نے روہی کو اور نرس کو خدا حافظ کہا اور امی کے ساتھ واپس چل پڑی۔

متنی اور اس کی امی اسپتال کا آخری زینہ طے کر رہی تھیں۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی اور سورج بھی ایک بادل کی اوٹ سے مسکرا رہا تھا۔ ☆

ایک آدمی ریلوے میں نوکری کے لیے گیا۔ انٹرویو والے افسر نے اس سے پوچھا: "اگر آپ دیکھیں کہ ایک ہی ہٹوی پر دو ریل گاڑیاں آنے سے سانسے آ رہی ہیں تو آپ کیا کریں گے؟"

"میں انٹیشن ماسٹر کو بتاؤں گا۔" وہ آدمی بولا۔

افسر نے کہا: "اگر انٹیشن ماسٹر موجود نہ ہو تو؟"

"تب میں کانٹے والے کو بتاؤں گا۔" اس آدمی نے جواب دیا۔

افسر نے کہا: "اگر وہ بھی اپنی جگہ پر نہ ہو تو؟"

آدمی بولا: "میری خال قریب ہی رہتی ہیں، ان کو نکالاؤں گا۔ انھیں ریل گاڑیوں کی ٹکر دیکھنے کا بہت شوق ہے۔"

مرسلہ: جمال اعزاز بلوچ، تربت



مسکراتی
—
کیریں


ڈاکٹر: ”آپ کو مبارک ہو، آپ کے کان کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔“

مریضہ: ”ذرا زور سے بولیں، مجھے آواز نہیں سنائی دے رہی ہے۔“

لطیفہ : سیدہ اریبہ بتول، سیدوسیم حیدر شاہ، لیاری ٹاؤن، کراچی

آپے مصوری سیکھیں

غزالہ امام



مصوری کے سلسلے میں اب تک آپ کئی طریقے سیکھ چکے ہیں۔ آج آپ کو ایک نیا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اس طریقے میں ٹوتھ برش کے ذریعے سے تصویر پر رنگ چھڑکا جاتا ہے۔ سب سے پہلے پنسل سے خاک بنا کر اس میں اپنی پسند کے رنگ بھر لیں۔ مثلاً تصویر میں دیکھیے ایک درخت کا خاک بنا کر رنگ بھرے گئے ہیں۔

پھر درخت پر برف باری کا تاثر دینے کے لیے سفید رنگ چھڑکا گیا ہے۔ رنگ چھڑکنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی پڑانے ٹوتھ برش پر رنگ لگا کر انگوٹھے کی مدد سے جہاں ضرورت ہو، وہاں رنگ چھڑک دیں۔ مشق کرتے رہنے سے مہارت پیدا ہوگی۔

☆☆☆

تھانے دار کے نام ایک درخواست

گل نوخیز اختر



تھانے دار صاحب!

میرا نام انجم ملنگی ہے۔ پٹھے کے اعتبار سے بزنس مین ہوں اور عرصہ بارہ سال سے بلال گنج میں تگے، کباب بیچ رہا ہوں۔ گزارش ہے کہ میں نے دو سال پہلے گڑھی شاہو والا مکان تبدیل کر کے یہاں ساڑھے تین مرلے کے مکان کا اوپری حصہ ساڑھے چار ہزار روپے کرائے پر لیا تھا۔ میرا مالک مکان ایک انتہائی متکار اور کینہ پرور انسان ہے، اس کے چار مکان ہیں اور چاروں کے چاروں کرائے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے کرایہ طے کرنے کا اپنا ہی اصول بنا رکھا ہے، یہ ہمیں روپے کلو پر مکان دیتا ہے، آپ کو

یقیناً حیرت ہوئی ہوگی کہ یہ بیس روپے کلو کا کیا چکر ہے؟ مجھے بھی ہوئی تھی، جب پوچھا تو پتا چلا کہ یہ کرایے داروں کے وزن کے مطابق کرایہ لیتا ہے، مثلاً جیسے کہ میرا وزن ۶۰ کلو ہے، بیس روپے کے حساب سے ہو گئے ۱۲۰۰ روپے۔ اسی طرح میری بیوی کا وزن ۸۰ کلو ہے، یہ ہو گئے ۱۶۰۰ روپے۔ میرے بڑے بیٹے کا وزن ۵۰ کلو ہے، اُس کے ہو گئے ۱۰۰۰ روپے اور میرے چھوٹے بیٹے کا وزن ہے ۳۵ کلو، اُس کے ہو گئے ۱۷۰۰ روپے۔ یوں کُل ملا کر ہمارا کرایہ بنتا ہے ۳۵۰۰ روپے۔ کم بخت نے دروازے کے قریب ہی وزن کرنے والی مشین رکھی ہوئی ہے اور روز ہمارا وزن کرتا ہے، جس دن وزن کلو دو کلو زیادہ ہو جائے تو کھڑے کھڑے پیسے وصول کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے فوراً کھانا کھانا کم کر دیا تاکہ وزن کے ساتھ ساتھ کرایہ بھی کم ہو جائے۔

ایک دن جب ہم سب کا وزن پانچ پانچ کلو کم ہو گیا تو میں نے اس سے کہا کہ اب تو کرایہ بھی اسی حساب سے کم ہونا چاہیے، تو گھور کر بولا: ”صرف وزن بڑھنے سے کرایہ بڑھے گا، ورنہ اتنا ہی رہے گا۔“

میں نے بے بسی سے پوچھا: ”آخر ہمارا وزن بڑھنے سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟“
 اطمینان سے بولا: ”تم لوگ اوپر کے حصے میں رہتے ہو، وزن بڑھ گیا تو میرے گھر کی چھت پر بوجھ پڑے گا، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔“

تھانے دار صاحب امکان کرائے پر دیتے وقت اس نے مجھ سے جس کرایے نامے پر دستخط کروائے تھے وہ میں نے بعد میں پڑھا تو میری آنکھیں اُبل پڑیں۔ شرائط میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ گھر کے باہر اپنے نام کی تختی (نیم پلیٹ) لگانے کی کوئی اجازت نہیں۔ اگر



ایسا ضروری ہو تو پھر آخر میں شیخ لکھنا لازمی ہوگا۔ آپ آج بھی میرے گھر آ کر دیکھ سکتے ہیں، باہر میری نیم پلیٹ پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے ”ملک انجم ملنگی شیخ“ سارے محلے والے مجھے ”ملک شیخ“ کہہ کر چھیڑتے ہیں، بے اعتباری کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ اب تو مجھے جوس والی دکان پر بھی ”ملک شیک“ کی بجائے ”ملک شیخ“ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔

تھانے دار صاحب! یہ ظالم شخص صبح کے وقت پانی کی موٹر کا بٹن بند کر دیتا ہے اور پانی ہماری طرف چڑھ ہی نہیں پاتا، میں نے شکایت کی کہ ہمارے ہاں تو نہانے کے لیے بھی پانی نہیں آتا، تو غصے سے بولا: ”روز نہاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟“

”تھانے دار صاحب! کیا روز نہانا شرم والی بات ہے؟“

عالی جاہ! اس شخص نے ہم پر دیگر محلے داروں سے ملنے پر بھی پابندی لگائی ہوئی

www.PAKSOCIETY.COM

ہے، کہتا ہے مجھے کراے داروں کا زیادہ میل جول پسند نہیں، ہمیں سبزی والے سے بھاؤ تاؤ نہیں کرنے دیتا، کہتا ہے اس سے بھی تعلقات بڑھتے ہیں۔ ہمارے گھر میں جو بھی سالن پکتا ہے اُس میں سے یہ ایک ڈونگا اپنے لیے منگوا لیتا ہے، یقین کریں جس دن ہمیں مرغی پکانی ہو، پہلے دال کو تڑکا لگاتے ہیں۔ اس بے رحم شخص نے ہمارے ٹی وی دیکھنے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے، کہتا ہے تمہارے گھر سے کارٹون نیٹ ورک کے علاوہ کسی اور چینل کی آواز آئی تو کرا یہ ڈگنا کر دوں گا۔ یہ شخص ہمیں ہنسنے بولنے بھی نہیں دیتا، ایک دفعہ میرے چھوٹے بیٹے کی سال گرہ تھی، ہم سب گھر میں ایک کاٹھے ہوئے قبچھے لگا رہے تھے کہ یہ غصے سے بھرا ہوا اوپر آ گیا اور بولا: ”میری بیوی مرگئی ہے اور تم لوگ خوشیاں منا رہے ہو؟“ میں ڈر گیا اور آہستہ سے کہا: ”آپ کی بیگم تو دس سال پہلے وفات پا گئی تھیں، کیا دوبارہ مرگئی ہیں؟“ یہ سنتے ہی اس نے اپنا خوف ناک منہ میرے قریب کیا اور پھنکار کر بولا: ”کیا دس سال بعد مرنے والے کا غم خوشی میں بدل جاتا ہے؟“

تھانے دار صاحب! جس مکان میں ہم رہتے ہیں اس کی چھتوں کی خستہ حالی کا یہ عالم ہے کہ پچھلے دنوں بارش ہو رہی تھی، میں چار پائی پر بیٹھا چائے پی رہا تھا، ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا اور میری چائے ہی نہ ختم ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی پر غصہ کیا کہ آج تم نے کیسی چائے بنائی ہے، بعد میں پتا چلا کہ عین اُس جگہ جہاں میرا کپ رکھا تھا، چھت ٹپک رہی تھی۔ کھڑکیوں کا تو کچھ نہ پوچھیں، کھول لیں تو بند نہیں ہوتیں، بند کر لیں تو کھولنا عذاب بن جاتا ہے۔ ہاتھ روم کے دروازے کی نہ گنڈی ہے، نہ گنڈی والی جگہ، اندر جا کر ہر دو منٹ بعد کھانسا پڑتا ہے۔ کچن میں گیس اور پانی کی لائینس آپس میں اتنی ملی ہوئی ہیں کہ کئی دفعہ

چولہا جلائیں تو پانی کی بو چھاڑ منھ پہ آ پڑتی ہے۔ ہر کمرے میں بجلی کی کھلی تاریں ابھی پڑیں ہیں اور بنوں کی یہ حالت ہے کہ پنکھا بھی چلانا ہو تو چھوٹے بیٹے کے کرکٹ کے بلے سے آن کرتے ہیں۔ گھر میں اتنے چوہے ہیں کہ کئی دفعہ شک ہوتا ہے کہ چوہے ہمارے گھر میں نہیں، بلکہ ہم چوہوں کے گھر میں رہ رہے ہیں اور چوہے اتنے موٹے تازے کہ بلی کو بھی بھگا دیتے ہیں۔

تھانے دار صاحب! میں نے صرف چھ ماہ کا کرایہ نہیں دیا، لیکن میرا مالک مکان مجھے روز دھمکیاں دینے آ جاتا ہے، کہتا ہے اس مہینے کے آخر تک اگر سارا کرایہ ادا نہ کیا تو میرا سامان ضبط کر لے گا۔ کتنا ظالم شخص ہے یہ، میں تو کب کا اس کا کرایہ دے چکا ہوتا، لیکن مجبوری تھی کہ ڈی ڈی پلیس اور ٹیچ والا موبائل لینا ضروری ہو گیا تھا۔ اب آپ ہی بتائیں اتنی ضروری چیزیں خریدنی ہوں تو کرایہ تو روکنا ہی پڑتا ہے نا؟“

تھانے دار صاحب! مہینا ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ میرا مالک مکان کوئی نہ کوئی بیہودگی ضرور کرے گا، آپ سے التماس ہے کہ میری درخواست کے جواب میں میرے مالک مکان پر دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج کریں اور دفعہ ۳۰۲، بلکہ ۳۰۰۲ لگائیں اور تھانے لاکر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے مز جانے سے نہ صرف کرایے دار سنبھلی ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو بھی ترقی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کہیں گے تو میں بھری عدالت میں یہ بیان دینے کے لیے تیار ہوں کہ میرا مالک مکان ہمارے گھر ڈکیتی کرنے آیا تھا، لیکن تھانے دار صاحب موقع پر پہنچ گئے، قاتلنگ کا تبادلہ ہوا جس میں یہ مارا گیا۔ والسلام..... ملک انجم ملنگی شیخ! ☆

بیٹے کی قیمت

اشتیاق احمد

وجاہت نسیم گردیزی موبائل کی گھنٹی سن کر اُٹھ پڑے۔

انہوں نے فوری طور پر بلند آواز میں کہا: ”خاموش، کوئی منہ سے آواز نہ

نکالے۔ یہ فون میرے بیٹے کے سلسلے میں آیا ہے۔ دیکھو، مجھے ان کی بات سن لینے دو، خدا

کے لیے۔“ وہ گڑ گڑانے لگے۔

”بھائی جان! خود کو سنبھالیے، ہم بالکل خاموش ہیں۔ ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں

بول رہا، اللہ کرے یہ فون انہوں نے والوں کی طرف ہی سے ہو۔“

”آمین! یہ کیا صرف میں نے آمین کہا تم سب کو سانپ سونگھ گیا کیا؟ سب کہو، آمین۔“

”آمین!“ ان سب نے ایک آواز سے کہا۔

ان کے بیٹے توقیر وجاہت کو انہوں نے آج نو دن ہو چکے تھے۔ نو دن پہلے تو قیر

گھر سے کھیلنے کے لیے نکلا تھا۔ ان کی کونجی کے سامنے ہی ایک بہت بڑا پارک تھا۔ اس میں

آس پاس کی ساری آبادی کے بچے کھیلنے کے لیے آ جاتے تھے۔ کرکٹ اور فٹ بال کے میچ

کھیلے جاتے تھے اور بڑے بھی ان کی دل چسپیوں میں حصہ لینے کے لیے پارک کا رخ

کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا اور اتوار کے دن تو گویا پوری آبادی ہی وہاں آ جاتی تھی۔

وہ پارک تھا بھی بہت خوب صورت۔ صوبائی حکومت نے وجاہت نسیم کی سفارش

پر ہی یہ پارک بنوایا تھا۔ وجاہت بھی تو ہمیشہ حکومت کے کام آتے رہتے تھے۔ ترقیاتی

کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ان کا شوق تھا۔ حکومتی نمائندوں سے ان کی بہت

علیک سلیک تھی۔ شہر میں ان کی کپڑے کی ایک میل تھی اور اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی ان

کے ہاں صرف ایک ہی بیٹا تھا، کوئی اور بیٹا یا بیٹی نہیں تھی۔ چودہ سالہ توقیر بہت ہی بھولا بھالا

اور خوب صورت تھا۔ وہ دبلا پتلا اور لمبے قد کا تھا، خوب بھاگ دوڑ لیتا تھا اور اپنے ساتھیوں میں سب سے آگے نکل جاتا تھا۔ اس دفعہ بھی یہی ہوا، وہ دوڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بہت آگے نکل گیا اور پھر وہ پارک سے ایسے غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ انخوا کرنے والوں نے وہاں پوری منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، وہ مسلسل کئی دنوں سے توقیر کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس کے کھیل کو اور بھاگ دوڑ کا جائزہ لے رہے تھے، اس لیے وہ اس قدر صفائی سے اسے لے اڑے کہ کسی کو کچھ پتا نہ چل سکا۔

اس کے ٹم ہونے کی خبر بہت خوف ناک تھی۔ وہ کسی غریب آدمی کا بیٹا نہیں تھا کہ پولیس فیس سے فیس بھی نہ ہوتی اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہتی۔ وجاہت نسیم نے تو پورے شہر کی پولیس کو ہلا کر رکھ دیا۔ جتنے وزیروں سے بھی ان کی دوستی تھی یا ملکی اور سیاسی سطح کے تعلقات تھے، ان سب کو انہوں نے اپنے گھر بلا لیا۔ وہ ان پر خوب گرجے برسے، ان سب کو کھری کھری سنائیں۔ ادھر وہ بے چارے بھی کیا کرتے۔ وہ پولیس پر گرجے برسے غرض اس وقت شہر میں بھونچال آیا ہوا تھا، پولیس کی دوڑیں لگ رہی تھیں۔ ان کی بار بار پیشیاں ہو رہی تھیں، بار بار ان سے پوچھا جا رہا تھا۔ وجاہت صاحب کا بیٹا آخر اب تک کیوں نہیں ملا۔ یاد رکھو، تم سب کی ترقیاں روک دی جائیں گے۔ توقیر نہ ملا تو سب کی جواب طلبیاں ہوں گی۔ سب کو اٹھا اٹھا کر کہیں کا کہیں لگا دیا جائے لگا۔

ادھر کوٹھی میں سب سے بُرا حال بیگم وجاہت کا تھا۔ انہیں غشی کے دورے پر دورے پڑ رہے تھے۔ رونا، چیخنا اور یہ پکارنا، ہائے میرا توقیر! ہائے میرا توقیر! ان کا معمول بن چکا تھا۔ ان پریشان کن حالات میں ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا پھر تین دن گزر گئے اس گھرانے کی پریشانی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ وجاہت نسیم کے بھائی کرامت نسیم اور ان کی بڑی بہن ساجدہ نسیم بھی کم پریشان نہیں تھے۔ انہیں بھی توقیر سے

کم محبت نہیں تھی۔ وہ تو سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اس کے بغیر تو ان کے دن رات گزرتے ہی نہیں تھے، لیکن اب تین دن گزر گئے تھے اور اس کا کوئی پتا نہیں تھا۔

سینٹھ و جاہت اس وقت تک اخبارات میں اور ٹی وی چینلوں پر بڑے بڑے اور بھاری انعامات کے اشتہارات دے چکے تھے، لیکن تین دن گزرنے پر بھی و جاہت کا دور دور تک پتا نہیں تھا۔

اب ہر گزرنے والا لمحہ ان پر قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ تین دن گزرنے پر بھی پولیس ان کے بیٹے کا سراغ نہیں لگا سکے گی۔ ان کا تو خیال تھا اتنے بڑے بڑے و ذرا اور امراء سے ان کا تعلق ہے، لہذا بات کرتے ہی وہ چٹکی بجاتے ہی ان کے بیٹے کا سراغ لگوا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ ان کا یہ خیال ریت کی دیوار ثابت ہو رہا تھا، اسی لیے ہر گزرنے والا لمحہ ان کی مایوسی میں اضافہ کر رہا تھا، ان کے رنج میں اضافہ کر رہا تھا۔ انھیں اور ان کی بیگم کو بدن سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی اور وہ سوچنے لگے تھے۔ اگر ان کا بیٹا نہ ملا تو وہ جی کیسے سکیں گے۔ وہ رفتہ رفتہ موت کی آغوش میں جا سکیں گے۔

نویں دن پولیس انسپکٹر وقار بیگ ان سے ملنے کے لیے آئے۔ انھوں نے بہت ڈھیلے ڈھالے انداز میں ان سے ہاتھ ملایا اور بولے: ”میں جانتا ہوں آپ کے پاس میرے لیے کوئی خبر اچھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس خبر ہوتی تو آپ کا چہرہ ہی بتا دیتا، پھر بھی آپ کہیے، کیا کہنے کے لیے آئے ہیں؟“

”آپ سے ایک درخواست ہے۔“

”درخواست اور مجھ غریب سے؟ میرے پاس اب رہ ہی کیا گیا ہے؟“

”سر! آپ خود کو غریب تو نہ کہیں۔“ انسپکٹر وقار بیگ گھبرا کر بولے۔

”انسپکٹر صاحب! مجھ سے زیادہ غریب کون ہو گا اور بیٹا نہ ملا تو یہ غریب بھی باقی

نہیں رہے گا۔“

”آپ تسلی رکھیں، ہم.....“

”نودن ہو گئے ہیں تسلی رکھتے ہوئے۔“ وہ تلملا اٹھے۔

”سیٹھ صاحب! خدا کے لیے میری بات سکون سے سن لیں۔“ انسپکٹر وقار بیگ نے کہا۔

”میں سکون لاؤں کہاں سے، وہ تو اس گھر سے رخصت ہو گیا ہے۔“

”میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ میری بات سکون سے سن لیں، ہم آپ کے بیٹے کو

آپ کی مدد کے بغیر تلاش نہیں کر سکتے، کیوں کہ ہو سکتا ہے یہ کیس دشمنی کا ہو، اس صورت

میں اغوا کرنے والا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرے گا اور اگر کیس دولت حاصل کرنے کا

ہے تو پھر وہ ضرور رابطہ کرے گا، لیکن وہ کب رابطہ کرتا ہے، کچھ نہیں کہا جاسکتا، اس لیے میں

چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتادیں کہ آپ سے کسے دشمنی ہے۔“ انسپکٹر وقار بیگ پُرسکون آواز

میں کہتے چلے گئے، اس دوران ان کی نظریں وجاہت نسیم کے چہرے پر جمی رہی تھیں۔

”دشمنی!“ انھوں نے چونک کر کہا۔

”جی ہاں! یہ آپ کے کسی دشمن کا کام بھی ہو سکتا ہے۔“

”اب آپ نے درست بات کہی۔ آپ ضرور اس رخ سے کام کریں، لیکن

مشکل یہ ہے کہ مجھ سے دشمنی تو نہ جانے کتنے لوگوں کو ہے۔ میں ایک سیاسی جماعت کا رہنما

ہوں، لہذا بہت سی سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈر میرے دشمن ہو سکتے ہیں۔ بظاہر وہ مجھ

سے بہت پیار محبت سے ملتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر میری جڑیں بھی کاٹ سکتے ہیں۔“

”ہوں، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں آپ سے جن لوگوں کو دشمنی

ہو سکتی ہے۔ آپ ہمیں ان کے نام لکھ دیں۔“

”اچھی بات ہے، میں یہ کام کیے دیتا ہوں۔“

خاص نمبر مہنامہ ہمدرد ٹونہال جون ۲۰۱۳ء ص ۱۰۱

انہوں نے چھ نام اور ان کے پتے وغیرہ ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیے۔ انسپکٹر وقار بیگ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے، پھر جونہی وہ گھر کے اندر آئے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر انجانا نمبر نظر آیا۔ بس اسی وقت انہوں نے گھر کے افراد کو خاموش رہنے کا حکم دے دیا اور پھر انہوں نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ موبائل کا بٹن دبا دیا۔ فوراً ہی ایک کھر دری سی آواز ان کے کان میں آئی: "سنا پئے گردیزی صاحب! نو دن کیسے گزرے بیٹے کے بغیر؟"

"خ.....خ.....خدا کے لیے..... تم جو کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔"

"آرام سے، آرام سے۔ گھبرائیں نہیں گردیزی صاحب! اطمینان اور سکون سے میری بات سن لیں۔ کسی بھی ذریعے سے پولیس کو خبردار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نہ یہ موبائل نمبر پولیس کو دیں۔ ہماری کسی بات کی بال برابر بھی خلاف ورزی ہوئی تو آپ اپنے بیٹے کو زندہ سلامت نہیں پائیں گے۔ اس صورت میں آپ کو کیا ملے گا، گوشت اور ہڈیوں کا قیر۔"

"نن..... نہیں..... نہیں۔" "وجاہت نسیم چلائے۔"

"آپ نے آواز بہت بلند کر لی ہے، شاید باہر بیٹھی پولیس کو متوجہ کرنے کے لیے، لیکن گردیزی صاحب! صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ اس طرح نقصان صرف آپ کے بیٹے کو ہوگا، دیکھیے نا ہم لوگ تو خطرات کی آگ بھڑکا ہی چکے ہیں۔ اس آگ میں کون کون جلتا ہے، کون نہیں، نقصان میں آپ کا بیٹا رہے گا، کیوں کہ جب ہم دیکھیں گے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ پولیس نے ہمیں گھیر لیا ہے تو انتقام لینے کے لیے کم از کم..... کم از کم..... آپ کے بیٹے کو تو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔" دوسری طرف سے کہا گیا پھر خاموشی چھا گئی۔

”مم..... میں پولیس کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دوں گا تم بتاؤ، کیا چاہتے ہو؟“

”ہا ہا ہا۔“ نامعلوم شخص نے قہقہہ لگایا، پھر کہنے لگا: ”گردیزی صاحب! اتنی جلدی نہ کریں، آپ نے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کا بیٹا میرے پاس ہے یا نہیں۔ یہ لیں پہلے اس سے بات کر لیں، اپنا کلیجہ اس کی آواز سے ٹھنڈا کر لیں۔“

پھر ان کے بیٹے توقیر کی آواز سنائی دی۔

”ابو!“

”میرا بیٹا! میرا بیٹا۔“

اس کے ساتھ ہی ان کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا گیا۔ ایسا بیگم گردیزی نے کیا تھا: ”میرا بچہ! میں..... میں تمہاری ماں ہوں..... بولو بیٹا۔“

”امی! امی۔“ توقیر کی آواز آئی، پھر وہ سسکنے لگا۔ اب وجاہت گردیزی نے موبائل بیگم کے ہاتھ سے لے لیا، ادھر وہ نامعلوم شخص ان کے بیٹے سے موبائل لے چکا تھا۔

”ہاں گردیزی صاحب! آپ نے اپنے بیٹے کی آواز پہچان لی؟“

”ہاں پہچان لی، لیکن تم دیر کیوں لگا رہے ہو؟ تم بات کرو نا، بتاؤ چاہتے کیا ہو..... کیوں ماں باپ کا امتحان لے رہے ہو؟“

”کیا کہا گردیزی صاحب! امتحان..... واہ بہت خوب۔ کیا لفظ بول دیا آپ نے۔ ہے تو یہ امتحان ہی۔“

”کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ امتحان ہے، کس کا؟“

”آپ کا، آپ کی بیگم کا، آپ کے بھائی کا، آپ سب کا امتحان ہے اور نو دن گزر چکے ہیں۔ پولیس تو اس امتحان میں پہلے ہی فیل ہو چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون پاس ہوتا ہے اور کون فیل۔“

”تم..... تم پیلیاں نہ بھجواؤ، صاف بات کرو۔“ وجاہت نسیم چلا اٹھے۔

”نہ..... نہ سیٹھ صاحب! نہ..... اتنی تیز آواز میں بات نہ کرو، اتنی بلند آواز میں بھی نہیں۔ آپ بھول رہے ہیں، آپ کا بیٹا اس وقت بھی میرے جوانوں کے بازوؤں میں پل رہا ہے۔ شیرو! ذرا اس کے بازو میں ایک سوئی چھو، تاکہ گردیزی صاحب کے کانوں تک ان کے بیٹے کی ایک چیخ تو پہنچ جائے۔“

”نن..... نہیں..... ایسا نہ کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے، ایسا کرنے کی، جب کہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں اور تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم چاہتے کیا ہو؟“

”اچھی بات ہے، شیرو! رہنے دو۔ سوئی نہ چھوؤ۔ جب گردیزی صاحب ہماری بات نہیں مانیں گے تو سوئی تو بہت معمولی چیز ہے ہم خنجر بھی آزمائیں گے۔“

”نن..... نہیں۔“ وجاہت گردیزی گڑگڑانے لگے۔

”اچھا تو سنو گردیزی! ہم بھی ایسا چاہتے ہیں جو اس قسم کا کام کرنے والے چاہا کرتے ہیں۔ کیا سمجھے؟“ یہ کہتے ہوئے بات کرنے والے نے قبہہ لگایا۔

”بس! اتنی سی بات..... تم دولت چاہتے ہو، بولو۔ کتنی دولت چاہتے ہو؟“

”صرف دولت ہی نہیں اور بھی کچھ۔“

”اور بھی کچھ، کیا مطلب؟“

”گردیزی صاحب! بھلا آپ کے بیٹے کی آپ کی نظروں میں کیا قیمت ہو گی؟“ اس نے پوچھا۔

”میرے بیٹے کی قیمت.....“ انہوں نے حیرت سے کہا۔

”ہاں! آپ کے بیٹے کی قیمت کیا ہوگی بھلا؟“

”یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ ماں باپ کے نزدیک اولاد کی کوئی قیمت ہو ہی

WWW.PAKSOCIETY.COM

نہیں سکتی۔ دنیا کی دولت ایک طرف، اولاد ایک طرف، تم اپنا مطالبہ بتاؤ؟“

”میرا مطالبہ تو آپ نے خود بتا دیا ہے گردیزی صاحب!“

”کیا مطلب؟“ وجاہت نسیم نے حیرت سے پوچھا۔

”آپ نے خود کہا ہے دنیا کی دولت ایک طرف، اولاد ایک طرف، گویا ساری

دنیا کی دولت بھی اولاد کے مقابلے میں کم ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟“

”ہاں، یہی بات ہے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اپنا مطالبہ بتاؤ؟“ وجاہت نسیم کو

غصہ آ گیا۔ ان کی آواز بلند ہو گئی۔

”آپ کی آواز پھر بلند ہو گئی، لہجے میں غصہ آ گیا شیر و ایک لمبی والی سوئی تو اس

کے بازو میں.....“

”نہیں..... نہیں۔ میں تمھاری بات سن رہا ہوں۔ اب آواز بھی اونچی نہیں کروں

گا۔ غصہ نہیں کروں گا، تم اپنی بات پوری کرو۔“

”بات تو کب کی پوری ہو چکی گردیزی صاحب! آپ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی

نہیں کر رہے یا سمجھ رہے ہیں تو انجان بن رہے ہیں۔“

”کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟“ وجاہت نسیم نے ناگواری سے کہا۔

”اچھا تو پھر گردیزی صاحب! اب بات ہو جائے صاف اور سیدھے الفاظ

میں، جس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کیا مطلب۔ آپ نے خود کہا ہے آپ کے بیٹے کی

قیمت تو پوری دنیا کی دولت بھی نہیں ہو سکتی، یہی کہا ہے نا آپ نے؟“

”ہاں! یہی کہا ہے۔“ انھوں نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا اب وہ انخوا کرنے

والے کا مطلب کچھ کچھ سمجھ رہے تھے اور خود کو اس کے مطالبے کے لیے تیار کر رہے تھے۔

”تو پھر یہی ہے ہم لوگوں کا مطالبہ۔“

”کیا..... کیا مطلب..... کیا ہے مطالبہ؟“ انھوں نے پوچھا۔

”آپ نے پھر یہی کہا، کیا مطلب..... حال آں کہ مطلب بالکل واضح ہے۔ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے، آپ کو اپنی ساری دولت دینا ہوگی، اپنی بل ہی نہیں، بلکہ اپنی کوٹھی بھی دینا ہوگی۔“

”کیا.....“ وہ چیخ اٹھے۔ ان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔

”جی ہاں گر دیزی صاحب! یہی ہے آپ کے بیٹے کی قیمت! اور یہ میں نے نہیں خود آپ نے کہا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں یہ ناممکن ہے تو پھر ہمارے لیے آپ کے بیٹے کا گلا کاٹ دینا کچھ بھی مشکل نہیں، فیصلہ تو اب آپ کو کرنا ہے، بیٹے کی لاش وصول کرنا پسند کریں گے یا زندہ سلامت بیٹا؟ زندہ سلامت بیٹا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سب کچھ دینا ہوگا، سب کچھ۔ آپ صرف وہ اپنے پاس رکھیں گے جو میں کہوں گا اور یہ میں چند دن بعد بتاؤں گا۔ پہلے آپ غور کر لیں، فیصلہ کر لیں، کسی نتیجے پر پہنچ جائیں۔ گر دیزی صاحب! میں آپ کو پھر فون کروں گا۔“

”نہیں..... نہیں..... فون بند نہ کریں۔“

انھوں نے فون بند ہونے کی آواز سنی۔ ان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر قالین پر گر پڑا۔ وہ بت بنے بیٹھے رہ گئے۔ ان کی پھٹی پھٹی آنکھیں اپنی بیگم کے چہرے پر گڑی رہ گئیں۔ ان کے چھوٹے بھائی کرامت نسیم اور چھوٹی بہن فخر النساء بھی سکتے کے عالم میں بیٹھے رہ گئے، کیوں کہ یہ گفتگو ان سب نے بھی سنی تھی۔

”تت..... تم نے سنا بیگم! وہ میرے بیٹے کی کیا قیمت مانگ رہے ہیں؟“

”ہاں، میں نے سنا۔ ہم سب نے سنا۔ تو پھر.....؟ کیا آپ انکار کر دیں گے۔ دولت کی خاطر بیٹے کی لاش وصول کریں گے؟ کیا آپ اپنے الفاظ کے خلاف کریں

گے؟ میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گی، اس لیے کہ میں ماں ہوں..... ماں..... ماں اپنا سب کچھ دے سکتی ہے، اپنی ہر چیز، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے سکتی ہے۔ آپ باپ ہیں۔ آپ کو بھی یہی کچھ کرنا ہوگا۔“

”ہاں بیگم! ہاں، آپ گھبرا ئیں نہیں مشکل یہ ہے کہ اس نے فون بند کر دیا ہے ورنہ میں تو اس سے اسی وقت بات کر لیتا اور تم یہ خیال نہ کرو کہ تو قیر صرف تمہارا بیٹا ہے میرا نہیں ہے، ہمارا سب کچھ ہمارا بیٹا ہے۔ میں اس کی خاطر اپنی ساری دولت تو کیا، خود کو بھی دے سکتا ہوں، لیکن اب ہم مجبور ہیں اس کا فون آنے تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔“

وجاہت نسیم کے چھوٹے بھائی نے ہنکارا بھرا اور جب وہ اس کی طرف مڑے تو اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا: ”بھائی جان! مشورے کے بغیر انخوا کرنے والوں کی کوئی بات تسلیم نہ کریں۔“

”کیا مطلب؟“ وجاہت نسیم چونکے۔

”میرا مطلب ہے، ہمارے پاس ابھی وقت ہے، انخوا کرنے والے کا فون اب چند دن بعد ہی آئے گا، لہذا آپ کم از کم انسپکٹر وقار بیگ سے مشورہ کر لیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ایک بہت اچھے پولیس آفیسر ہیں۔ ضرور مفید مشورہ دیں گے۔“

”نہیں..... ہرگز نہیں..... آپ..... آپ ایسا نہیں کریں۔ سنا آپ نے، آپ ہرگز ہرگز پولیس سے رابطہ نہیں کریں۔“ بیگم وجاہت بولیں۔

”لیکن بھابھی! ہم انھیں صرف مشورے کے لیے بلائیں گے۔“ کرامت نسیم

نے منہ بنایا۔

”اگر انخوا کرنے والے کو پتا چل گیا کہ ہم نے پولیس انسپکٹر کو بلایا ہے تو وہ نہ جانے کیا کر گزرے، لہذا میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔“ بیگم وجاہت نے

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریٹریوم ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سیریم کوالٹی، ہارٹل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈفری لنکس، لنکس کو میسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

✦ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

✦ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

پُر زور انداز میں کہا۔

”بھابھی صاحبہ! آپ ذرا ٹھنڈے دل سے بات سن لیجیے، پھر جو آپ کا جی

چاہے کیجیے گا۔“

”میں کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔“ وہ ناگواری سے بولیں۔

”راشدہ! بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں، ہم اپنے گھر میں ہیں، اغوا کرنے

والا ہماری باتیں نہیں سن رہا۔“

راشدہ بیگم نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی، پھر بولیں: ”اچھی بات ہے، کہیے۔“

لہجہ اب بھی سخت تھا۔

”میں انسپکٹر کو خفیہ طور پر پیغام دوں گا۔ وہ سادہ لباس میں ایک عام آدمی کی

حیثیت سے آئیں گے اور پھر مل کر ان سے مشورہ کر لیں گے۔ آخر وہ پولیس والے

ہیں، اس قسم کے معاملات سے گزرتے رہتے ہیں۔ مشورے میں برکت ہے۔ یہ میں

نہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے۔“

”میرا خیال ہے راشدہ! ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ سادہ لباس میں

یہاں آ جائیں گے۔ اس طرح کسی کو کانوں کان پتا نہیں چلے گا کہ ہمارے گھر میں کوئی

پولیس افسر آئے ہیں۔ پھر ہم ان سے صرف مشورہ کریں گے۔“

”لیکن میں یہ چاہتی ہوں، ہم کچھ نہ کریں۔ چپ چانپ اس کا مطالبہ پورا

کر دیں اور تو قیر کو زندہ سلامت حاصل کر لیں۔ اس کے بعد پولیس حرکت میں آئے۔“

”بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں انسپکٹر وقار بیگ کو ساتھ ملانا

ہوگا۔ انہیں حالات سے باخبر رکھنا ہوگا۔ وہ سامنے نہیں آئیں گے، لیکن پس پردہ رہ کر اپنا

کام کریں گے۔ بھابھی! آپ اطمینان رکھیں، پہلے ہم اس درندے سے تو قیر کو حاصل

کر لیں۔“

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ عیسوی ۱۰۸

خاص نمبر

WWW.PAKSOCIETY.COM

کریں گے، پھر کوئی قدم اٹھائیں گے، لیکن کوشش تو پہلے ہی شروع کی جائے گی۔ اگر ہم نے پہلے سے کوئی تیاری نہ کی تو پھر ہم اس کا سراغ شاید ہی لگا سکیں اور یہ آپ سوچ ہی سکتی ہیں، اس کا مطالبہ کوئی چھوٹا سا مطالبہ نہیں ہے۔ وہ ہمارا سب کچھ مانگ رہا ہے۔ اس کا مطالبہ پورا کرنے کے بعد اگر ہم نے اس کا سراغ کھو دیا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تک دستی کی پہاڑ جیسی زندگی ہمارے سامنے ہوگی۔ یہ سب باتیں سوچ کر ہی فیصلہ کریں۔“

بیگم و جاہت چند سیکنڈ تک کرامت نسیم کی طرف دیکھتی رہیں، پھر انھوں نے کہا:

”میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اسے ذرا بھی سن سن مل گئی کہ ہم اس کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے، لہذا کرامت میرے بھائی! تمہاری ساری باتیں اپنی جگہ درست ہوں گی، لیکن ایک ماں کے دل کو نہیں لگیں۔ میرا دل ان سب باتوں کو درست نہیں سمجھتا۔ میں صرف اور صرف اپنا بیٹا صحیح سلامت چاہتی ہوں، میری طرف سے یہ ساری دولت اسے دے دی جائے۔ مجھے نہیں چاہیے دولت، نہ یہ کوشی، نہ یہ کاریں اور نہ ان کی بیل۔ مجھے تو بس اپنا تو قیر چاہیے، جس نے اس قدر صفائی سے یہ جرم کیا ہے۔ آپ اسے بے خبر نہ سمجھیں، ضرور اس کا کوئی ماتحت ہماری حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہوگا اور جونہی اسے معلوم ہوگا کہ ہم پولیس سے رابطہ کر رہے ہیں۔ وہ..... وہ..... میرے بیٹے کو.....“

اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکیں۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ آخر و جاہت نسیم نے پریشانی کے عالم میں کہا: ”بیگم! تم فکر نہ کرو، ہم وہی کریں گے جو تم کہو گی۔ یہ تو ہم امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔“

”مجھے نہیں لینا حالات کا جائزہ۔“ وہ جھلا اٹھیں۔

”اچھا ٹھیک ہے، ہم نہیں لیں گے جائزہ، نہیں لیں گے۔ پولیس کی مدد بھی نہیں لیں

گئے، لیکن بیگم! تم خود غور کرو ہم اس کے فون کا انتظار کریں گے اور بس۔“ انھوں نے پوچھا۔
ٹھیک سات دن کے جان لیوا انتظار کے بعد ان کے موبائل کی گھنٹی بجی۔

..... ☆..... ☆.....

”ہاں وجاہت نسیم گردیزی صاحب! ایک ہفتہ گزر گیا۔ اب تک تو آپ نے
خوب سوچ بچار کر لی ہوگی؟ کیا فیصلہ کیا آپ نے؟“

اس وقت تک ان کی بیگم اور ان کے بھائی اور بہن ان کے پاس آچکے
تھے۔ موبائل اسپیکر پہلے ہی آن تھا، اس لیے ہونے والی بات سب سن رہے تھے۔

”ہاں ہم سوچ چکے ہیں ہم نے پولیس سے رابطہ نہیں کیا۔ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟“

”ظاہر میں تو ایسا ہی لگتا ہے آپ نے پولیس سے رابطہ نہیں کیا، نہ پولیس آپ کے

گھر آئی، لیکن ہو سکتا ہے چھپ چھپا کر ان سے بات چیت چل رہی ہو، لیکن سیٹھ صاحب!

آپ اتنا سن لیں اگر اس لین دین کے بعد اور آپ کے بیٹے کی رہائی کے بعد پولیس حرکت

میں آئی تو ہمارے لیے تو قیر کو پھر سے اغوا کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہوگا اور اس وقت ہمیں

دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لہذا جواب میں آپ کو بیٹے کی لاش کا تحفہ ہی ملے

گا۔ یہ اب آپ سوچ لیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میرا ایک گروہ ہے۔ اگر میں پکڑا گیا تو

بھی میرے کارندے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ میرا نائب میری جگہ لے لے گا۔ وہ مجھ سے

زیادہ سخت مزاج ہے۔ میں نے تو تم لوگوں کے کہنے پر سوئی نہیں چھوئی تھی۔ اب جو قدم بھی

اٹھانا، سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ میں جانتا ہوں، انسپکٹر وقار بیگ اس گھر کے دوست ہیں۔ آپ

لوگوں نے انھیں مدد کے لیے پکارنے کا ارادہ ضرور کیا ہوگا، لیکن بیگم صاحب آڑے آگئی ہوں

گی۔ آپ کی بیگم اس معاملے میں زیادہ ذہین ہیں۔ مامتا کچھ بھی تو سوچنے نہیں دیتی، دیکھیے

سیٹھ صاحب! ہم لوگ تو پہلے ہی ذہنی طور پر جیل جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں

WWW.PAKSOCIETY.COM

کا ایک اصول ہے اور وہ ہے، آریا پار۔ اصل مسئلہ تو آپ کے بیٹے کا ہے۔ آپ کا کوئی بھی غلط قدم آپ کے بیٹے کی زندگی پر سوالیہ نشان لگا دے گا۔ آج کل پولیس موبائل سیموں کے ذریعے جلد سراغ لگاتی ہے اور بھی بہت جدید طریقے اس نے سیکھ لیے ہیں، اس کے باوجود کچھ جرائم پیشہ ایسے ہیں جو پکڑے نہیں جاتے۔ ظاہر ہے انھیں اور زیادہ جدید طریقے آتے ہوں گے۔ اپنا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ آپ ہمارے اغوا کرنے کے طریقے کو ہی دیکھ لیں۔ کیا پولیس کچھ اندازہ قائم کر سکی کہ ہم نے یہ کام اتنے آرام سے کیسے کر لیا؟ میں صرف آپ کی اطلاع کے لیے بتا دیتا ہوں ہم لوگ پہلے پوری معلومات حاصل کرتے ہیں، پوری منصوبہ بندی کرتے ہیں، بہت دنوں تک غور کرتے ہیں، تب قدم اٹھاتے ہیں۔ خیر، بات ایسی ہو گئی، اب یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے ضرور یہ پروگرام بنایا ہو گا کہ پہلے بیٹا واپس حاصل کر لیتے ہیں، پھر ہمارے خلاف کارروائی شروع کی جائے گی۔ اس میں ہر اسر آپ کا نقصان ہو گا۔ اپنی دولت ہمارے نام کر کے، بیٹا حاصل کر کے آپ سکون سے رہیں گے، یعنی اس معاملے کو یہیں ختم کر کے آگے بڑھائیں گے تو ظاہر ہے ہمیں بھی تو اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا ہو گا، اور کچھ یہی ہو گا کہ ہم آپ کے بیٹے کو پھراغوا کر لیں گے، کیوں کہ ہم اس طرح خود کو آسانی سے بچا سکیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ سوچ لیں، میں پھر کسی وقت فون کروں گا۔“

”سنو..... سنو..... فون بند نہ کرو۔“ وچاہت نسیم گردیزی نے کہا۔ پھر انھوں نے منہ بنا کر موبائل آف کر دیا، کیونکہ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔

”دیکھا آپ نے..... دیکھا آپ نے..... جو میں کہہ رہی تھی..... وہی درست تھا۔ ہاں اور جو آپ منصوبہ بنا رہے ہیں، وہ غلط ہے۔ اس میں میرے بیٹے کو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ ذرا غور کریں، اس طرح بعد میں ہمارے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔“

ماہ نامہ ہمدرد نو تہاں جون ۲۰۱۴ عیسوی ۱۱۱

خاص نمبر



ہم شکھ کا سانس نہیں لے سکیں گے۔ ساری دولت دے کر بھی پریشانیاں اپنے پاس رکھنا کوئی عقل مندی ہے بھلا۔“ بیگم و جاہت جھلائے ہوئے انداز میں کہتی چلی گئیں۔

ان کے خاموش ہوتے ہی وہاں موت کا سناٹا طاری ہو گیا۔ ان سب کے دماغ بھائیں بھائیں کر رہے تھے۔ آخر جاہت نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا: ”ہاں کرامت! تم نے اس کی باتیں سن لیں۔ اب کہو، کیا کہتے ہو؟“

”تقدیر میں اگر یہی کچھ ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت اسے دے دیں اور پھر کچھ نہ کریں تو پھر یونہی سہی۔“ کرامت نے کندھے اُچکا دیے۔

دوسرے دن شام کے وقت اغوا کرنے والے کا فون آ گیا۔ انہوں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا: ”یہ میرا آخری فون ہے، یعنی اگر آپ نے فیصلہ نہ سنایا تو پھر میں فون کرنے کا سلسلہ بند کر دوں گا۔ پھر آپ لگواتے رہے گا میرا سراغ اپنے انسپکٹر وقار کے ہاتھوں۔“

”سنو میاں! ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ کے خلاف کبھی بھی پولیس کا رروائی نہیں کروائیں گے۔ اپنے بیٹے کو لے کر ایک طرف ہو جائیں گے۔“

”بس تو پھر سیٹھ صاحب! آپ اپنی مل کو فروخت کر دیں۔ جلد از جلد، اس کا گاہک تلاش کریں۔ اپنی کوٹھی بھی فروخت کر دیں۔ بینک میں جمع رقم بھی ان دونوں کی رقم میں شامل کر لیں۔ میں بینک اکاؤنٹ نمبر آپ کو ایس ایم ایس کر دوں گا۔ آپ وہ رقم اس میں جمع کرادیں۔ جونہی میرے اکاؤنٹ میں سیلنس آئے گا، آپ کا بیٹا آپ کے گھر پہنچ جائے گا، لیکن کون سے گھر؟“

”کیا..... کیا..... کون سے گھر؟“

”ہاں! کون سے گھر؟ یہ کوٹھی تو آپ فروخت کر دیں گے۔ اب سنیں، آپ دس لاکھ روپے اپنے پاس رکھ لیں۔ اس سے کوئی گھر خرید لیں یا کرائے کا مکان لے لیں۔ میں

اس کا پتہ فون پر پوچھ لوں گا۔ بیٹا وہاں آئے گا۔“

”ٹھیک ہے۔ ہم ایسا ہی کریں گے اور جلد از جلد کریں گے، ویسے تم میری بات پر

یقین کرو اور آج ہی میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ رقم تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی۔“

”نہیں۔ اتنا اعتبار میں آپ پر نہیں کر سکتا۔“ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔

..... ☆..... ☆.....

دوسرے دن کے اخبارات میں مل اور کوٹھی برائے فروخت کے اشتہارات شائع

ہوئے۔ دونوں چیزوں کو نیلامی کے ذریعے سے فروخت کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے

اسی روز صبح سویرے وجاہت نسیم ایک چھوٹا سا مکان لینے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اپنا

مختصر سا سامان بھی وہاں منتقل کر دیا۔ سارا سامان تو اس مکان میں آ نہیں سکا تھا۔

مقررہ وقت پر بہت سے لوگ نیلامی میں شریک ہوئے، مل اور کوٹھی کی بولی لگی اور

آخر دونوں چیزیں شہر کے ایک گم نام رئیس نے خرید لیں۔ اسی روز انہوں نے والے کا فون

آگیا۔ اس نے بتایا: ”میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر ایس ایم ایس کر دیا ہے۔“

”اچھی بات ہے۔ صبح سویرے رقم آن لائن ہو جائے گی۔“

”ادھر بیلنس آئے گا، ادھر آپ کے بیٹے کو بھیج دیا جائے گا۔ آپ اپنے نئے گھر کا

پتہ لکھوادیں۔“

انہوں نے پتہ لکھوادیا۔ دوسرے دن صبح سویرے وجاہت نسیم گرویزی نے رقم

آن لائن بھیج دی۔ بنک نے بیلنس ایس ایم ایس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وجاہت نسیم کے

نئے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ان سب نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو قیر وہاں موجود

تھا۔ وہ اس سے لپٹ لپٹ کر رونے لگے تو قیر حیرت زدہ سا ان سے لپٹ بھی رہا تھا اور

رو بھی رہا تھا اور یہ بھی پوچھ رہا تھا: ”ابو! امی! انکل! باجی! یہ موقع تو خوش ہونے کا ہے۔“

ماہ نامہ ہمدرد تو نہال جون ۲۰۱۳ عیسوی ۱۱۳

خاص نمبر

ہم سب رو کیوں رہے ہیں اور یہ ہم کس کے گھر میں ہیں؟ ہم سب اپنے گھر میں کیوں نہیں ہیں؟“
 ”آؤ بیٹا! اندر آ جاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے۔ ہم یہاں کیوں ہیں
 اور ہم وہاں کیوں نہیں ہیں۔“

وہ اسے خود سے لپٹائے ہوئے اندر لے آئے۔ اب سب ایک جگہ پر بیٹھ
 گئے۔ سب سے پہلے تو انہیں توقیر کی حیرت دور کرنی تھی۔ انہوں نے اسے ساری کہانی
 سنائی تو توقیر دھک سے رہ گیا۔ مارے حیرت کے اس کے منہ سے نکلا: ”آپ..... آپ کا
 مطلب ہے ابوا آپ نے مجھے ان لوگوں سے چھڑانے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا۔ اپنی
 بل دے دی، کوٹھی دے دی، گاڑیاں بھی دے دیں؟“

”یہ تو کچھ بھی نہیں بیٹے! ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ دولت ہوتی تو تمہیں
 چھڑانے کے لیے ہم وہ سب دے دیتے۔ تم..... تم ہمارے لیے زیادہ قیمتیں ہو۔ زیادہ
 اہم ہو۔“

”ابو! امی! چچا جان! پھوپھو!“ اس نے درو بھرے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر وہ
 سب لپٹ گئے۔ ان کے رونے کی آواز بلند ہو گئی، لیکن ان کا یہ رونا جہاں غم کا رونا تھا، وہاں
 خوشی کا بھی تھا۔ گویا خوشی اور غم گلے مل رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ روتے رہے۔ ان کے
 آنسو نکل نکل کر ان کا غم دھوتے رہے۔ رو کر دل و دماغ کچھ ہلکے ہوئے تو سب خود کو تروتازہ
 سا محسوس کر رہے تھے، گویا رنج اور غم کے بادل چھٹ گئے ہوں، دل و دماغ پر چھائی پریشانی
 کہیں دور چلی گئی ہو۔ توقیر کو کچھ دیر بعد خیال آیا، اس نے کہا: ”اور ابو! یہ مکان؟“

”انگوا کرنے والے نے کم از کم اتنی انسانیت کا ثبوت دیا ہے کہ ہمیں دس لاکھ
 روپے اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی تھی، تاکہ ہم اس سے کوئی چھوٹا موٹا مکان خرید لیں۔“
 ”تو آپ نے یہ مکان دس لاکھ میں خریدا ہے؟“

ماہ نامہ ہمدرد ٹونہال جون ۲۰۱۴ عیسوی ۱۱۳

خاص نمبر

”نہیں! یہ کرایے کا ہے۔“ وہ مسکرائے۔

”کرایے کا۔“ ان سب کے منہ سے نکلا۔

”ہاں! اگر میں دس لاکھ کا مکان خرید لیتا تو کوئی کام کیسے شروع کرتا؟ کھاتے

پیتے کہاں سے؟ اب ہم اس رقم سے اپنا کام بہت چھوٹے سے پیمانے پر کریں گے۔ روزی تو کمائی ہوگی یا پھر کسی بل میں ملازمت۔“

”نہیں بھائی جان! اس سے بہتر اپنا کام کر لیا جائے۔ چاہے بالکل چھوٹے

پیمانے پر ہو۔“

عین اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے چونک کر ایک دوسرے کی

طرف دیکھا، کیوں کہ یہاں ان کا کوئی واقف نہیں تھا۔ ان کے اس گھر کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔

”میں دیکھتا ہوں۔“ یہ کہہ کر کرامت نسیم اٹھ کھڑے ہوئے۔

جونہی انہوں نے دروازہ کھولا، زور دار آواز آئی: ”السلام علیکم!“ یہ آواز تھی

انسپکٹر وقار بیگ کی۔

”اوہ آپ! حیرت ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ہم یہاں.....“ کرامت نسیم

حیرت زدہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ انسپکٹر وقار بیگ نے بات کاٹ دی۔

”آخر میں ایک پولیس انسپکٹر ہوں۔“

”آئیے، اندر آ جائیے۔“

وہ انہیں اندر لے آئے۔ ان کی آواز سنتے ہی بیگم و جاہت کا تو رنگ ہی اڑ

گیا۔ ان کے منہ سے مارے خوف کے نکلا: ”نہیں..... نہیں..... انسپکٹر صاحب! آپ نے

یہاں آ کر اچھا نہیں کیا۔ اسے ضرور پتا چل جائے گا اور..... وہ..... اور وہ۔“ وہ اس سے

زیادہ کچھ نہ کہہ سکیں اور رونے لگیں۔

”ارے ارے، آپ تو رونے لگیں بھابی صاحبہ! کچھ نہیں ہوگا۔ جو کچھ اسے کرنا

تھا، کر چکا ہے، اب ہماری باری ہے۔ ہم اس سے ساری دولت واپس لے لیں گے۔“

”ہرگز نہیں۔ آپ کچھ نہیں کریں گے۔ ہمارا اس سے معاہدہ ہو چکا ہے۔“ وہ

بولیں: ”آپ کیوں خاموش ہیں، انھیں بتا کیوں نہیں دیتے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ہم

اسی حال میں خوش ہیں۔ ہمیں ہمارا بیٹا مل گیا اور بس۔ اللہ کا شکر ہے، کیوں ٹھیک کہانا میں

نے۔“ ان کا انداز بہت جذباتی ہو گیا۔

”ہاں بیگم! آپ نے ٹھیک کہا۔ ہم اغوا کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی

نہیں کریں گے۔ ہم اس سے معاہدہ کر چکے ہیں اور اب اس معاہدے کی خلاف ورزی

نہیں کریں گے۔“

”یہ..... یہ آپ کیا کہ رہے ہیں؟ کیا اتنے بڑے مجرم کو یونہی چھوڑ دیا جائے

گا! وہ اس دولت کے بل پر عیش کرتا پھرے گا، دندناتا رہے گا۔ ہمیں یہ تو کسی طرح بھی

درست نہیں ہوگا۔ اسے اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ اسے جیل میں ہونا چاہیے۔“

”میں نے کہانا ہمارا اور اس کا معاملہ ہے۔ ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی

نہیں کرنا چاہتے۔ اگر اس نے پھر ہمارے بیٹے کو اغوا کر لیا تو ہم کیا کریں گے؟ اب تو اسے

دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ انتقام لیے بغیر رہے گا نہیں، لہذا ہم اتنا

کچھ دے کر بھی اپنے بیٹے سے محروم ہو جائیں گے۔“ وہ کہتی چلی گئیں۔

”وقار بیگ! میری بیگم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آپ اس معاملے کو ہمیں ختم سمجھ

لیں اور آئیے ہمارے ساتھ چائے پیئیں، کیوں کہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کیسے معلوم

ہو گیا کہ ہمارا بیٹا آ گیا ہے اور ہم یہاں اس گھر میں ہیں؟“

ان کا سوال سن کر انسپکٹر وقار بیگ کے چہرے پر مسکراہٹ آگئی۔ انھوں نے کہا: ”آپ کیا سمجھتے ہیں! آپ نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تو میں نے خود کو اس کیس سے الگ کر لیا ہوگا؟ جی نہیں، میں شروع دن سے اس وقت تک اس معاملے سے پوری طرح باخبر رہا ہوں، لیکن چاہتا میں بھی یہی تھا کہ پہلے تو قیرمیاں آجائیں اور ان کے آنے سے پہلے کچھ نہ کیا جائے، چنانچہ میں نے کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ صرف اتنا کیا کہ دو سادہ لباس والے بہت ہی احتیاط سے آپ کی کونٹھی کی نگرانی پر لگا دیے، تاکہ حالات معلوم ہوتے رہیں۔ جب میں نے اخبارات میں کونٹھی اور میل وغیرہ کی نیلامی کے اشتہارات پڑھے تو میں نے جان لیا کہ سودا طے پا گیا ہے، لہذا میں اس گھر کے بارے میں بھلا کیوں بے خبر ہوتا۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت دے دیں۔ میں اس کا سراغ لگا لوں گا، اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس طرح آپ کو آپ کی ساری دولت واپس مل جائے گی۔“

”نن..... نہیں۔ اب یہ نہیں ہوگا، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ آپ میرے دوست ہیں نا۔“

”میں دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پولیس آفیسر بھی تو ہوں۔“ وقار بیگ مسکرائے۔

”پہلے، پہلے تو آپ میرے دوست ہیں نا، کالج کے زمانے کے میرے کلاس فیلو ہیں نا۔“

”ہاں تو دوست ہونے کے ناتے آپ میرا ساتھ دیں۔“

”لیکن میں اس معاملے میں اپنی بیگم کے ساتھ ہوں اور کوئی کارروائی کرنے کی اجازت دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔“

”اچھی بات ہے..... آپ لوگوں کی مرضی۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔“ وقار بیگ نے ناخوش گوار لہجے میں کہا۔

”وقار بیگ میرے دوست! آپ ناراض نہ ہوں۔ حالات کی نزاکت کو محسوس کریں۔“

”ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔“ انھوں نے کندھے اچکائے، پھر وہ

چائے پی کر رخصت ہو گئے۔

”کیوں بیگم! ہو گیا آپ کا اطمینان۔ ہمارے لیے اپنے پیارے بیٹے سے اچھا کچھ نہیں۔“

”بے شک!“ ان کے منہ سے نکلا۔

”اور اب ہمارا بیٹا تعلیم حاصل کرے گا۔ ایک بہترین انجینئر بنے گا۔ میرے

خواب کی تعبیر ثابت ہو گا۔“ انھوں نے جذباتی آواز میں کہا اور ایسا کہتے ہوئے ان کی

آنکھوں میں آنسو آ گئے۔

”خواب کی تعبیر..... جی..... کیا مطلب؟“ تو قیر نے پوچھا۔

”ہاں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں آج ہی سے اس خواب پر کام شروع

کر رہا ہوں۔“ وجاہت نسیم نے کہا۔

”آپ نے ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ اس خواب پر کام شروع کر رہے

ہیں۔ بھلا خوابوں پر بھی کام شروع کیے جاتے ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو

ہیں؟ بسکی بسکی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟“ بیگم وجاہت گھبرا گئیں۔

ان کی بیگم کو خیال آیا کہ ان کے شوہر کا دماغ چل گیا ہے۔

دوسری طرف وجاہت نے مسکرا کر کہا: ”گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ الحمد للہ

میں بالکل ٹھیک ہوں، میری دماغی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ خواب ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، یہ

کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خوابوں کے سہارے زندگی بسر کریں

گے۔ ہم زندگی کو زندگی کے سلیقے سے بسر کریں گے۔ ہم کل سے اپنے کام کی ابتدا کر رہے

ہیں، کیوں کہ بے کار بیٹھنا شیطان کا کام ہے۔“

”آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جان!“ کرامت نسیم نے ان کی تائید کی۔ دوسرے دن تو قیر اپنے اسکول چلا گیا۔ وجاہت اور نسیم نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بیگم وجاہت نے گھر کے کام سنبھال لیے، انھیں بھی اب نئے سرے سے اس چھوٹے سے گھر کو سنوارنا تھا۔ اسے رہائش کے قابل بنانا تھا۔ آس پاس کی عورتوں سے تعلقات قائم کرنا تھے، کیوں کہ پڑوسیوں کے ساتھ انسان کا وقت اچھا گزرتا ہے۔ جو سب سے الگ تھلگ رہتے ہیں، ان کی زندگی مشکل اور خشک ہوتی ہے اور وہ ایسی زندگی کے قابل نہیں تھے۔ انھیں اب خود کو نئے حالات میں ڈھالنا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ انسان جتنی چادر دیکھے، اتنے پاؤں پھیلائے۔

.....☆.....☆.....

”کیا رہا سر؟“ انسپکٹر وقار بیگ تھکے تھکے سے اپنے دفتر میں داخل ہوئے تو ان کے ماتحت احسن خان نے سلام کرنے کے بعد پوچھا۔

”مزہ نہیں آیا۔“ انھوں نے منہ بنایا۔

”جی..... کیا فرمایا آپ نے..... مزہ نہیں آیا، میں سمجھا نہیں سر؟“

”ہاں احسن خان! مزہ نہیں آیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اب دوست کا بیٹا گھر آ گیا ہے تو ہم کھل کر اغوا کرنے والے کے خلاف کام شروع کریں گے اور اس کا سراغ لگا کر رہیں گے، لیکن.....“ وہ کہتے کہتے رک گئے۔

”لیکن کیا سر؟“ احسن خان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔

”میرے دوست وجاہت نسیم مجرم کے خلاف کیس درج کروانے پر آمادہ نہیں۔ دراصل اغوا کرنے والے نے انھیں ڈرا ہی اتا دیا ہے اور ان کا ڈر بھی بجا۔ ہم بھی تو اس کا سراغ نہیں لگا سکے۔ ان حالات میں وہ ڈرتے ہیں۔ کیس شروع ہونے کے بعد وہ پھر

توقیر کو انخوائے کرے اور اس بار تو اس نے اسے رہا کر دیا ہے۔ دوسری بار تو جان سے مارے بغیر نہیں رہے گا۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے وہ کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خاص طور پر وجاہت صاحب کی جو بیگم ہیں، وہ تو بہت زیادہ خوف کھاتی ہیں اس بات سے۔“

”پھر اب کیا پروگرام ہے؟“

”ظاہر ہے جب تک وہ نہ چاہیں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہاں البتہ!“ وہ یہ کہتے کہتے رک گئے شاید یہ ان کی عادت تھی۔

”البتہ کیا سر؟“

”ان میں ایک ضرور ایسا ہے جو ہمارے ذہن کا ہے، یعنی وہ مجرم کے خلاف کارروائی کا شدت سے خواہش مند ہے۔ میں نے یہ بات ان کی آنکھوں میں جھانک کر محسوس کی ہے۔“

”وہ کون سر؟“

”وجاہت نسیم کے چھوٹے بھائی کرامت نسیم۔“

”آپ کا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ مجرم کا سراغ لگانے کی کوشش کی جائے۔“

”ہاں ان کی یہ شدید خواہش ہے۔“

”تو پھر آپ انہیں فون کریں۔ وہ ہم سے ملاقات کر لیں۔ بات کرنے وہ پولیس

اسٹیشن نہ آئیں۔ ہم کسی ریٹورنٹ میں ان سے ملاقات کر لیں۔ مجرم کے بارے میں جو

کچھ انہیں معلوم ہے، وہ تو ہمیں بتائیں۔ وہ کس نمبر سے فون کرتا رہا ہے، ویسے تو میرا خیال

ہے اب اس نے وہ ہم بند کر دی ہوگی، لیکن پھر بھی ہم ہم کے ذریعے اس کا نام پتا وغیرہ تو

معلوم کر ہی سکیں گے۔“

”بالکل ٹھیک، لیکن انہیں فون کرنا مناسب نہیں۔ ایس ایم ایس کر دیتا ہوں،

ماہ نامہ ہمدرد نوںہال جون ۲۰۱۳ء ۱۲۰

خاص نمبر

کبھی بیگم صاحب کے کان کھڑے نہ ہو جائیں۔“

”یہ ٹھیک رہے گا سر!“

انسپکٹر وقار بیگ نے کرامت نسیم کو پیغام دیا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، لہذا آپ عالم روڈ کے پاکیزہ ریسٹورنٹ آجائیں، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد۔

ان کا فوراً ہی جواب ملا: ”جی اچھا! میں آ رہا ہوں۔“

آدھے گھنٹے بعد تینوں ریسٹورنٹ کی ایک میز پر بیٹھے تھے۔

”جی فرمائیے، انسپکٹر صاحب! ویسے میں سمجھ تو گیا ہوں۔“

”آپ ٹھیک سمجھے، آپ کی بھابھی بلا بوجہ ڈر رہی ہیں۔ اغوا کرنے والے کا سراغ

لگانا بہت ضروری ہے۔ مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ کیا خبر یہ ساری دولت اڑا کر وہ کسی

اور کے ساتھ یہی کھیل کھیلے۔ پھر ایسے لوگوں کے پیٹ بھرتے کب ہیں، اس لیے میں نے آپ

کو بلایا ہے۔ اس گھر میں صرف آپ ایسے ہیں جو مجرم کو گرفتار دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔“

”آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا میں حاضر ہوں، بس اتنا خیال رکھیے

گا۔ بھابی کو سن سگن نہ ملے۔ اگر انھوں نے سن لیا کہ ہم کسی قسم کی کوئی کوشش کر رہے ہیں تو

جینا حرام کر دیں گی۔“

”آپ فکر نہ کریں کرامت صاحب! اس بات کا خیال تو ہم سب سے پہلے رکھیں

گے۔ دراصل ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس کے موبائل نمبر کی ہے، جس کے ذریعے وہ

بات کرتا رہا ہے۔“

”میں جانتا تھا، آپ یہی کہیں گے، جب کہ اغوا کرنے والے کا موبائل نمبر میں

پہلے ہی اپنے موبائل میں محفوظ کر چکا ہوں۔“

”بہت خوب!“

کرامت نسیم نے اپنے موبائل سے نمبر انھیں منتقل کر دیا۔

”ہم اس نمبر کو ڈائل نہیں کریں گے۔ ہم نمبر کے ذریعے اس کا نام پتا معلوم کریں

گے اور پھر اس پر قابو پالیں گے۔“

”کیا یہ اتنا ہی آسان ہوگا؟“ کرامت نسیم نے حیران ہو کر کہا۔

”آج کل سب کے ذریعے پولیس کا کام بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن ایک اور

امکان بھی ہے اور میرا خیال ہے وہی بات سامنے آئے گی۔“

”وہ کیا؟“

”غیر قانونی سیمیں، یعنی کسی کے نام کی سیم کسی اور کے پاس ہے اور وہ فون کرنے

کے بعد اپنا مقام بھی بدل دیتا ہے، موبائل بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اس طرح سراغ لگانے

میں مشکل بھی پیش آتی ہے، لیکن بہر حال جرم، جرم ہے۔ مجرم کا سراغ آخر لگ ہی جاتا

ہے۔ ہم اس شخص کا سراغ بہر حال لگالیں گے اور اس سے ساری دولت نکلوا لیں گے۔“

”خیر یہ آپ کا کام ہے میں تو چاہتا ہوں، کسی طرح اس کا سراغ لگایا جائے۔ اس

کم بخت نے میرے بھائی کی برسوں کی محنت ہڑپ کر لی ہے۔ ہمارے والد تو بچپن ہی میں

فوت ہو گئے تھے۔ بھائی جان نے بچپن سے ہی محنت شروع کر دی تھی۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ

کپڑا بننے والی کھڈیوں پر کام کرتے رہے۔ یہ کام کرتے کرتے انھیں بہت تجربہ ہو گیا۔ پھر

انھوں نے خود کپڑا بننے کا کام شروع کیا اور بہت چھوٹے پیمانے پر رفتہ رفتہ ترقی کرتے چلے

گئے۔ یہاں تک کہ انھوں نے دس بارہ مشینیں لگالیں۔ اب ان پر دن رات کپڑا تیار ہونے

لگا۔ ان کا کپڑا بہت مقبول ہو گیا، مانگ بڑھتی چلی گئی، اس طرح ان کی آمدنی میں اضافہ ہونے

لگا۔ رفتہ رفتہ یہ مال دار ہوتے چلے گئے۔ انھوں نے چھوٹے گھر کی جگہ بڑا گھر خرید لیا، ایک

کار بھی خرید لی، لیکن ترقی کی منزل آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی اور پھر ایک دن آیا جب یہ

خاص نمبر

کپڑے کی میل کے مالک بن گئے۔ ایک بہت شان دار کوٹھی بنوائی۔ کئی کاریں خرید لیں۔ مطلب کہ ترقی پر ترقی کرتے چلے گئے۔ ان حالات میں یہ شخص ہماری خوشیوں بھری زندگی میں آکودا..... بھلا اسے کیا حق پہنچتا تھا، ایک شخص کی تیس چالیس سال کی محنت کا مفت میں مالک بن جائے، لیکن انسپکٹر صاحب! انسان اولاد کے ہاتھوں مجبور ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔" یہ کہتے ہوئے کرامت نسیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔

"آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ کیا آپ مجھے اس شخص کی آواز بھی سنوا سکتے ہیں، آپ نے رکارڈ تو کی ہوگی؟"

"جی ہاں! میں نے اس کی آواز رکارڈ کی ہے، بلکہ اس کی ساری گفتگو ہمارے پاس رکارڈ ہے۔"

"وہ بھی آپ مجھے دے دیں۔ میں دفتر میں بیٹھ کر سن لوں گا اور آپ فکر نہ کریں، میں آج ہی سے اس کیس پر کام شروع کر رہا ہوں۔ ان شاء اللہ بہت جلد اس کا سراغ لگا لوں گا۔ پھر ہم وجاہت صاحب کو خوش خبری سنائیں گے۔ فی الحال ان سے کسی قسم کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔"

"ہرگز نہیں، بھابی تو آ جائیں گی میری جان کو۔ میں تو اس وقت بھی ایک دوست سے ملنے کا بہانہ بنا کر آیا ہوں۔"

"دوست کا نام تو نہیں بتا کر آئے؟" انسپکٹر وقار بیگ مسکرائے۔

"جی نہیں۔" انھوں نے فوراً کہا۔

"جونہی کوئی کام یا بلا ہوئی۔ میں بذریعہ ایس ایم ایس خبر کروں گا ویسے ہم وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے۔"

دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ جونہی کرامت نسیم گھر میں داخل ہوئے ایک نئی آواز

WWW.PAKSOCIETY.COM

نے ان کا استقبال کیا اور وہ آواز تھی سلائی مشین کی۔ انھیں حیرت ہوئی کہ گھر میں سلائی مشین کہاں سے آگئی اور اس پر کپڑا کون سی رہا ہے۔ انھوں نے دیکھا ان کی بھابھی سلائی مشین پر کوئی کپڑا سی رہی تھیں۔

”یہ کیا بھابی جان! یہ مشین کس کی ہے اور یہ کپڑا کیسا سی رہی ہیں؟“

”بھیا! میں نے آپ کے بھائی جان سے درخواست کی تھی کہ وہ مجھے ایک سلائی مشین لادیں۔ میں آس پڑوس کے کپڑے سی لیا کروں گی، اس طرح بھی ہم کچھ پیسے کما لیا کریں گے۔“

”اوہ..... ہو..... آپ بھابی جان! آپ یہ کام کریں گی؟“

”میری والدہ نے مجھے اس قسم کے سبھی کام سکھائے تھے۔ آج یہ کام ہم سب کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔“

ان سب کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ ادھر ان کے بڑے بھائی گھر میں کپڑا بن رہے تھے۔

”تو پھر میں بھی ٹیوشن پڑھاؤں گا۔“

وجاہت نسیم نے کہا: ”نہیں کرامت! میرے اور تمھاری بھابی کے کام سے گھر کا خرچ آسانی سے چل جایا کرے گا۔“

”لیکن کیوں بھائی جان! آپ دونوں کام کریں اور میں بے کار بیٹھوں، یہ نہیں ہوگا۔“ انھوں نے مضبوط لہجے میں کہا۔

”تم میرا تیار کروہ کپڑا بازار لے جا کر بیچ آیا کرتا۔“

”یہ کام تو بہت مختصر سے وقت میں ہو جایا کرے گا۔ میں باقی وقت میں فارغ

کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ جی نہیں میں ٹیوشن پڑھاؤں گا۔“

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ بیوی ۱۲۳

اور اس نے یہی کیا۔ البتہ توقیر ابھی کم عمر تھا۔ انہوں نے اسے صرف تعلیم پر توجہ دینے پر مجبور کیا۔ وہ خود گھر کے حالات دیکھ کر بہت حساس ہو چکا تھا۔ اس نے ضرورت سے زیادہ تعلیم پر توجہ شروع کر دی۔ اس طرح رفتہ رفتہ وہ آسانی سے گزر بسر کرنے کے قابل ہو گئے۔ توقیر کو اسکول تک چھوڑنے کے لیے جانا اور اسکول سے لے کر آنا کرامت نسیم کی ڈیوٹی تھی، کیوں کہ وہ سب ڈرے ہوئے تھے اور دودھ کا جلا تو چھاپھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔

کئی دن گزر چکے تھے انسپکٹر وقار بیگ کا کوئی پیغام وصول نہیں ہوا تھا، آخر کرامت نسیم نے خود انہیں پیغام بھیجا: ”کیا بات ہے انسپکٹر صاحب! آپ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی۔“

جلد ہی ایس ایم ایس کا جواب آ گیا۔ انہوں نے کہا تھا: ”آپ وہیں آ جائیں۔“ وہ اسی وقت اس ریسٹورنٹ پہنچ گئے۔ انسپکٹر وقار بیگ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں ہاتھ ملایا، اداس انداز میں مسکرائے بھی۔ پھر کہنے لگے: ”مجھے افسوس ہے میں اب تک بالکل کوئی کام یا بی حاصل نہیں کر سکا۔ اغوا کرنے والا کوئی عام مجرم نہیں ہے۔ وہ بہت ماہر قسم کا آدمی ہے۔ اس کا سراغ لگانا آسان کام نہیں۔ اس سے کسی قسم کا کوئی اناڑی پن سرزد نہیں ہوا۔ ہم اس بسم سے کوئی سراغ نہیں لگا سکے۔ ایک بات تو یہ کہ وہ بسم بالکل بند ہے۔ دوسرے وہ ایک غریب آدمی کے نام پر ہے۔ وہ غریب آدمی اب اس دنیا میں ہے بھی نہیں۔ کسی حادثے میں مارا گیا تھا۔ حیرت ہے۔ مجرم نے اس غریب آدمی کی بسم کیسے حاصل کر لی؟“

”وہ غریب آدمی کون تھا؟“ کرامت نسیم نے پوچھا۔

”وہ کوئی مزدور تھا۔ دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ بس محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس کا

چھوٹا سا گھر تھا۔ وہ اب بند پڑا ہے۔ اس کی موت کے بعد کوئی کہنے بھی نہیں آیا کہ اس مکان کا مالک وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں تنہا تھا۔ بے چارہ حادثے میں مر گیا۔

”تب پھر انسپکٹر صاحب! یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ مجرم نے ہی اسے اپنی گاڑی سے کچل دیا ہو، لیکن ایسا کرتے کسی نے نہ دیکھا ہو اور پھر وہ خود اسے اسپتال لے گیا ہو۔ اس دوران اس نے وہ ہم حاصل کر لی ہو۔“

”ارے واہ! آپ تو اچھے بھلے سراغ رساں ہیں۔“ انسپکٹر وقار بیگ نے حیرت سے کہا۔

”اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ مجرم پہلے سے منصوبہ بنا چکا تھا۔ اسے ایک عدد ہم کی ضرورت تھی۔ ایسی ہم کی جس کے ذریعے اس کا سراغ نہ لگایا جاسکے اور اس کا ذہن اس منصوبے پر کام کرتا رہا۔ یہ تو معلوم نہیں کہ اس کا باقاعدہ گروہ پہلے تھا یا ہم حاصل کرنے کے بعد اس نے کوئی گروہ ترتیب دیا۔ جو بھی ہے، اس سے ہماری رائے تبدیل نہیں ہوگی۔ پہلے مرحلے پر اس نے ہم حاصل کی۔ پھر اغوا کا منصوبہ بنایا۔ ویسے انسپکٹر صاحب! کیا اس شخص کے مارے جانے کی تاریخ معلوم نہیں ہو سکتی۔ لگتا ہے یہ زیادہ پرانی بات نہیں۔“

”یہ تین سال پہلے کی بات ہے۔ میں اخبار میں وہ خبر تلاش کر چکا ہوں۔“

”اوہ..... اچھا! اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہم تین سال پہلے حاصل کر لی تھی، پھر منصوبہ بنا تا رہا کہ اب کیا جرم کرے، کہاں ڈاکا ڈالے یا کسی بچے کو اغوا کرے۔“

کرامت نسیم نے خیالی گھوڑے دوڑائے۔

”ہاں! ضرور ایسا ہی ہے، لیکن بات تو پھر وہیں اٹک جاتی ہے۔ ہم اس کیس میں آگے کیسے بڑھیں؟ ظاہر ہے، مجرم کا مرنے والے مزدور سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہوا یہ ہوگا

WWW.PAKSOCIETY.COM

کہ اس نے اس مزدور کو اپنے گھر میں مزدوری کے لیے بلایا ہوگا۔ اس نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پاس موبائل ہے۔ بس اس نے اسے کچل دیا اور ہم حاصل کر لی۔“ انسپکٹر وقار بیگ کہتے چلے گئے۔

”تو کیا انسپکٹر صاحب! ہم اس کا سراغ نہیں لگا سکیں گے؟“

”میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ سب ابھی ہمارے اندازے ہیں۔ ہو سکتا ہے، مزدور واقعی کسی حادثے میں شدید زخمی ہو گیا ہو اور اغوا کرنے والا اسے اسپتال پہنچانے کے لیے اپنی کار میں لے گیا ہو، بس اس دوران اس نے ہم اڑالی ہو اور پھر وہ زخمی، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا ہو۔ میں اپنی کوشش بہر حال کروں گا، لیکن اس کیس میں کام یابی کے امکانات بہت کم ہیں، پھر بھی ایک بات میں کہہ سکتا ہوں۔“

”چلیے پھر وہ ایک بات ہی بتادیں۔“ کرامت نسیم نے اس انداز میں مسکرا کر کہا۔

”وہ یہ کہ کبھی اپنا ہوتا ہے مجرم نہیں پکڑا جاتا، لیکن قدرت کی سزا سے وہ پھر بھی

بچ پاتا۔“

”لیکن انسپکٹر صاحب! ہمیں تو نہیں معلوم ہو سکے گا کہ اغوا کرنے والا کون

تھا، قدرت نے اسے کیا سزا دی۔“ کرامت بیگ کی آواز غم کے بوجھ تلے دب گئی۔

”یہ ضروری نہیں، کیا پتا وہ کسی طرح ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں معلوم

ہو جائے یہی وہ شخص تھا، جس نے تو قیر کو اغوا کیا تھا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں کچھ معلوم کر سکا

تو آپ کو ضرور فون کروں گا۔“

”میری تو دلی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پکڑا جائے۔“

”ہونی بھی چاہیے۔ میں خود اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔“

”اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ آمین۔“ کرامت نسیم نے فوراً کہا۔

”اب یہ طے رہا کہ ہم یہیں ملاقات کیا کریں گے۔ جب بھی ضرورت ہوگی، ایس ایم ایس کر کے یہاں آ جایا کریں گے۔ اس طرح آپ کی بھائی صاحبہ کو پتا نہیں چلے گا اور مجرم بھی بے فکر ہو جائے گا کہ ہم لوگ اب اس کا خیال دل سے نکال چکے ہیں۔ ادھر وہ بے خبر ہوا۔ ادھر ہم اس تک پہنچے۔“

”ٹھیک ہے انسپکٹر صاحب!“ کرامت نسیم مسکرائے۔

”آپ مجھے انسپکٹر صاحب نہیں، بھائی کہا کریں۔ میں یہاں سادہ لباس میں آتا ہوں۔“

”ٹھیک ہے بھائی جان!“ کرامت نسیم نے مسکرا کر کہا۔

انسپکٹر وقار بیگ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔

..... ☆..... ☆.....

کرامت نسیم اپنے شان دار دفتر میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ایس ایم ایس کی گھنٹی بجی۔ انھوں نے بے دھیانی میں اسکرین پر نظر ڈالی۔ انھیں قدرے حیرت ہوئی۔ مدت ہوئی، اس نام سے کوئی ایس ایم ایس نہیں آیا تھا۔ جواب میں ایس ایم ایس کرنے کے بجائے انھوں نے نمبر ڈائل کر ڈالا: ”کرامت نسیم بات کر رہا ہوں۔ انسپکٹر وقار بیگ صاحب!“

”جی کرامت صاحب! میں ہوں آپ کا خادم۔“

”اتنی مدت بعد میرا خیال کیسے آ گیا؟ شاید آپ پندرہ سال بعد فون کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پندرہ سال پہلے ہم نے ریٹائرمنٹ میں ملاقات کی تھی، چائے پی تھی اور اس وقت آپ نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ ان شاء اللہ ہم مجرم تک پہنچ کر رہیں گے۔ پھر تو گویا آپ کا فون یا ایس ایم ایس ایسے غائب ہوئے کہ آج پندرہ سال بعد اسکرین پر آپ کا نام نظر آیا ہے۔“

”آپ نے ٹھیک کہا کرامت صاحب! لیکن میں کیا کرتا، اپنی پوری کوشش کے

www.PAKSOCIETY.COM

باوجود بھی انہوں نے والے کا سراغ نہیں لگا سکا تھا، کسی قسم کی کوئی معلومات حاصل نہ کر سکا، لہذا خاموش ہو رہا۔“

”لیکن آپ خیریت معلوم کرنے کے لیے بھی تو فون کر سکتے تھے؟“ کرامت نسیم نے منہ بنایا۔

”بس شرم آڑے آتی رہی کہ آپ کیا خیال کریں گے۔ یہ پولیس انسپکٹر ہیں اور ایک مجرم کا سراغ لگا نہیں سکے۔ بس یہی سوچ کر میں نے فون نہیں کیا، یہاں تک کہ پندرہ سال گزر گئے اور آج آپ کو فون کرنے پر خود کو مجبور پارہا ہوں اور میری احتیاط دیکھ لیں، میں نے اب بھی آپ کو ایس ایم ایس کیا، حال آں کہ اب وہ قصہ پندرہ سال پرانا ہو چکا ہے۔“

”واقعی، اس بات کی تو تعریف کرنی چاہیے۔“

”شکر یہ، شکر یہ!“ انسپکٹر وقار بیگ ہنسے۔

”ہاں تو پھر یہ بھی تو بتائیں نا، آج کیسے یاد آ گیا میں آپ کو؟ کیا اتنی مدت بعد آپ نے اس شخص کا سراغ لگایا ہے؟“

”یہ بات نہیں۔“ انہوں نے جواب دیا۔

”آپ کا مطلب ہے، آپ اب تک اس شخص کا سراغ نہیں لگا سکے؟“

”یہی بات ہے، لیکن۔“ انسپکٹر وقار بیگ کہتے کہتے رک گئے۔

”لیکن کیا؟“

”لیکن اتنی مدت بعد ایک عجیب بات سامنے آئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس عجیب بات کا تعاقب کروں۔“

”جی کیا کہا آپ نے..... بات کا تعاقب..... یہ کیا بات ہوئی ہے؟“

”میں نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ یہ بات کا تعاقب ہی ہو گا۔ آپ لوگوں کی کوٹھی

بھلا کس نے خریدی تھی؟“

”جی، کوٹھی؟ پندرہ سال ہو گئے، مجھے تو اس شخص کا نام بھی یاد نہیں رہا۔“

”وہ شخص اپنی کوٹھی فروخت کر رہا ہے۔ آپ لوگ تو خیر اب اسے خریدنے کے

قابل نہیں رہے، ورنہ میں آپ لوگوں سے کہتا کہ اپنی کوٹھی خود خرید لیں۔“

”وہ اپنی کوٹھی فروخت کر رہا ہے، لیکن جناب! اس میں عجیب بات کیا ہوگئی، وہ

اس کی چیز ہے، جب چاہے فروخت کر سکتا ہے اور یہ آپ نے کیا کہا کہ آپ تو خیر اس کو

خرید نہیں سکتے۔“

”آپ اس کوٹھی کو خرید سکتے ہیں!“ مارے حیرت کے انسپکٹر وقار بیگ کے منہ

سے نکلا۔

”میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں انسپکٹر صاحب!“

”آپ میرے دفتر آ جائیں یا جہاں آپ کہیں، وہاں آ جاتا ہوں۔ اب تو توجہ

والی بات پرانی ہوگئی۔“

”آپ میرے دفتر آ جائیں۔“

”دفتر..... تو کیا آپ نے کسی دفتر میں ملازمت کر لی ہے؟“

”جی ہاں۔ آپ بس آ جائیں، میرا دفتر اسٹریٹ نمبر چھ، آسام روڈ پر واقع

ہے۔ یہاں آ کر فون کر لیں۔ میں خود باہر آ کر آپ کا استقبال کروں گا۔“

”اوہ اچھا۔“ انسپکٹر وقار بیگ نے قدرے حیرت سے کہا۔

جلد ہی انسپکٹر وقار بیگ نے انھیں فون کیا۔ گھنٹی سنتے ہی وہ اپنے دفتر سے باہر

نکل آئے۔ کچھ دور انسپکٹر وقار بیگ کھڑے نظر آئے۔

”انسپکٹر صاحب!“ انھوں نے آواز دی۔ انسپکٹر وقار بیگ نے آواز کی سمت

آپ سے رابطہ ختم کر دیا تھا، لیکن آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟“

”یہ تفصیل آپ کو کرامت صاحب سنا دیتے ہیں، پہلے میں توقیر صاحب سے ملنا

پسند کروں گا۔ وہ تو اب کڑیل جوان بن چکے ہوں گے؟“

”جی ہاں! الحمد للہ! آئیے، انہی کے دفتر میں بیٹھتے ہیں۔“

اب وہ سب ایک عالی شان کمرے کی طرف بڑھے۔ اس کی چمک دمک سے ہی

پتا چل رہا تھا کہ اس کمرے کو خاص طور پر بنایا گیا ہے۔ وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ اندر

ایک خوب روٹو جوان سرخ سفید رنگت والا خوب روٹو جوان کام میں مصروف تھا۔ انھیں اندر

داخل ہوتے دیکھ کر ایک دم کھڑا ہو گیا اور بولا: ”ابو جی! آپ اور چچا جان آپ.....

آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔“

”انسپکٹر صاحب! آپ کا دفتر دیکھنا چاہتے ہیں اور ملاقات کرنا بھی، اس لیے ہم

ادھر ہی چلے آئے۔“

”انسپکٹر صاحب؟“ اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔

”ہاں جی! یہ انسپکٹر وقار بیگ ہیں۔ یہی میرے وہ دوست ہیں، جب آپ کو اغوا

کر لیا گیا تھا تو انہوں نے مجرم کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ کی مرضی۔ کام یاب نہیں

ہو سکے تھے۔“

”اوہ..... تو یہ انکل وقار بیگ۔“

وہ تیزی سے آگے آیا اور ان کے گلے سے لگ گیا۔ اب چاروں بیٹھ گئے۔

کرامت نسیم نے ساری تفصیل سنائی، پھر انھیں بتایا کہ کس طرح انہوں نے ایک

ریسٹورنٹ میں چوری چھپے ملاقاتیں کی تھیں، پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اتنی مدت بعد انھیں

ان کا خیال کیوں آیا ہے۔



”اوہ! تو ہماری کوٹھی فروخت ہو رہی ہے؟“ وجاہت نسیم نے حیران ہو کر کہا۔

”جی ہاں!“

”ہم اسے ضرور خریدیں گے، ابھی چلتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ اس کے لیے کتنی رقم

چاہتے ہیں۔“

”یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔“

”ہمیں خوشی ہوگی۔“

وہ اسی وقت کرامت نسیم کی کار میں روانہ ہوئے۔ انسپکٹر وقار بیگ نے اپنی جیب

وہیں چھوڑ دی۔ آخر پندرہ سال بعد وہ اپنی اسی کوٹھی کے سامنے کھڑے تھے، جس کو اپنے

بیٹے کو چھڑوانے کے لیے بیچنا پڑا تھا، بلکہ اس کو ہی نہیں، اپنی بل کو بھی فروخت کرنا پڑا

تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک نظر ہی میں انہوں نے دیکھ لیا، کوٹھی کی حالت بہت

خراب تھی۔ شاید پندرہ سال میں ایک بار بھی اس کو رنگ و روغن نہیں کرایا گیا تھا۔ انسپکٹر

وقار بیگ نے آگے بڑھ کر گھنٹی کا بزن دبا دیا۔

جلد ہی ایک شخص باہر آیا، انہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت نظر آئی، جب کہ

ان لوگوں کے منہ سے نکلا: ”ارے یہ وہ صاحب تو نہیں ہیں، جنہوں نے یہ کوٹھی ہم سے

خریدی تھی۔“

یہ سن کر اس نے کہا: ”ہاں! میں وہ شخص نہیں ہوں، جس نے آپ سے یہ کوٹھی اور

آپ کی بل خریدی تھی۔ میں نے تو بعد میں اس شخص سے یہ دونوں چیزیں خریدی تھیں۔

میرا نام نواد میاں رہا ہے اور آج میں یہ دونوں چیزیں فروخت کرنے پر مجبور ہوں۔

آئیے اندر آ جائیے۔“

وہ انہیں اندر لے آیا۔ ان کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ان کا جی چاہا، وہ ان

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد توں نہال جون ۲۰۱۳ عیسوی

۱۳۳



دیواروں سے لپٹ لپٹ کر روئیں، مگر انھوں نے صبر سے کام لیا اور فواد میاں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے: ”ہاں تو آپ کا کیا مطالبہ ہے؟“

”میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، اس لیے میں آپ سے اتنے ہی پیسے لے لوں گا، جتنے میں آپ نے کوٹھی فروخت کی تھی۔ اگرچہ پندرہ سال گزر چکے ہیں اور زمینوں کے اور دوسری چیزوں کے نرخ کہیں کہیں پہنچ چکے ہیں، لیکن کوئی گاہک نہیں مل رہا۔ اچھا ہوا آپ آگئے۔“

”ٹھیک ہے..... اسی قیمت میں ہم اسے خریدنے کے لیے تیار ہیں۔“

”بس تو پھر کل صبح آ جائیں۔ میں رجسٹری کرادوں گا۔“

”بالکل ٹھیک۔“ وجاہت نسیم نے خوش ہو کر کہا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے

تھے۔ کسی روز وہ اپنی کوٹھی پھر سے حاصل کر سکیں گے۔

”اچھا تو پھر اب ہم چلتے ہیں۔“

”ٹھیک ہے۔“

”اجازت ہو تو میں ان سے ایک دو باتیں پوچھ لوں؟“ انسپکٹر وقار بیگ نے

وجاہت نسیم کو طرف دیکھا۔

”ہاں ہاں..... ضرور..... کیوں نہیں۔“

”فواد میاں صاحب! آپ کو رقم کی اتنی ضرورت کیوں پیش آگئی؟ آپ نے تو

اس شخص سے ان کی بل بھی خریدی تھی۔“

”جی ہاں۔ یہ قسمت کے کھیل ہیں۔ کسی وقت میں نے یہ دونوں چیزیں خریدی

تھیں اور آج بیچنے پر مجبور ہوں۔“

”اوہ! تو آپ بل بھی بیچ رہے ہیں؟“ وہ چونکے۔

”جی..... جی ہاں..... مجبوری ہے۔“

”ایسی کیا مجبوری پیش آگئی؟“

”بس! اب آپ کو کیا بتاؤں اور آپ کیا کریں گے سن کر، کیا آپ مل بھی

خرید سکتے ہیں؟“

”ابھی ہم مل کی قیمت تو خیر ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایسا ہے دس بارہ سال بعد ہم

اس قابل ہو جائیں گے۔ آپ کو بہر حال آج ضرورت ہے۔ خیر آپ کو گا ہک مل جائیں

گے۔ کپڑوں کی میلیں لگانے والے مل جائیں گے۔“

”کوئی بات نہیں۔ میں گا ہک تلاش کر لوں گا۔“ اس نے فوراً کہا۔

”ٹھیک ہے، ہم صبح آئیں گے۔ میں آپ سے ایک بار پھر پوچھتا ہوں کہ آپ کو

آخر اتنی رقم کی کیا ضرورت پیش آگئی؟“ انسپکٹر وقار بیگ نے کہا۔

”اگر آپ سنا ہی چاہتے ہیں تو بتائے دیتا ہوں۔ میرا بیٹا غلط راستوں پر چل نکلا

ہے۔ اس نے بُری صحبت اختیار کر لی۔ دولت کی ریل پیل نے اس کا دماغ خراب کر

دیا۔ دونوں ہاتھوں سے دولت کو اڑانے لگا۔ اس نے بے تحاشا دولت اڑائی۔ بات صرف

یہیں تک رہتی تو بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ تو اس سے بھی آگے نکل گیا اور پھر.....“ وہ

کہتے ہوئے رک گیا۔

”اور پھر کیا؟“ ان سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔

”اور پھر ایک دن اس سے قتل ہو گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ

رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ کئی سال مقدمہ چلا اور آخر اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔“

”اوہ!“ انسپکٹر کے منہ سے نکلا۔

”میں باپ ہوں کیا کروں؟ میں نے مشمول کے وارثوں سے ملاقاتیں کیں، ان

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ عیسوی ۱۳۵

WWW.PAKSOCIETY.COM

کے پاؤں پکڑے۔ ان کے آگے رویا، گڑ گڑایا، کیوں کہ اگر وہ میرے بیٹے کو معاف کر دیتے ہیں تو میرا بیٹا چھوٹ سکتا ہے۔ منتیں کرتے کئی ماہ گزر گئے، آخرا ب وہ اس بات پر آئے ہیں کہ....." وہ کہتے کہتے رک گیا۔

"ہاں ہاں، کہیے..... کس بات پر آئے ہیں وہ؟" انسپکٹر وقار بیگ نے بے چین

ہو کر کہا۔

"اس بات پر کہ میں اپنی ساری دولت انھیں دے دوں۔ صرف اس صورت میں وہ اسے معاف کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں دونوں چیزیں فروخت کر رہا ہوں۔" یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ اس کی بات سن کر انھیں ایک زبردست جھٹکا لگا۔ خاص طور پر انسپکٹر وقار بیگ تو بہت حیران ہوئے۔

"آپ کو کیا ہوا، انسپکٹر وقار بیگ! میرے دوست!"

"فواد میاں راہی کی بات سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی ہے۔ مسٹر فواد! آپ اس سے پہلے کیا کرتے رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ جب آپ نے یہ کوٹھی اور مل خریدی تھی۔ ان دنوں آپ کیا کرتے تھے؟"

"باپ دادا کے زمانے کی جائداد پاس تھی سو چاہا تھا کہ ان کی جائداد بیچ کر کوئی ایسی چیز خرید لوں، جس سے مستقل منافع ہوتا رہے۔"

"لیکن مل جیسا کام تجربے کے بغیر تو ہو نہیں سکتا؟"

"اس وقت مل فروخت ہوتی نظر آئی تھی۔ میں نے سوچا، فی الحال یہ خرید لیتے

ہیں۔ بعد میں منافع پر بیچ دوں گا، دراصل جائداد خریدنا اور بیچنا ہی میرا کام تھا۔"

"ہوں..... اور پھر آپ کے بیٹے سے قتل جیسا ہولناک جرم ہو گیا۔"

"ہاں، اب اگر میں ان لوگوں کو ان کی منہ مانگی رقم نہیں دیتا تو میرا بیٹا پھانسی

WWW.PAKSOCIETY.COM

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ عیسوی	۱۳۶
----------	--------------------------------------	-----

چڑھ جائے گا۔“

”ہوں..... اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں۔“ انسپکٹر وقار بیگ مسکرائے۔

”جی کہیے!“

”آپ ہی وہ شخص ہیں، جس نے پندرہ سال پہلے میرے دوست و جاہت نسیم

کے بیٹے توقیر کو اغوا کیا تھا۔“

”کیا.....“ مارے حیرت کے و جاہت نسیم، کرامت نسیم اور توقیر کے منہ سے نکلا۔

”ہاں جناب!“

”نہیں، بالکل غلط۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں وہ شخص ہرگز نہیں ہوں۔“

”آپ کا یہ جملہ آپ کے جرم کا ثبوت ہے، کیوں کہ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کیا

مطلب؟ کیسا اغوا؟ میں کیوں کرتا کسی کو اغوا، لیکن آپ نے صاف اور سیدھی بات یہ کہہ دی

کہ نہیں میں وہ شخص نہیں ہوں۔ یہ تو ہوئی ایک بات، اسن میرے پاس ایک اور ثبوت بھی

محفوظ ہے۔“ انسپکٹر وقار بیگ مسکرائے۔

”اور کیا؟“ اس نے بے تاب ہو کر پوچھا۔

”پندرہ سال پہلے آپ نے ان حضرات سے توقیر کو چھوڑنے کے سلسلے میں بات

چیت کی تھی۔ اس کی رکارڈنگ ابھی تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔“

”نن..... نہیں۔“

”اور میں نے اس زمانے میں اس رکارڈنگ کو بار بار سنا تھا۔ آپ کی آواز میرے دماغ

میں محفوظ ہو گئی تھی۔ آپ کی آواز بالکل وہی ہے۔ ہم آپ کو وہ رکارڈنگ سنوا سکتے ہیں۔“

”نن..... نہیں..... اچھا ٹھیک ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں میں نے توقیر کو اغوا کیا

تھا، لیکن اگر آپ نے مجھے اس موقع پر گرفتار کر لیا تو میرا بیٹا رہا نہیں ہو سکے گا۔ وہ پھانسی

ماہ نامہ ہمدرد، تو تھا، جون ۲۰۱۴ عیسوی ۱۳۷

خاص نمبر



چڑھ جائے گا۔ مجھ پر رحم کریں، مجھ پر رحم کریں۔“ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔

وہ کافی دیر تک اسے روتے دیکھتے رہے۔ آخر انسپکٹر وقار بیگ نے کہا: ”فواد میاں راہی صاحب! اگرچہ آپ نے ان لوگوں پر کوئی رحم نہیں کیا تھا۔ انھیں در بہ در کیا تھا۔ آپ زبردست منصوبہ ساز ہیں، لیکن تقدیر نے آپ کو آپ کی منصوبہ بندی کا اس سے کہیں زیادہ زبردست جواب دیا۔ دیکھ لیں آپ چاروں شانے چت ہو گئے یا نہیں؟“

یہاں تک کہہ کر انسپکٹر وقار بیگ خاموش ہو گئے۔ اب سب ٹکڑے فواد میاں کو دیکھ رہے تھے۔

آخر وجاہت نسیم نے کہا: ”پھر اب کیا ہوگا؟ کیا آپ اس شخص کو گرفتار کر لیں گے؟“

”ہونا تو یہی چاہیے، ویسے جو آپ چاہیں گے، وہی کریں گے۔ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟“

”میرے خیال میں اس شخص کو بہت سزا مل چکی۔ اب بھی یہ ساری دولت دے کر صرف اپنا بیٹا حاصل کرے گا۔ وہ بیٹا جو ہے بھی ناکارہ۔ میرے بیٹے کی طرح نہیں، لہذا میں نہیں چاہتا آپ اسے گرفتار کریں۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ ہم اس سے صبح کوٹھی خرید لیتے ہیں اور مل کا گاہک بھی اسے تلاش کر دیں گے۔ یہ اپنے بیٹے کو چھڑوا لے۔ اس نے میرے لیے کوئی رحم نہیں کیا تھا، لیکن ہم اس کی بے رحمی کا جواب بے رحمی سے نہیں دیں گے۔ شاید یہ دونوں اس طرح معاشرے کے اچھے انسان بن جائیں۔ آئیے انسپکٹر صاحب! چلیے، چلتے ہیں۔“

یہ کہتے ہوئے وجاہت نسیم اٹھ کھڑے ہوئے۔ باقی لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسے میں فواد میاں راہی ان کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ آنسوؤں کی زبان میں بات کر رہا تھا۔

☆☆☆

ایک عظیم درس گاہ

نسرین شاہین



کراچی شہر کی عظیم درس گاہ "سندھ مدرستہ الاسلام" جسے قائد اعظم محمد علی جناح کی پہلی درس گاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اہم تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ یہ ایک جدید علمی ادارے کے طور پر قائم ہوا تھا، لیکن بنیادی طور پر یہ اس خطے کے روشن خیال مسلمانوں کی ایک تحریک کی طرح تھا، جس نے اپنے طالب علموں کے ذریعے سے قیام پاکستان کو یقینی بنایا۔ سندھ مدرستہ الاسلام نے ان بے شمار ممتاز رہنماؤں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کی، جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کو زندہ رکھا اور آزادی کا سورج طلوع کر کے دم لیا۔ سندھ مدرستہ الاسلام برطانوی دور میں سندھ کے مسلمانوں کو جدید تعلیم دینے کی غرض سے قائم ہوا تھا۔

۱۸۴۳ء میں سندھ پر انگریزوں کے قبضے سے پہلے سندھ کا اپنا نظام تعلیم ہوتا تھا۔ اس نظام کے تحت مکتب اور مساجد اسکولوں میں بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی، لیکن وہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق نہیں تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سندھ کے حالات روز بہ روز خراب ہوتے گئے۔ ایسے

وقت میں حسن علی آفندی کے ساتھ سندھ کے کئی باشعور اور روشن خیال لوگ آگے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم دینے کے لیے معیاری اسکول قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ۱۸۸۵ء میں سندھ مدرستہ الاسلام کا قیام عمل میں آیا تو سندھ کے مسلمانوں میں ایک نیا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا۔

شروع میں سندھ مدرستہ الاسلام ایک بورڈنگ اسکول کے طور پر قائم ہوا تھا، جس کے چار بورڈنگ ہاؤسز تھے، یعنی ٹالپر ہاؤس، حسن علی ہاؤس، خیر پور ہاؤس اور سردار ہاؤس۔ سندھ مدرستہ الاسلام کی مرکزی بلڈنگ کاسنگ بنیاد "وائسرائے ہند لارڈ ڈفرن" نے ۱۳- نومبر ۱۸۸۷ء میں رکھا تھا، جو ۱۸۹۰ء میں مکمل ہوئی تھی۔ اس دو منزلہ عمارت کا نقشہ اس وقت کے کراچی میونسپلٹی کے آرکیٹیکٹ جیمز اسٹریچن نے بلا معاوضہ تیار کیا تھا اور تعمیراتی کام کی نگرانی بھی خود کی تھی۔ سندھ مدرستہ الاسلام کی عمارت تقریباً آٹھ ایکڑ کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کے پہلے پرنسپل خان بہادر ولی محمد حسن علی تھے۔

سندھ مدرستہ الاسلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ قیام پاکستان کے وقت ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آئے ہوئے مسلمانوں کو عارضی طور پر سندھ مدرستہ الاسلام کے بورڈنگ ہاؤسز میں رہائش فراہم کی گئی تھی۔

سندھ مدرستہ الاسلام کے ابتدائی دو سال کے عرصے میں قائد اعظم نے یہاں داخلہ لیا۔ یہ ۸ جولائی ۱۸۸۷ء کی بات ہے جب سندھ مدرستہ الاسلام کی انگریزی کی پہلی جماعت میں قائد اعظم داخل ہوئے۔ تھوڑے ہی دن بعد وہ سیمپٹی (مہینے) جا کر انجمن اسلام کی پہلی جماعت میں داخل ہو گئے، لیکن پھر واپس کراچی آ کر دوبارہ سندھ مدرستہ الاسلام کی پہلی ہی جماعت میں ۲۳ ستمبر ۱۸۸۷ء سے پڑھائی شروع کی۔ قائد اعظم نے سندھ مدرستہ الاسلام میں تین سال تعلیم حاصل کر کے ۱۸۹۰ء میں تیسری جماعت پاس کر لی۔ یوں قائد اعظم نے اپنے ابتدائی تعلیمی درجے سندھ مدرستہ الاسلام میں طے کیے۔

ماہ نامہ ہمدرد نوںہال جون ۲۰۱۴ء عیسوی ۱۳۰

خاص نمبر





قائد اعظم محمد علی
جناب کو اپنی مادر علمی سندھ
مدرستہ الاسلام سے اس
قدر محبت تھی کہ انہوں نے
اپنی وصیت میں بھی اپنی
جائداد کا ایک تہائی حصہ
اس کے نام کر دیا تھا۔ ترقی
کے مراحل طے کرتے
ہوئے ۲۱ جون ۱۹۴۳ء کو
سندھ مدرستہ الاسلام کالج

کا قیام عمل میں آیا، جس کا افتتاح قائد اعظم نے اپنے دست مبارک سے کیا۔ اس تاریخی موقع پر انہوں
نے اس ادارے سے اپنی لگن اور تعلق کو یوں بیان فرمایا: ”میں ان شان دار میدانوں کے ایک ایک انچ
سے اچھی طرح واقف ہوں، جہاں میں نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا۔“

سندھ مدرستہ الاسلام اپنے قیام کے ۵۸ برس بعد کالج کے درجے تک پہنچا اور پھر جامعہ کا
روپ اختیار کر گیا۔ سندھ مدرستہ الاسلام یونیورسٹی کے قیام کا میل دسمبر ۲۰۱۱ء میں سندھ اسمبلی
سے منظور ہوا۔ ۲۱ فروری ۲۰۱۳ء کو گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے سندھ مدرستہ الاسلام یونی
ورسٹی کا چارٹرڈ شیخ الجامعہ محمد علی شیخ کے حوالے کیا، جس کے بعد اس میں پہلے تعلیمی دور کا آغاز ہوا۔
سندھ مدرستہ الاسلام میں تقریباً پندرہ ہزار کتب موجود ہیں جن میں گئی تو سو سال پرانی ہیں۔
سندھ مدرستہ الاسلام میں جناح میوزیم بھی قائم ہے، جس میں بانی پاکستان کے ساتھ ساتھ سندھ مدرستہ
الاسلام کے بانی اور سندھ مدرستہ الاسلام کے سابق ممتاز طالب علموں کی یادگار چیزیں رکھی گئی ہیں۔
سندھ مدرستہ الاسلام کے بانی حسن علی آفندی سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کے پد نانا تھے۔

☆☆☆

خاص نمبر

شمس القمر عاکف

یہاں لے کے آئے خاص نمبر
 کلی دل کی کھائے خاص نمبر
 جونہی ہاتھوں میں آئے خاص نمبر
 ہر اک غم کو مٹائے خاص نمبر
 نہایت خاص تختہ ساتھ لے کر
 محبت کو بڑھائے خاص نمبر
 مہینا جون کا اچھا ہے کتنا
 ہمیں صورت دکھائے خاص نمبر
 ہر اک تحریر، اک پیغام بھی ہے
 ہمیں رستہ دکھائے خاص نمبر
 ہمیشہ "نونہال" اپنا ہو ہم
 ہمیشہ یونہی آئے خاص نمبر
 بہ طور تہنیت یہ نظم میں نے
 رقم کر لی برائے خاص نمبر

ایک پانچ کا کھیل

سلیم فاروقی

وہ ایک بہت ہی پیارا اور معصوم سا بچہ تھا۔ خوب صورت اور بھولا بھالا اتنا کہ ہر کسی کی توجہ حاصل کر لیا کرتا۔ ہر کوئی اسے بے اختیار گود میں بٹھا کر پیار کرنا چاہتا۔ اس کے چہرے پر معصومیت دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا کہ شرارت تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ جب بھی کوئی اس سے مذاق کرتا تو وہ اس کو نہ صرف بڑی خوش اخلاقی سے برداشت کرتا، بلکہ اپنی عمر کے مطابق بڑی تیز سے اس کا جواب بھی دیتا۔ وہ پورے محلے کی آنکھوں کا تارا اور راج دلارا تھا۔

ایک بار وہ اپنے محلے ہی میں کہیں جا رہا تھا۔ اس کا ایک پڑوسی اپنے گھر کے باہر اپنے کسی دوست کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا۔ انھوں نے جونہی بچے کو دیکھا تو اس کو بڑے پیار سے اپنے پاس بلا یا اور اپنے دوست سے آہستگی سے کہا: "ایک تماشا دیکھنا۔"
جونہی وہ بچہ قریب آیا، انھوں نے اس بچے کو پیار کیا اور کہا: "آؤ، وہ ہی پرانا کھیل کھیلیں۔"

یہ کہہ کر انھوں نے اپنی جیب سے دو سکے نکالے۔ ایک پانچ روپے والا اور دوسرا ایک روپے والا۔ انھوں نے یہ دونوں سکے اپنے ایک ایک ہاتھ میں رکھ کر دونوں ہاتھ بچے کی طرف بڑھا کر کہا: "ان میں سے جو سکہ چاہو اٹھا لو۔"

بچے نے پہلے تو دونوں ہاتھوں میں موجود سکوں کو غور سے دیکھا، پھر پڑوسی کے چہرے کی طرف ایک نظر ڈالی، پھر اس نے ایک روپے والا سکہ اٹھایا اور بڑے پیار سے

ماہ نامہ ہمدرد توں نہال جون ۲۰۱۴ء عیبی ۱۴۴

خاص نمبر



”تھینک یو انکل!“ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔

بچے کے جانے کے بعد وہ پڑوسی اپنے دوست سے کہنے لگا: ”یہ بہت پیارا بچہ ہے۔ معصوم اتنا کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ آج کے کمپیوٹر دور کا بچہ ہے۔ میں جب بھی اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلتا ہوں، یہ ہمیشہ ایک رپے والا سکہ ہی اٹھاتا ہے۔ اس نے کبھی پانچ رپے والا سکہ نہیں اٹھایا۔“

یہ سن کر دوست کو بھی خوش گوار حیرت ہوئی۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں یوں ہی گپ شپ کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد دوست نے اجازت لی اور واپس چل دیا۔ کچھ ہی فاصلے پر وہ دوست ایک قریبی دکان میں کچھ خریدنے کی غرض سے داخل ہوا تو دیکھا وہی بچہ اس دکان پر موجود ہے۔ انھوں نے آگے بڑھ کر بچے کو پیار کیا اور اس

www.PAKSOCIETY.COM

سے پوچھا: ”کیا مجھ کو پہچانا؟“

بچے نے کہا: ”جی ہاں انکل! آپ ہمارے پڑوسی انکل کے دوست ہیں۔“

انہوں نے پوچھا: ”کیا تم میرے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلو گے جو اپنے پڑوسی

انکل کے ساتھ کھیلتے ہو؟“

بچے نے کہا: ”جی ضرور انکل!“

انہوں نے اپنی جیب سے دو سکے نکالے، ایک پانچ روپے کا اور دوسرا ایک روپے

کا۔ دونوں سکہ اپنے ایک ایک ہاتھ میں رکھ کر بچے کی طرف بڑھا دیے اور کہا: ”ان میں

سے جو چاہو اٹھا لو۔“

بچے نے پھر دونوں سکوں کو دیکھا، ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور مسکراتے

ہوئے پانچ روپے والا سکہ اٹھا لیا۔

یہ دیکھ کر ان کو زور کا ایک جھٹکا لگا کہ بچے نے ایک روپے کے بجائے پانچ روپے والا

سکہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے بچے سے کہا: ”بیٹا! یہ سکہ تو تمہارا ہوا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اپنے

پڑوسی انکل کے ہاتھ پر سے تو ایک روپے کا سکہ اٹھاتے ہو اور مجھ سے پانچ روپے کا سکہ لیا،

ایسا کیوں؟“

بچے نے سنجیدگی سے کہا: ”اصل میں پڑوسی انکل میرے ساتھ کافی دن سے یہ کھیل

کھیل رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سکوں کی پہچان نہیں ہے، اس لیے میں ہمیشہ ایک

روپے کا سکہ اٹھاتا ہوں، حال آں کہ مجھے سکوں کی اچھی طرح پہچان ہے۔“

انہوں نے پوچھا: ”پھر تم ایک روپے کا سکہ کیوں اٹھاتے ہوں؟“

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد توں ہال جون ۲۰۱۳ عیسوی ۱۳۶



بچہ بولا: "جس دن میں نے پانچ روپے والا سکہ اٹھالیا، اس دن اٹکل یہ کھیل کھیلنا بند کر دیں گے، یوں مجھے نقصان ہو جائے گا۔"

ان کو اس معصوم بچے کی ذہانت پر رشک آیا، پھر انھوں نے پوچھا: "اگر تم اس کھیل کو روکنا نہیں چاہتے ہو تو تم نے مجھ سے پانچ روپے کا سکہ کیوں لے لیا؟"

بچہ بولا: "اصل میں آپ کو آج پہلی بار دیکھا ہے، دو بارہ پتا نہیں آپ کب ملیں گے؟ آپ کون سا روز روز یہ کھیل کھیلیں گے، اسی لیے میں نے پانچ روپے والا سکہ اٹھالیا ہے۔"

☆☆☆

بلا عنوان انعامی کہانی

م۔ ع۔ ایم علیگ



کریم بھائی کا بیگ کھو گیا تھا۔ وہ بینک سے روپے نکال کر اپنی کار میں بیٹھے اور راستے میں دو تین جگہوں پر دوستوں سے ملاقات کرنے کو رکے تھے۔ فون کر کے انھوں نے معلوم کر لیا، مگر ان کے بیگ کا پتا نہیں چل سکا۔ اس بیگ میں اسی ہزار روپے تھے، مگر ان کو روپوں کی اتنی فکر نہیں تھی، جتنی ان اہم کاغذات کی تھی، جو اسی بیگ میں تھے۔ واصل اس میں ایک بڑی تجارتی کمپنی سے مال ایکسپورٹ کرنے کا معاہدہ اور آرڈر تھا اور کچھ کاغذات حساب کتاب سے متعلق تھے۔

اگر یہ کاغذات اور روپے کسی ملازم سے کھو جاتے تو وہ یقیناً اس پر چوری یا غبن کا

الزام لگا کر اس کو پولیس کے حوالے کر دیتے، مگر یہ غلطی تو خود ان سے ہی ہوئی تھی، اس لیے وہ کسی پر غصہ بھی تو نہیں اُتار سکتے تھے۔ بھلا جس کو اتنی بڑی رقم ملے گی وہ کیوں واپس کرے گا! وہ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جا رہے تھے اور ساتھ میں ہونے والے نقصان کا حساب لگا رہے تھے۔ وہ دن اور تمام رات بہت بے چینی سے گزرا۔

ان کا ارادہ تھا کہ وہ اخبار میں اشتہار دے دیں کہ جو بھی اس بیگ کو تلاش کر کے ان تک پہنچائے گا، اس کو بیس ہزار روپے انعام دیں گے۔ دوسرے دن کچھ لوگ ان سے ملنے آنے والے تھے، ان سے بھی ملاقات نہیں کی اور نوکر سے کہلوادیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نوکر ڈرتے ڈرتے بولا: ”حضرت! ایک آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔“

”میں نے تم سے کہہ دیا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ میں کسی سے نہیں ملوں گا۔“ وہ غصے سے بولے۔

”مگر وہ کہتا ہے کہ آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ آپ کی امانت واپس کرنا ہے۔“

”امانت کیسی امانت!“ انھوں نے سوچا اور پھر بولے: ”بلاؤ! بلاؤ! شاید وہ میرے بیگ کا پتا بتا سکے۔ دیکھو چلا نہ جائے۔“

چند لمحوں بعد ایک نوجوان ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا: ”کیا آپ کا نام کریم بھائی ہے؟“

”ہاں ہاں میرا نام کریم بھائی ہے۔“

”کیا آپ کی کوئی چیز کھوئی ہے؟“

”میرا روپوں کا بیگ ہے اس میں اتنی ہزار روپے اور کاغذات ہیں۔“ کریم بھائی

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد نوشہال جون ۲۰۱۳ عیسوی	۱۵۰
----------	--------------------------------------	-----



نے کھڑے کھڑے ہی جواب دیا۔

پھر خیال آیا کہ بدحواسی میں اس نوجوان سے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا تو بولے:

”میاں صاحب زادے! بیٹھو بیٹھو۔“

اس نوجوان نے کپڑے میں لپٹا ہوا بیک نکالا اور ان کو تھماتے ہوئے کہا:

”جناب! اس میں آپ کی ساری امانت ہے، آپ گن لیں۔“

کریم بھائی نے بیک کھولا اور اس میں سے کاغذات کو نکال کر چوما، کیوں کہ وہی

سب سے زیادہ قیمتی تھے۔ پھر دس ہزار کی ایک گڈی نکال کر اس نوجوان کی طرف بڑھا

دی اور بولے: ”صاحب زادے! تم نے مجھے بہت بڑی پریشانی اور نقصان سے بچالیا۔

اللہ تم کو خوش رکھے۔ یہ انعام نہیں بلکہ نذرانہ ہے۔“

نو جوان نے سادگی سے کہا: ”جناب! ایمان داری اپنا انعام خود ہے۔ میں نے یہ کام کسی انعام کے لالچ میں نہیں کیا۔ اگر آپ کا پتا نہیں ملتا تو میں اسے پولیس کے حوالے کر دیتا۔“

کریم بھائی نے بہت اصرار کیا، مگر نو جوان نے انعام کی رقم لینے سے انکار کر دیا۔

کریم بھائی اس کی ایمان داری اور سادگی سے بہت متاثر ہوئے اور اس سے اس کے خاندان کے بارے میں گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ وہ نو جوان ناصر حسین ہے اور کسی پرائیوٹ کمپنی میں کلرک ہے۔ گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں۔

اور پھر ناصر حسین نے ایک عجیب واقعہ سنایا کہ جس کو سن کر کریم بھائی کے دل و دماغ میں بے چینی پیدا ہو گئی۔

”دراصل میرے والد کے ساتھ اسی قسم کا حادثہ پیش آچکا ہے۔ میری عمر اس وقت آٹھ دس سال کی تھی۔ میرے والد اپنی پینشن اور فنڈ کا چیک کیش کرا کر ایک آٹورکشے میں آرہے تھے۔ راستے میں میرا اسکول تھا۔ وہ مجھے اسکول سے لے کر خوش خوش گھر واپس آرہے تھے۔ میں کلاس میں فرسٹ آیا تھا۔ ان کو اپنا رزلٹ دکھلا رہا تھا۔ اسی خوشی میں انھوں نے آٹورکشے رکوا کر ایک دکان سے مٹھائی خریدی اور کچھ دوسرا سامان بھی خریدا تھا۔ بد قسمتی سے روپوں کا تھیلا آٹورکشے میں رہ گیا جس میں بیس ہزار روپے تھے۔ میری بہن کی شادی ہونے والی تھی اور ابا نے یہ روپے اس کی شادی کے لیے نکالے تھے۔ آٹورکشے والے کو ہم نے بہت تلاش کیا اور پولیس میں بھی رپورٹ لکھوادی، لیکن اتنے بڑے شہر میں کسی شخص کا ملنا ناممکن تھا، جس کو ہم جانتے بھی نہ ہوں۔ میری اماں اور ابا کو بہت صدمہ ہوا۔ ان کی تمام عمر کی کمائی یہی رقم تھی اور پھر میری بہن کی شادی ہونے کو

ماہ نامہ ہمدرد تو نہال جون ۲۰۱۴ عیوی ۱۵۳

خاص نمبر

تھی، مگر میرے ابا بہت صابر انسان ہیں۔ انہوں نے اس آٹورکشے والے کو نہ بددعا دی اور نہ کوسا، بلکہ جب بھی اماں کچھ اس کے بارے میں بُرا بھلا کہنے لگتیں تو ابا منع کر دیتے اور کہتے: ”صبر کرو مٹنے کی اماں! شاید اللہ کی کوئی بہتری اس میں پوشیدہ ہو۔ شاید اس آدمی کو ان روپوں کی ہم سے زیادہ ضرورت ہو، اللہ رازق ہے ہمیں کہیں اور سے دے دے گا۔ شاید وہ رقم ہماری قسمت میں نہیں تھی۔ میرے ابا نے اپنے آبائی مکان کو فروخت کر دیا اور میری بہن کی شادی میں اس رپے کو خرچ کیا اور ہم لوگ ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ میں نے کسی طرح سے ہائی اسکول پاس کیا اور ایک کمپنی میں نوکری کر لی۔ مجھے یہ بیگ پا کر احساس ہوا کہ اس کے مالک کو اس کے کھو جانے سے نہ جانے کتنا بڑا نقصان پہنچے، اس لیے جلد سے جلد یہ امانت اس کے سپرد کر دینی چاہیے۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ اپنا پرانا مکان پھر سے حاصل کر لوں۔“

”ناصر میاں! تمہاری کہانی بہت دکھ بھری ہے۔ اس سے مجھے بہت بڑا سبق حاصل ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم اپنا مکان ضرور حاصل کر لو گے۔ میری کمپنی میں ایک اکاؤنٹس کے آدمی کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اس کے لیے سوزوں شخص ہو۔ کیا تم میری کمپنی میں کام کرنا پسند کرو گے۔ ہاں یہ تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تمہاری ایمان داری ہماری کمپنی کے لیے انعام ہوگی۔“

”مجھے آپ کی کمپنی میں، آپ کی نگرانی میں کام کر کے بہت خوشی ہوگی جناب! مگر میں اپنے ابا جی سے بھی رائے لے لوں۔“ ناصر نے جواب دیا۔

”ہاں میں تمہارے ابا سے جلد ہی ملوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

ہوگا کہ تم میری کمپنی میں کام کرو اور اگر ہوگا تو میں ان کو مثالوں گا۔“ کریم بھائی نے ناصر کی پیٹھ تھپ تھپائی۔

اب ناصر حسین، کریم بھائی کی کریم آٹو کمپنی میں اکاؤنٹینٹ تھا اور آٹھ ہزار روپے ماہانہ پاتا تھا اور کمپنی کی گاڑی اس کو گھر سے لے جاتی تھی اور گھر چھوڑنے آتی تھی۔

☆.....

اس کہانی کا ایک حصہ یہاں ختم ہو جاتا ہے، مگر کہانی کا دوسرا حصہ باقی ہے، جو سبق آموز بھی ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ ایک سال بیت چکا ہے۔ ناصر حسین کے پاس اب اتنی رقم ہے کہ وہ اپنا مکان خرید سکتا ہے۔ وہ اپنے ابا کو لے کر پرانے مکان کو دیکھنے جاتا ہے تو ان کو بہت مایوسی ہوتی ہے، کیوں کہ اس مکان کی تو صورت ہی بدل چکی تھی۔ اب وہاں دو منزلہ خوب صورت عمارت کھڑی تھی، جس کی قیمت کئی لاکھ ہوگی اور ابھی اس کی آرائش کا کام چل رہا تھا۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ کسی امیر آدمی نے اس کو ایک سال پہلے خرید لیا تھا اور سال بھر سے یہاں تعمیر جاری تھی۔

ناصر حسین نے ٹھنڈی سانس لی اور ابا سے بولا: ”ابا میاں! شاید اب ہم اپنا مکان واپس نہیں لے سکیں گے۔“

باپ نے بیٹے کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا اور کہا: ”بیٹا! شاید اللہ کی کوئی مصلحت ہماری بہتری کے لیے اس میں ہوگی۔ اس کا شکر ادا کرو کہ ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔“

کریم بھائی ایک دن اچانک ناصر حسین کے گھر پہنچ گئے اور ناصر کے والد سے اپنا تعارف کرایا: ”مجھے کریم بھائی کہتے ہیں۔ ناصر میاں میری کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ بہت

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد توں نہال جون ۲۰۱۳ عیوی ۱۵۵

مختی اور لائق تو جوان ہیں۔“ کریم بھائی نے کہا۔

”جناب! آپ کا کس زبان سے شکریہ ادا کروں۔ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ناصر کو اپنی کمپنی میں کام دیا اور اس پر اعتبار کیا۔ ابھی تو وہ نا تجربے کا رہے۔“ ناصر کے والد نے کہا۔

”محترم! تجربے کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی نو جوان جلد وہ تجربے حاصل کر لیتے ہیں جو ہم بوڑھے لوگ بھی مدتوں نہیں کر پاتے۔“ کریم بھائی نے ہنس کر کہا۔

”میں آپ کی کیا خدمت کروں۔ آپ مجھے حکم دیتے تو میں آپ کے دولت خانے پر حاضر ہو جاتا۔ میں غریب آدمی ہوں، آپ بہت بڑے انسان ہیں۔ آپ کا یہ احسان ہے کہ مجھے یہ عزت بخشی۔“ ناصر کے والد نے کہا۔

”آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں ایک گناہ گار انسان ہوں۔ آپ کی خدمت میں حاضری میرے لیے ایک نئی زندگی کا باعث ہے۔“ کریم بھائی نے ناصر کے والد کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔

”ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو دولت، عزت، راحت ہر چیز دی ہے۔ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔“

”بھائی صاحب! یہ واقعی اللہ کا رحم و کرم ہے کہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کو بھی نعمتوں سے نوازتا ہے، مگر میں واقعی گناہ گار ہوں اور بہت دکھی انسان ہوں۔“ کریم بھائی نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔

”ناصر میاں نے بتایا تھا کہ اب سے تقریباً پندرہ سال پہلے کوئی آٹورکسٹے والا آپ

WWW.PAKSOCIETY.COM

کا رپوں کا تھیلا لے کر بھاگ گیا تھا۔“

”جی ہاں، مجھے وہ حادثہ کل جیسا لگتا ہے، مگر اب اس کے دہرانے سے کیا حاصل۔
اللہ کرے کہ وہ رقم اس آٹورکشنے والے کے لیے آرام کا باعث ہوگی ہو۔“ ناصر کے والد
نے جواب دیا۔

”ہوایہ کہ جب آٹورکشنے والا گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پیچھے سیٹ پر ایک تھیلا
رکھا ہوا ہے۔ اس نے تھیلا کھولا تو اس میں بیس ہزار روپے تھے۔ اس نے سوچا کہ یہ روپے
واپس کر دوں، پھر اس کو شیطان نے بہکایا کہ یہ بے وقوفی مت کرنا، یہ تمہاری قسمت کے
ہیں، رکھ لو۔ اس آٹورکشنے والے نے وہ رقم واپس نہیں کی اور آٹورکشنے چلانا چھوڑ کر
ورک شاپ قائم کر لی۔ اس چوری کی رقم سے اس نے مشین خریدی۔ کام چل نکلا۔ پھر ایک
پرنزوں کا کارخانہ قائم کیا۔ حکومت سے قرضہ لے کر کام بڑھایا اور پندرہ سالوں میں وہ
لکھ پتی بن گیا۔ اب کاروں کے پرنزے اس کے کارخانے میں بنتے ہیں اور بھی کئی کام
کر لیے ہیں، مگر اس کا دل اس کو برا بھلا مت کرتا ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ
آپ کی رقم جرمانے کے ساتھ واپس کرنا چاہتا ہے۔“

”مگر سیٹھ صاحب! آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟“

”اجی! مجھے کیسے معلوم ہوتا۔ اسی رکشنے والے نے مجھے یہ سب بتایا ہے۔“

”تو آپ جانتے ہیں اسے؟“

”خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔“

”تو کیا آپ مجھے اس سے ملوادیں گے؟“

”وہ آپ کے پاس سر کے بل خود آئے گا، مگر بھائی جان! ایک شرط ہے کہ آپ

اسے دل سے معاف کر دیں۔ وہ بہت شرمندہ ہے۔ شیطان نے اسے بہکا دیا تھا۔ وہ کہتا

خاص نمبر

ماہ نامہ ہزارو تو نہال جون ۲۰۱۳ بیوی ۱۵۷

ہے کہ آپ کا مکان بھی آپ کو واپس کر دے گا۔“ کریم بھائی نے اس آٹورکشے والے کی وکالت کی۔

”مگر جناب! وہ مکان تو کسی سیٹھ نے خرید لیا ہے اور اب کئی لاکھ روپے کا ہوگا۔ بھلا وہ مجھے کیوں ملے گا؟“

”معافی کی شرط یہی ہے کہ مکان آپ کو واپس ملنا چاہیے۔ بولے منظور ہے؟“

”جی..... مجھے منظور ہے۔ میرا مکان مجھے مل جائے گا۔“ ناصر کے والد نے خوش ہو کر کہا۔

”تو آپ نے گویا اسے معاف کر دیا۔ سچے دل سے؟“

”ہاں جناب! مگر اسے لائے تو، ملوایے تو، کہاں ہے وہ؟“

”جناب! وہ چور، گناہ گار، وہ شیطان، نامعقول اور سزا کا مستحق انسان آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ جس کا نام سیٹھ کریم بھائی ہے۔“

کریم بھائی کھڑے ہو گئے، سر جھکائے مجرم کی طرح۔

”ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں سیٹھ صاحب! یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟“

ناصر کے والد کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔

”جی ہاں، یہ سب سچ ہے۔ میں ہی ہوں وہ گناہ گار انسان، جس نے آپ کو بہت صدمہ دیا۔ میں آپ کے گزرے ہوئے پندرہ سال واپس نہیں کر سکتا اور نہ ان مصیبتوں کا جرمانہ ادا کر سکتا ہوں، مگر آپ کا مکان آپ کو واپس کرتا ہوں۔ جس کو میں نے ایک سال قبل ناصر میاں سے پہلی ملاقات کے بعد ہی خرید لیا تھا اور یہ طے کر لیا تھا کہ آپ کا مکان بہترین شکل میں آپ کو واپس کروں گا۔“ یہ کاغذات اب آپ کے ہوئے۔

ناصر میاں کے ابا نے کریم بھائی کو سینے سے لگا لیا۔

ناصر کے ابا نے کہا: ”آپ بہت بڑے دل کے انسان ہیں۔ احساس گناہ اور اس سے توبہ کرنا بہت بڑی بات ہے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف فرمائے۔ کاش! ہمارے ملک میں سارے سینہ آپ کے جیسے ہو جائیں۔“

یہ سن کر کریم بھائی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔

ایک درخواست اور ہے اگر آپ قبول کر لیں تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میری ایک بیٹی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ناصر میاں جیسے نیک اور محنتی نوجوان سے اس کی شادی ہو۔ کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟“ کریم بھائی بولے۔

”ناصر آپ کا بیٹا ہے۔ آپ بخوشی اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ناصر آپ کی سرپرستی میں رہے۔“ ناصر میاں کے والد نے آسمان کی جانب نظر اٹھا کر کہا: ”اے رب کریم! تو جو بھی کرتا ہے ہماری بھلائی کے لیے کرتا ہے، تیرا شکر ہے۔“

اس بلا عنوان انعامی کہانی کا اچھا سا عنوان سوچے اور صفحہ ۲۷۱ پر دیے ہوئے کوپن پر کہانی کا عنوان، اپنا نام اور پتا صاف صاف لکھ کر ہمیں ۱۸- جون ۲۰۱۳ء تک بھیج دیجیے۔ کوپن کو ایک کاپی سائز کاغذ پر چپکا دیں۔ اس کاغذ پر کچھ اور نہ لکھیں۔ اچھے عنوانات لکھنے والے تین نونہالوں کو انعام کے طور پر کتابیں دی جائیں گی۔ نونہال اپنا نام پتا کوپن کے علاوہ بھی علاحدہ کاغذ پر صاف صاف لکھ کر بھیجیں تاکہ ان کو انعامی کتابیں جلد روانہ کی جاسکیں۔

نوٹ: ادارہ ہمدرد کے ملازمین اور کارکنان انعام کے حق دار نہیں ہوں گے۔

خاص نمبر | ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ء | ۱۵۹

انگریزی کے عظیم ناول نگار چارلس ڈکنز کا ناول اردو میں

ہزاروں خواہشیں

ہرول عزیز ادیب مسعود احمد برکاتی کا ترجمہ

ایک یتیم اور مفلس بچے کی زندگی کے دلور انگیز حالات، ایک مجرم اور مفرد و قیدی نے اس کی مدد کی، جرائم پیشہ لوگوں کی صحبت میں رہ کر بھی اس نے نر ائی کا مقابلہ کیا، اچھے اور نرے لوگوں کی سازشوں کے درمیان زندگی گزارنے والے اس غریب بچے کی جرات، ہمت اور حوصلے کی جستجو سے بھری داستان۔ مسعود احمد برکاتی کے پُرکشش انداز بیان اور بامعاورہ اردو نے اس داستان کو اور بھی دل کش بنا دیا ہے۔

۱۲۰ صفحات پر مشتمل با تصویر، ویدہ زیب ٹائٹل

قیمت : ساٹھ (۶۰) روپے

پڑھنے کا شوق پیدا کرنے والی

مشہور ادیب اشرف صبوحی کی انوکھی کتاب

کہاوتیں اور ان کی کہانیاں

ہر کہاوت کے پیچھے کوئی نہ کوئی دل چسپ اور سبق آموز کہانی ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی معلوم ہو جائے تو کہاوت کا لطف دو بار ہوتا ہے اور ہم اپنی زندگی میں بھی اسے استعمال کر کے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اشرف صبوحی دہلوی مرحوم نے ایسی ۳۵ کہاوتیں منتخب کر کے ہر کہاوت کے ساتھ ایک کہانی لکھ دی ہے،

۳۵ کہاوتوں کے ساتھ ۳۵ کہانیاں

معلومات بھی حاصل کیجیے اور مزے دار کہانیاں بھی پڑھیے

خوب صورت رنگین ٹائٹل صفحات : ۳۶ قیمت : ۳۰ روپے

ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان، ہمدرد سینٹر، ناظم آباد نمبر ۳، کراچی۔ ۷۳۶۰۰

یہ باتیں چھوڑو

عظیم قاسم

کسی کی بات میں ٹانگ اڑانا
 کسی کے مسئلے میں گھس جانا
 دھیان نہ دینا کام پہ اپنے
 دیکھتے رہنا دن میں اپنے
 باتیں کرنا ان کی ، ان کی
 سچی ہوں ، چاہے ہوں جھوٹی
 کاناپھوسی ہر محفل میں
 میل بھرا رکھنا اس دل میں
 لوگوں کو لڑواتے رہنا
 غصے کو بھڑکاتے رہنا
 یہ باتیں اچھی ہی کب ہیں؟
 انسان پر جتن ہی کب ہیں
 ان باتوں کو چھوڑو بھائی!
 اپناؤ کوئی اچھائی

جادو کی چھتری

دقار محسن

طوبی میاں کو جس دن سے نانی نے جادوئی ٹوپی کی کہانی سنائی تھی، جس کو پہننے والا غائب ہو جاتا ہے۔ طوبی اس دن سے جادوئی ٹوپی کے سحر میں گرفتار تھے اور ان کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح ان کو جادو کی وہ ٹوپی حاصل ہو جائے تو وہ غائب ہو کر جہاں چاہیں پہنچ جائیں۔

ایک دن رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے بستر پر لیٹے اسی ٹوپی کے خیال میں غم تھے کہ کھڑکی کے شیشے سے ان کی نظر باہر لان میں گلاب کی کیاری کے نزدیک ایک بوڑھی عورت پر پڑی، جس کے بال روئی کی طرح سفید تھے۔ بڑھیا طوبی کو اشارے سے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ طوبی میاں ڈرتے ڈرتے اس بڑھیا کے پاس گئے۔ بوڑھی عورت نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا: ”بیٹا! مجھے معلوم ہے کہ تم بہت دنوں سے جادو کی ٹوپی کی تلاش میں ہو۔ یہ لو، ٹوپی کی جگہ میں تمہیں جادو کی یہ چھتری دیتی ہوں۔ تم جس چیز کی طرف اس چھتری کا رخ کر کے ”پھو“ کہو گے، وہ چیز غائب ہو جائے گی، لیکن تم اسے دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے تفریح کے طور پر استعمال نہ کرنا۔“ اتنا کہہ کر وہ بڑھیا مولسری کے درخت کے پیچھے غائب ہو گئی۔

طوبی میاں حیرت سے سرخ رنگ کی اس چھتری کو دیکھتے رہے۔ ان کو یقین نہیں آرہا تھا۔ پھر بھی انہوں نے تجربہ کرنے کے لیے جادو کی چھتری جنوبی دیوار پر لہرائی چنبیلی کی نیل کی طرف کر کے ”پھو“ کہا تو اچانک وہ نیل غائب ہو گئی۔ وہ خاموشی سے آکر اپنے بستر پر لیٹ گئے۔

تھوڑی دیر بعد طوبی کو لان میں امی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ ان کے

”نچھو“ کہا، اتفاق سے اسی دوران ان کے پیارے کتے موتی نے تتلی کے پیچھے چھلانگ لگائی اور چھتری کے سامنے آگیا اور اس پر جادو کا اثر ہو گیا۔ یوں موتی اچانک غائب ہو گیا۔ طوبی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ موتی کی ہلکی ہلکی غراہٹ کی آواز آرہی تھی، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد غراہٹ بند ہو گئی۔ شاید وہ کسی اور طرف چلا گیا تھا۔ اسی دوران مناظر چچا کی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ چند لمحوں بعد گاڑی سے کسی چیز کے نکرانے کی آواز آئی اور موتی کی دلخراش چیخ گونجی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن طوبی سمجھ گئے تھے کہ موتی، چچا مناظر کو نظر نہیں آیا اور گاڑی سے نکل گیا۔ اب موتی کے کراہنے کی آواز بند ہو گئی تھی۔ شاید وہ مر چکا تھا۔

طوبی میاں نہ جانے کب تک روتے روتے سو گئے۔ رات کے تیسرے پہر ان کو وہ بڑھیا پھر نظر آئی۔ بڑھیا نے طوبی کے قریب آ کر کہا: ”طوبی! میں تمہیں اس چھتری سے محروم کر رہی ہوں اور تمہیں ایک نصیحت کر رہی ہوں۔ اس کو زندگی بھر یاد رکھنا۔ بیٹا! یاد رکھو کہ انسان کو جو دولت، طاقت، رتبہ، صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، وہ اس شخص کے لیے نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہیں، جسے دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ان سے دوسروں کو تکلیف یا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ تم نے اس چھتری کا غلط استعمال کیا اور اپنے پیارے موتی کو گنوا بیٹھے۔“

اچانک طوبی کو امی کی آواز آئی: ”طوبی بیٹا! جلدی اٹھو اسکول کی دین آنے کا وقت ہو گیا۔“

طوبی نے آنکھیں ملتے ہوئے شکر ادا کیا کہ یہ صرف ایک خواب تھا۔

☆☆☆

تہذیب کی ابتدا کیسے اور کہاں ہوئی مسعود احمد برکاتی

سائنس دانوں کا خیال ہے کہ دنیا میں تمدن و تہذیب کی ابتدا سب سے پہلے مشرق وسطیٰ کے اس حصے میں ہوئی، جسے آج کل عراق کہا جاتا ہے۔ اس خطے میں دو ندیاں تھیں، جنہیں ہم دجلہ اور فرات کہتے ہیں۔ ان دونوں ندیوں کی بدولت اس بنجر زمین کا ایک حصہ جو ہلال کی شکل کا ہے، نہایت زرخیز ہو گیا۔ اس زرخیز خطے کا نام جغرافیہ دانوں نے زرخیز ہلال رکھا ہے۔ اسی زرخیز ہلال میں تمدن کی ابتدا ہوئی۔ تمدن کا مطلب ہے، انسانوں کا میل جمل کر رہنے کے طریقے۔ ان طریقوں میں جب سلیقہ آتا ہے تو وہ تہذیب کہلاتی ہے۔ زرخیز ہلال سے ہی تہذیب ساری دنیا میں پھیلی۔

دجلہ اور فرات کے نشیبی علاقوں میں جنگلی پودے (گیہوں اور جو وغیرہ) اور چند جنگلی جانور (بھیڑ، بکری، گھوڑے وغیرہ) بھی پائے جاتے تھے۔ ایک دن کسی شکاری نے سوچا کہ اگر میں شکار کے لیے کتا پال سکتا ہوں تو دوسرے جنگلی جانور کیوں نہیں پال سکتا۔ جب یہ جانور بچے دیں گے تو شکار کی تکلیف ختم ہو جائے گی اور گھر میں گوشت کھانے کو مل جائے گا۔ اس شکاری کے ساتھ ایک عورت بھی رہنے لگی، جو میلوں تک جنگلوں اور میدانوں میں گھوم گھوم کر گیہوں اور جو کے پودوں سے بالیاں توڑ کر لاتی اور ان میں سے دانے نکال کر گھر والوں کو کھلاتی تھی۔ اس عورت نے سوچا کہ اگر وہ ان دانوں کو اپنی تھونپڑی کے اطراف زمین میں گاڑ دے تو ان کے پودے نکل

آئیں گے اور اس طرح اس کا جنگلوں میں مارا مارا پھرنا ختم ہو جائے گا۔ گھر کے قریب ہی سے دانے مل جایا کریں گے۔ اس طرح کھیتی باڑی کا طریقہ شروع ہوا اور انسان ۹۰۰۰ سال قبل مسیح میں غذا جمع کرنے والے کے بجائے غذا پیدا کرنے والا بن گیا۔

جب انسان غذا کی تلاش میں جنگل جنگل پھرا کرتا تھا تو اسے اپنے لیے گھر بنانے کا خیال نہیں آیا تھا اور نہ وہ کوئی سامان ساتھ رکھ سکتا تھا۔ جب اس نے جنگلی جانور (بھیڑ، بکری وغیرہ) پالنے شروع کیے اور جنگلی غذائی پودے (گیہوں اور جو) اپنی جھونپڑی کے قریب لگانا شروع کیے تو بجائے ادھر ادھر گھومنے کے ایک ہی جگہ رہنا ضروری ہو گیا۔ اس نے گھاس پھوس کی جھونپڑیوں کے بجائے مٹی کی دیواریں بنائیں اور انھی سے مکان بننے کی ابتدا ہوئی۔ مٹی ہی سے پانی پینے کے لیے کنوڑے بھی بنائے۔ جب اس کے گھر کی تمام عورتیں اور بچے مل کر کھیتی باڑی اور جانوروں کے پالنے میں لگے تو ان کو بہت آرام ملنے لگا۔ یہ دیکھ کر ان کو خیال ہوا کہ دوسرے لوگوں کے خاندان بھی ساتھ مل کر کام کریں گے تو یقیناً زندگی اور بھی آسان ہو جائے گی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ سب لوگوں نے ایک دوسرے کے قریب مکان بنانے شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے آٹھ ہزار سال قبل مسیح میں زرخیز ہلال کے خطے میں چند گاؤں نظر آنے لگے۔

زرخیز ہلال کی پہاڑیوں میں پانی کے چشمے اُبلا کرتے تھے۔ اب لوگ ان چشموں کے پانی کو نالیاں کھود کر بنجر زمینوں تک لے آئے، تاکہ زیادہ زمین پر کاشت کی جاسکے۔ یہ تیسرا انقلابی خیال تھا، جس کی وجہ سے چار ہزار سال قبل مسیح

www.PAKSOCIETY.COM

سے پہلے آب پاشی کا رواج ہوا۔ جب اناج زیادہ پیدا ہونے لگا تو گھر میں فاضل اناج رکھنے کے لیے برتنوں کی ضرورت پڑی۔ اناج رکھنے کے برتنوں کے ساتھ ساتھ قسم قسم کے اور بھی برتن بننے لگے۔ اس طرح ظروف سازی یعنی برتن بنانے کی صنعت شروع ہوئی۔ گاؤں، پھیل کر شہروں میں بدلنے لگے۔ لوگ اپنا بنایا ہوا سامان دوسروں کو دے کر اس کے بدلے میں اپنے کام کی چیزیں حاصل کرنے لگے۔ یہ تجارت کی ابتدائی شکل تھی۔ اس کے بعد سکہ جاری کیا گیا۔ ان باتوں کی خبر یورپ پہنچی اور تین ہزار سال قبل مسیح میں اسپین اور فرانس میں کھیتی باڑی اپنی ابتدائی شکل میں شروع ہوئی۔

زرخیز ہلال کے خطے میں مختلف قسم کے اناج اور دوسری چیزیں رکھنے والے اتنے لوگ ہو گئے کہ لوگوں کے لیے یہ معلوم کرنا مشکل ہو گیا کہ کون کیا کام کرتا ہے یا کس کے پاس کون سی چیز مل سکتی ہے۔ چند سو جھ بوجھ والے آدمی سر جوڑ کر بیٹھے اور گلی مٹی کی تکیوں پر نیڑھی ترچھی لکیریں کھینچیں۔ تکیوں کو جلا کر سخت کیا اور ان کے نشانات کو سب نے ذہن نشین کر لیا۔ ہر تکیا کا نشان یہ ظاہر کرتا تھا کہ کون سا آدمی کیا کام کرتا ہے اور اس سے کون کون سی چیزیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس خیال کے ذہن میں آنے کے بعد زرخیز ہلال کے بچوں کسی جگہ لکھنے یا تحریر ایجاد ہوئی جو دنیا میں تمدن، تہذیب اور اس کے نتیجے میں تاریخ لکھنے کی ابتدا کا سبب بنی۔

☆☆☆

خاص نمبر ماہ نامہ ہمدرد نو تہال جون ۲۰۱۳ء ۱۶۷

باغ کی سیر

امان اللہ نیر شوکت

جو پھول مسکرائیں گے
 تو رنگ و بو اڑائیں گے
 چمن میں گیت گائیں گے
 خوشی سے جھوم جائیں گے
 چمن میں ہم بھی جائیں گے
 گلوں پہ جو بکھار ہے
 ہوا بھی منگ بار ہے
 ہمیں چمن سے پیار ہے
 چمن کو ہم سچائیں گے
 چمن میں ہم بھی جائیں گے
 پھریں گے سبز گھاس پر
 کریں گے سر ادھر ادھر
 پھر ایک پھول توڑ کر
 لباس پہ لگائیں گے
 چمن میں ہم بھی جائیں گے
 خوشی کا دن ہے ، غم کہاں
 ہیں سارے بچے شادماں
 لو آگے نیر میاں
 انھیں بھی ہم بتائیں گے
 چمن میں ہم بھی جائیں گے

خاص نمبر

ماہنامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ء عیسوی ۱۶۸





تصویر خانہ

اشعر، لائیب، نرہ، جویریہ، عامم، کراچی

منیرہ افضل، لیاقت آباد



مصوٰر سفیان، بنوں

عائشہ عبدالستار، مینم، کراچی

بشا خان، عزیز آباد



خاصہ مشتاق، پورے والا

شفیق محمد علی، ادھتل

محمد انس افضل، کراچی



پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریٹریوم ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سیریم کوالٹی، ہارمل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈفری لنکس، لنکس کو میسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

✦ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

✦ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan




Like us on
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1



فیضان احمد خان، میرپور خاص



نوٹہال مرصوم



گلشوم نواز، ڈیرہ اسماعیل خان



اریہ انصاری، کراچی



ذاکرہ شاکرہ نئی کراچی



عائشہ الدین، حیدرآباد



ام حبیبہ ٹیکسلا

WWW.PAKSOCIETY.COM

WWW.PAKSOCIETY.COM



فہد حسین کیر یو، کراچی



فاطمہ رحیم، راولپنڈی کینٹ



مزل محمد علی، اوٹھل بلوچستان



شانزے عامر انصاری، کورنگی



مریم شفیق، سرانے عالمگیر



عبیہ محمد یونس، حیدرآباد



عائشہ کریم، کراچی

بندریا بیگم

عبدالغنی شمس



کسی شہر میں ایک بیگم صاحبہ رہتی تھیں۔ انھوں نے ایک بندریا پال رکھی تھی۔ بیگم صاحبہ نے اس بندریا کو ایک بندر والے سے پانچ سوڑے پے میں خریدا تھا۔ شہر کے قریب ہی ایک جنگل تھا۔ بندر والا اس بندریا کو وہیں سے پکڑ لایا تھا۔ بیگم کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ موجود تھا۔ قیمتی سامان، خوب صورت فرنیچر، شان دار ہنگامہ، نوکر چاکر، مگر بیگم صاحبہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بیگم صاحبہ بندریا کو دل سے چاہتی تھیں، اتنا ہی نہیں، بلکہ بالکل اسے اپنے ہی جیسا لباس پہناتی تھیں۔ سلک کا سفید غرارہ، سلک کا سفید جمپیر، اس پر ہلکے رنگ کا

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد تو تہمال جون ۲۰۱۴ عیسوی	۱۷۳
----------	--	-----



خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد تو تہمال جون ۲۰۱۴ عیسوی

۱۷۳

نائیلون کا چاند تارا نکا ہوا دوپٹا، کانوں میں دو چھوٹے چھوٹے جڑاؤ بندے اور گلے میں موتیوں کی مالا۔ بندر یا سچ مچ بیگم صاحبہ کی بیٹی معلوم ہوتی۔ گھر کے تمام لوگ یہاں تک کہ خود بیگم صاحبہ بھی اس بندر یا کو بندر یا بیگم کہہ کر پکارتیں۔ بندر یا ہر وقت بیگم صاحبہ کے پاس بیٹھی ہوئی پانوں کی ڈبیا سے پان نکال نکال کر کھاتی رہتی۔ یہی نہیں، بلکہ بندر یا میں بیگم صاحبہ کی ساری عادتیں بھی پیدا ہو گئی تھیں۔ صبح کو دیر سے سو کر اٹھنا، نوکرائیوں سے پاؤں دبوانا، دن بھر گاؤں سبکے کے سہارے لیٹے یا بیٹھے رہنا، اپنی جگہ سے مل کر پانی تک نہ پینا، بے کاری میں سارا وقت گزارنا اور وہی آنکسی اور آرام طلبی۔ بس یوں سمجھو کہ بندر یا ہو بہو بیگم صاحبہ کا نمونہ بن گئی۔ اسی کو کہتے ہیں، جیسی صحبت ویسا اثر۔

ایک رات بیگم صاحبہ کے بیٹھکے میں کسی طرح ایک چور گھس آیا۔ سامان والے کمرے میں بڑے بڑے تالے پڑے تھے۔ چور بڑا مایوس ہوا۔ اچانک اس کی نظر بیگم صاحبہ پر جا پڑی جو اپنی مسہری پر بڑی گہری نیند سو رہی تھیں۔ بیگم صاحبہ کے پہلو میں بندر یا دوپٹے سے چہرے کو ڈھانپنے سو رہی تھی۔ چور نے بندر یا کو بیگم صاحبہ کی بیٹی سمجھا اور لپک کر، مگر بڑی ہی آہستگی کے ساتھ اپنی گود میں اٹھالیا اور اپنے سینے سے لگائے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ بیٹھکے سے باہر نکل گیا۔ چور نے دل میں کہا کہ جب بیگم صاحبہ کی بچی کی پورے شہر میں ڈھونڈ مچے گی، اس وقت وہ کسی ترکیب سے اس بچی کے ذریعے سے بیگم صاحبہ سے کافی رپے ایٹھ سکے گا۔ انھی باتوں کو سوچتے ہوئے اور بندر یا کو اپنے سینے سے چٹائے چور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا، تاکہ بیگم صاحبہ کی بچی کو کسی محفوظ جگہ چھپا دے۔

تھوڑی دور چلنے کے بعد چور جنگل کے قریب پہنچ گیا اور جنگل میں داخل ہونا ہی



چاہتا تھا کہ بندریا کی آنکھ کھل گئی۔ اب صبح کا دودھیا اُجالا پھیلنے لگا تھا۔ بندریا سمجھی کہ صبح ہو گئی ہے اور بیگم صاحبہ اس کو اپنی گود میں لے کر ٹہلارہی ہیں، مگر جب بندریا نے اپنے چہرے پر پڑے دوپٹے کو ڈرا سر کا کر دیکھا تو دل میں بہت گھبرائی، کیوں کہ وہ بیگم صاحبہ نہ تھیں، بلکہ کوئی اُن جان اسے پکڑ کر لیے جا رہا تھا۔ بندریا کو بڑا غصہ آیا۔ یکا یک اُتھیل کر اس نے زور سے چور کے گال پر کاٹ لیا۔ چور نے چیخ کر بندریا کو اپنی گود سے زمین پر شیخ دیا۔ بندریا جلدی سے اُچک کر درخت کی ایک شاخ پر جا بیٹھی۔ چور کا سارا بدن ڈر کے مارے بُری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے اور آخر یہ کون سی بلا تھی، جس کو وہ اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے اتنی دور لے آیا تھا؟

اب تو چوروہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر بھی جنگل کی



فیول پر بچت کا صحیح طریقہ

ایک مہینے میں **Rs. 2000** تک بچائیں

HBL کی ہزاروں کارڈز کے ذریعے آپ کو ہر ماہ 2000 روپے بچت ملے گی۔
 پاکستان بھر میں کسی بھی ایچ ایبل اسٹیشن پر اپنے کارڈ استعمال کریں اور ہر ماہ 2000 روپے بچت حاصل کریں۔

ایچ ایبل کارڈ ہاؤس میں اور پینے پائیں!



HBL FuelSaver

111-111-429 HBL FuelSaver

111-111-429



طرف نہ دیکھا۔ بندر یا درخت کی شاخ پر بیٹھی ہوئی چور کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ نظر سے اوجھل ہو گیا تو بندر یا کو اطمینان ہوا، پھر اس کو چور کی بدحواسی پر ہنسی آ گئی۔ جب سارے جنگل میں صبح کا اُجالا اچھی طرح پھیل گیا تو ایک بندر، ایک بیڑ سے دوسرے بیڑ پر اُچکتا کودتا اس درخت کے پاس آیا، جس پر بندر یا بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک بندر یا کی نظر بندر پر پڑ گئی۔ بندر، بندر یا کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ بندر یا انسانوں کا لباس کہاں سے پہن کر آئی ہے۔ بندر یا، بندر کو بڑی پیاری لگی اور واقعی بندر یا تھی بھی بہت ہی پیاری۔ اب بندر، بندر یا کے قریب آیا۔ جب بندر نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی، کیوں کہ وہ بندر یا تو اس کی بیٹی تھی، جو جیسے سات مہینے پہلے غائب ہو گئی تھی۔ بندر نے دوڑ کر بندر یا کو گلے لگایا اور بڑے پیار و محبت کے لہجے میں بولا: ”ٹو میری بیٹی ہے، کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟“ اتنا کہہ کر خوشی کے آنسو بندر کی آنکھوں میں پھلکنے لگے۔ بندر یا سچ سچ اپنے باپ کو نہیں پہچان پارہی تھی۔ وہ چپ چاپ باپ کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر میں سارے جنگل میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کھوئی ہوئی بندر یا مل گئی۔ جب بندر یا کی ماں کو معلوم ہوا تو وہ بھاگم بھاگ بندر یا کے پاس پہنچی اور دوڑ کر اس سے لپٹ گئی اور ہچکیاں لے لے کر بہت روئی۔ بندر یا نے اپنی ماں کو پہچان لیا اور ماں کے ساتھ خود بھی رونے لگی۔ جب ماں کا دل ذرا ہلکا ہوا تو آنسو پونچھتے ہوئے بولی: ”بیٹی! تو کہاں کھو گئی تھی اور پھر یہاں کیسے آ گئی؟“

بندر یا نے کہا: ”ماں! میں ایک دن جنگل سے اکیلی باہر نکل گئی تھی۔ پیل کے

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ عیسوی

۱۷۷



بڑے درخت کے پاس وہ جو کھیت ہے نا! اس میں مٹر کی پھلیاں کثرت سے تیل میں لگی ہوئی تھیں۔ میں مٹر کی پھلیاں توڑ توڑ کر مزے سے کھا رہی تھی کہ اتنے میں ادھر سے دو بندر والے گزرے۔ انھوں نے مجھ کو اکیلا پایا۔ دو طرف سے ان دونوں نے مجھے گھیر لیا۔ میں بھاگ نہ سکی اور انھوں نے مجھے پکڑ لیا اور شہر میں لے جا کر ایک بیگم صاحبہ کے ہاتھ بیچ دیا۔

پھر ذرا رک کر بندر یا نے بڑے ہی پیار کے لہجے میں کہا: ”اماں! بیگم صاحبہ بہت ہی اچھی ہیں۔ بڑے ہی لاڈ پیار سے بیٹی کی طرح انھوں نے مجھے رکھا۔ یہ دیکھو، اچھے اچھے اور عمدہ سونے کے زیور یہ سب بیگم صاحبہ ہی نے تو مجھے دیے ہیں۔“

بندر یا کی ماں نے کہا: ”بیٹی! پھر کیا ہوا، تو یہاں کیسے آئی؟“

بندر یا نے کہا: ”ہوایہ کہ میں بیگم صاحبہ کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ ایک چور مجھ کو وہاں سے خرا کر اس جنگل کی طرف لیے آ رہا تھا کہ میں نے اُچک کر اس کے گال پر کاٹ کھایا تو وہ ڈر کر مجھے زمین پر بیچ کر بھاگ گیا اور ایسا بھاگا کہ پھر جنگل کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔“ اتنا کہہ کر بندر یا ہنس پڑی۔ بندر یا کے ہنسنے سے اس کی ماں بھی مسکرائی اور بندر یا سے لپٹ گئی اور بولی: ”اللہ تیرا شکر، تو نے میری کھوئی ہوئی بیٹی کو مجھ تک پہنچا دیا۔“

اس کے بعد بڑے پیار کے لہجے میں بولی: ”میں اسی لیے تو تجھ کو اکیلی جانے سے روکتی تھی، مگر تو میری بات نہیں مانتی تھی۔ دیکھ، اب ہرگز اکیلی جنگل سے باہر نہ نکلنا، ورنہ پھر تجھے کوئی پکڑ لے گا۔“

بندر یا نے کہا: ”اماں! اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ اکیلی کبھی نہ نکلوں گی۔ اب سمجھ گئی، تم ٹھیک ہی کہتی تھیں امی!“

اور واقعتاً اس روز کے بعد بندریا کبھی اکیلی جنگل سے باہر نہ گئی۔ جب کہیں جانا چاہتی تو پہلے ماں سے اجازت مانگتی۔ ماں مناسب سمجھتی تو اپنے ساتھ لے جاتی، ورنہ کہہ دیتی: ”بیٹی! تیرا وہاں جانا ٹھیک نہیں۔“ اور بندریا، ماں کی بات مان جاتی۔ کبھی جانے کے لیے اصرار نہ کرتی۔

اب بندریا کی ماں کو فکر ہوئی کہ بندریا کی کہیں شادی کر دے تو اچھا ہے۔ بندریا جس روز شہر سے آئی تھی تو اس کے خوب صورت لباس اور اچھے اچھے زیور دیکھ کر بہت سے بندروں نے بندریا سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر جب آہستہ آہستہ سارے جنگل میں بندریا کی بُری عادتوں کی خبر پھیل گئی کہ وہ صبح کو بہت دیر سے اُٹھتی ہے اور بڑی کاہل، کام چور اور آرام طلب ہے تو ان بندروں کی ماؤں نے کہا کہ وہ بہو جو کاہل اور آرام طلب ہو اور گرتستی کے قابل ہو، وہ ہمارے کس کام کی؟ ہم ایسی بے کاری بہو لا کر کیا کریں گے۔ اپنی ماؤں کے کہنے میں آ کر تمام بندروں نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب بندریا کی ماں نے بندریا کو بتایا کہ اس کی بگڑی ہوئی عادتوں کی وجہ سے کوئی بندر اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں تو وہ بہت دکھی ہوئی اور بہت جلد وہ ساری بُری عادتیں جو بیگم صاحبہ کے یہاں رہنے کی وجہ سے اس میں پیدا ہو گئی تھیں، چھوڑ دیں۔ جب بندروں کے سردار کے بیٹے کو یہ معلوم ہوا کہ شہر سے آئی بندریا نے ساری بُری عادتیں چھوڑ دیں تو شادی کا پیغام بھیجا۔ بندریا کی ماں نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کا ہونے والا دلہا، سردار کا بیٹا ہے اور ہر طرح خود بھی اچھا ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ اس کا پیغام قبول کر لیا اور ایک دن بڑی دھوم دھام سے بندریا کی شادی ہو گئی۔ واقعی ماں باپ کا کہنا ماننے اور ان کی ہدایات پر چلنے میں ہی بھلائی ہے۔

☆

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ء	۱۷۹
----------	---------------------------------	-----

دانشوروں کی باتیں

فاطمہ ثریا بجیا

”ہمدرد نونہال“ محبت کے لائق ہے۔ نونہال رسالہ اپنی جگہ ایک معتبر نام ہے، مگر میں فاطمہ ثریا، جسے سب بجیا کے نام سے پہچانتے ہیں، سند یافتہ عالمہ نہیں ہوں، لیکن اب یہ حال ہے کہ اعزازی طور پر میرے پاس تین پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں اور میرے خیال میں نہیں، یقین کے ساتھ لکھ رہی ہوں کہ یہ میرے بزرگوں کی شفقت اور ان کی تربیت ہے کہ آج میں عالمہ فاضلہ سمجھی جاتی ہوں۔ بہر حال بزرگوں کی تربیت اور مہربانیاں اپنی جگہ، مگر یہ میرے رب کی رحمت اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے کہ میں صاحب علم سمجھی جاتی ہوں۔

تسلیم الہی زلفی، کینیڈا

پاکستان میں بچوں کے رسائل و جرائد میں ماہنامہ ”ہمدرد نونہال“ کو ابتدا سے ہی اختصاص اور امتیاز حاصل ہے۔ گزشتہ چھ دہائیوں میں ”نونہال“ کے ذریعے سے جناب مسعود احمد برکاتی صاحب نے نونہالوں کی چھ نسلوں کی تربیت کی ہے اور مجھے شرف حاصل ہے کہ میرا تعلق تربیت پانے والی پہلی نسل سے ہے۔ پاکستان میں بچوں کی تہذیبی، اخلاقی، لسانی اور ایک اچھا شہری بنانے کی سستی مسلسل کے حوالے سے ماہ نامہ ہمدرد نونہال اور مسعود احمد برکاتی کا نام شہری حروف سے لکھا جاتا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔

☆☆☆

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ء میری ۱۸۰

خاص نمبر

بابا چینا

پروفیسر رئیس قاطرہ

بہت دن ہوئے کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، جو بہت نیک دل، سمجھ دار اور رعایا سے محبت کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام دانیال تھا۔ وہ ابھی صرف دس سال ہی کا تھا کہ بادشاہ نے اس کی تربیت اس انداز میں شروع کروائی کہ اس کے دل میں خوف خدا ہر وقت رہے۔ وہ غریبوں کے دکھ درد کو سمجھنے اور انھیں دور کرنے کی تدابیر بھی کرے۔ عالموں کی قدر کرے اور استاد کی عزت خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی اس کا عادی بنائے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ دینی و دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت کا بھی انتظام کیا گیا۔ ملک کے بہترین دماغ شہزادے کی تربیت پہ مامور کر دیے گئے۔ شہزادے کو موسیقی سے بھی لگاؤ تھا۔ خاص طور پر اسے برہنہ اور ستارہ بجانا بہت اچھا لگتا تھا۔ بادشاہ سلامت جن کا نام سلطان محمد فاروق تھا۔ انھوں نے پوری کوشش کی کہ اٹھارہ سال کی عمر تک شہزادہ قین حرب میں ماہر ہو جائے۔

بادشاہ دربار عام اور دربار خاص دونوں میں شہزادے کو اپنے ساتھ بٹھاتا تھا اور بعد میں اسے رموز سلطنت اور امور حکومت سے بھی آگاہ کرتا تھا۔ شہزادے کی والدہ ملکہ سلطان جہاں بیگم اور دادی والدہ سلطان کہلاتی تھیں۔ محل کے اندرونی انتظامی معاملات کی نگرانی وہی کرتی تھیں۔ سلطان جہاں بیگم بہت دانش مند خاتون تھیں۔ وہ اور بادشاہ دونوں والدہ سلطان کے ہر فیصلے کو مانتے تھے۔

خدا خدا کر کے وہ مبارک دن آیا جب شہزادہ دانیال پورے اٹھارہ سال کا ہو گیا اور ایک مبارک ساعت دیکھ کر بارہ ربیع الاول کو عصر کی نماز کے بعد بادشاہ نے اپنی ملکہ اور والدہ کی موجودگی میں شہزادے کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ اعلان

بھی کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ شہزادے کی تعلیم جاری رہے۔ وہ دوسری زبانیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ اُن ملکوں کا ادب بھی پڑھے، جو ان کے ہمسائے ہیں، کیوں کہ زبانیں اور ادب انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔ شہزادے کو علم نجوم اور پامسٹری کا بھی شوق تھا۔ چنانچہ اس کی دل چسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے بادشاہ نے بغداد اور یونان سے ان علوم کے ماہرین کو بلوایا۔ انھیں بہترین مراعات دیں، وظائف دیے اور ان کے لیے دربار میں الگ کرسیاں رکھوائی گئیں، کیوں کہ سلطان محمد فاروق اساتذہ اور اہل علم کا بہت قدر دان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس حکمران کو ایسے قابل لوگ مل جائیں، وہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ سلطان فاروق جانتا تھا کہ شہنشاہ اکبر جو زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکا تھا اور اپنے باپ ہمایوں کی اچانک وفات کے بعد اسے کم عمری میں تخت شاہی پر بیٹھنا پڑا۔ اس نے کم و بیش پچاس سال تک نہایت کامیابی سے نہ صرف حکومت کی، بلکہ رعایا کو بھی اپنا گرویدہ بنائے رکھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ نہایت قابل، سمجھ دار اور عالم فاضل لوگ تھے، جو اپنے اپنے میدان میں یکتا تھے۔ جنھیں اکبر نے "نورتن" کا خطاب دیا تھا۔ شہنشاہ اکبر کے یہ نوانمول ہیرے ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی۔ بچو! ملا دو پیازہ، بیربل، راجا ٹوڈرل، ابوالفضل، تان سین، عبدالرحیم خان، خان اور فیضی۔ سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ یقیناً ان ذہین لوگوں کے بارے میں آپ کے استاد نے ضرور بتایا ہوگا۔

ہاں تو بادشاہ سلامت نے بھی ان قابل دماغوں کے لیے ان کے شایان شان خلعت اور مراتب عطا کیے، تاکہ شہزادہ دانیال بادشاہ بننے کے بعد اخوت، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رعایا کا دل جیتے۔ اس نے ایک ایسے بے نیاز شخص کو بھی اپنے دربار سے وابستہ کرنا چاہا، جو رات کو عشا کی نماز کے بعد ایک بزرگ کے مزار پر چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا، جو کچھ نذرانہ یا رقم لوگ اس کی جھولی میں ڈال جاتے، وہ اسے سمیٹ کر کسی نہ کسی

غریب محلے میں چلا جاتا اور وہاں جو سب سے زیادہ مستحق ہوتا اس کا دروازہ کھٹکھا کر کہتا: ”یہ لو میرے بھائی! اللہ میاں نے بھجوائے ہیں۔ یہ اللہ کی امانت ہے اور امانت کبھی نہ کبھی لوٹانی پڑتی ہے۔ خدا سے دعا کرنا کہ وہ تمہیں اس امانت کے لوٹانے کے قابل بنائے۔“

یہ غریب آدمی جسے لوگ بابا چینا کہتے تھے بادشاہ کے بلانے پر سپاہیوں کے ساتھ چلا تو گیا، لیکن درباری بننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے وجہ جانتی چاہی تو اس نے بادشاہ سے کہا: ”سلطان محمد فاروق آپ مجھے کیوں دربار سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں میں تو فقیر ہوں، بے وقعت، بے توقیر۔“

بادشاہ نے جواب دیا: ”میں اپنے ولی عہد سلطنت شہزادہ وانیال کی طبیعت اور تربیت میں فقیروں جیسی عاجزی، انکسار اور قناعت بھی پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں دربار کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، تاکہ شہزادے کے دل میں بھی ایسے بے نیاز لوگوں کا احترام پیدا ہو سکے۔“

بادشاہ کی بات سن کر بابا چینا نے نہایت احترام سے کہا: ”بادشاہ سلامت، خدا آپ کو صحت و تن درستی عطا فرمائے، کیوں کہ آپ ایک نیک دل بادشاہ ہیں۔ رعایا ہمیشہ آپ کی لمبی عمر کی دعا کرتی ہے، لیکن آپ نے شاید اسے میری گستاخی سمجھ رہے ہوں کہ میں نے آپ کو بادشاہ سلامت کے بجائے آپ کے اس نام سے پکارا، جو آپ کے والد محترم نے رکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ سے کوئی انعام و اکرام نہیں چاہیے۔ اس کائنات کا اصل بادشاہ خدائے بزرگ دبرتر ہے۔ آپ زمین پر اس کے نائب ہیں اور بس۔“

بابا چینا سر اٹھائے بادشاہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وزیر ڈر رہے تھے کہ سر جھکائے ہاتھ باندھ کر مؤدب کھڑے ہونے کے بجائے سیدھا کھڑا ہو کر کہیں یہ کسی سزا کا مستحق نہ قرار دے دیا جائے۔

”آگے کہو بابا چینا! کہ تم نے ہماری درخواست کیوں نہ قبول کی۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ آئندہ نسلوں کو ایک نیک اور قناعت پسند بادشاہ حکومت کرنے کو ملے؟“ بادشاہ نے خوش دلی سے پوچھا۔

بابا چینا نے تھوڑا سا سر جھکایا اور بولا: ”آپ دلی عہد کو قناعت، صبر اور سخاوت کا سبق پڑھانا چاہتے ہیں۔ بزرگانِ دین سے محبت کرنی سکھانا چاہتے ہیں۔ ان سب کے لیے آپ نے مجھ ناچیز کا انتخاب کیا، لیکن کہتے ہیں کہ غلامی اور حکمرانی کی خصلت چالیس سال تک نہیں جاتی۔ تو آپ نے بھی حکمرانی کی خصلت سے مجبور ہو کر مجھے دربار میں سپاہیوں کے ذریعے طلب کیا۔ اگر آپ انکسار اور قناعت کو اولیت دیتے تو خود میرے پاس آتے۔“

بابا چینا کی بات سن کر سارے دربار پر سناٹا چھا گیا، لیکن سلطان کی والدہ نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا کہ بابا چینا سچ کہتا ہے، لیکن یہ میرے بیٹے سلطان محمد فاروق کی غلطی نہیں، بلکہ میری تربیت کی کوتاہی ہے۔ پھر سلطان کی والدہ بابا چینا سے مخاطب ہو کر بولیں: ”اچھا اب اس بات کی وضاحت کرو کہ تم نذرانہ اور نقد رقم دینے کے بعد امانت لوٹانے کی بات کیوں کرتے ہو؟ اور اس کا کیا مطلب ہے ہم جانتا چاہیں گے؟“

”جی والدہ سلطان! خدا آپ جیسی ماؤں کو سلامت رکھے۔ میں عرض کرتا ہوں۔ جس نذرانے کو میں اپنے مرشد کی درگاہ پر اکٹھا کرتا ہوں، اس کے لیے ایک دن پہلے وہ گھر ڈھونڈ لیتا ہوں، جو خود داری سے مجبور سفید پوشی کا بھرم بمشکل نبھار رہے ہیں۔ کبھی کبھی پورا پورا دن لوگ بھوکا رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ امانت لوٹانے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ رقم ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے۔ جب صاحب خانہ کے حالات اجازت دیں تو وہ یہ رقم امانت سمجھ کر کسی دوسرے غیر مستحق خاندان کو دے دے۔“

بابا چینا خاموش ہوئے تو بادشاہ نے انھیں نشست پر بیٹھنے کو کہا اور کہا: ”ہمیں اپنی

غلطی کا احساس ہے۔ سچ ہے انسانوں کا احترام بہت ضروری ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے سر اولیائے کرام کے آستانوں پر جھکے ہیں۔ ہم یہ کیسے بھول گئے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے بیٹوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ اپنے استاد محترم کو جاتے وقت جوتے خود اپنے ہاتھوں سے پہنایا کریں۔ مامون الرشید اس حکم پر عمل کرتا رہا اور دل سے اپنے اساتذہ کی عزت بھی کرتا رہا۔“

”جی میرے سلطان! میرا یہی مطلب تھا۔ جب شہزادہ دائیال آپ کو فقیروں اور بزرگان دین کا احترام کرتے دیکھیں گے تو خود بہ خود ان کے دل میں بے وسیلہ لوگوں کے لیے احترام اور محبت پیدا ہوگی۔“

ٹھیک ہے، تو پھر آپ کب سے ہمارے پوتے شہزادے دائیال کو اپنی تربیت میں لینے کے لیے دربار سے وابستہ ہو رہے ہیں۔“ والدہ سلطان نے بلند آواز میں پوچھا۔

”آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میری عاجزانہ رائے یہ ہے کہ آپ جس نیک مقصد کے لیے میری خدمات لینا چاہتی ہیں، اس کے لیے بہتر ہوگا کہ تین دن شہزادے محترم مغرب کی نماز میرے ساتھ درگاہ پہ ادا کرنے کے بعد کچھ وقت وہاں میرے ساتھ گزاریں، لیکن وہاں کسی کو بھی شہزادے کی اصلیت کا پتا نہیں چلنا چاہیے۔ وہ بالکل ایک عام عقیدت مند کی طرح وہاں وقت گزاریں گے اور ہفتے میں دو دن، میں دربار میں حاضر رہوں گا۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ آپ نے مجھے شہزادے کی تربیت کے قابل سمجھا۔ یقیناً ہمارا ملک دنیا کا بہترین ملک کہلانے کا مستحق ہے۔ ہمارے بادشاہ صرف نام ہی کے فاروق نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقی معنوں میں اس ورثے کے مالک ہیں جو عدلی فاروقی کہلاتا ہے۔ جہاں ایک عام آدمی بھی خلیفہ کا دامن پکڑ کر سوال پوچھ سکتا تھا۔“

درگاہ پہ آنے والوں نے دیکھا کہ بابا چینا کے قریب ہی ایک خوش شکل نوجوان

آنے جانے والوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ بابا چینا کے معمولات اب بدل گئے تھے۔ وہ مغرب کی نماز کے ایک گھنٹے بعد وہاں سے اٹھ جاتا تھا۔ نوجوان بھی اس کے ساتھ ہی چلا جاتا تھا۔ عشا کی نماز سے پہلے وہ دوبارہ اپنی جگہ آن کر بیٹھ جاتا تھا۔ ہفتے کے ان دو دنوں میں جب وہ صبح صبح دربار میں موجود ہوتا تو یہ بات خاص طور سے محسوس کرتا تھا کہ دو تین وزیروں کو جیسے اس کی موجودگی گوارا نہ ہو۔ اس میں ایک وزیر خزانہ تھا اور دوسرا بیت المال کا وزیر اور تیسرا وزیر اعظم یعنی بادشاہ کا معتمد خاص۔ ان تینوں کے مشوروں کو بادشاہ بہت اہمیت دیتا تھا۔ وزیر اعظم ابراہیم علی خان کی دو بیٹیاں اور دو بیٹے تھے۔ وزیر خزانہ سلطنت کے وزیر اعظم کا سالہا تھا اور بیت المال کا وزیر عباس حیدر بادشاہ کا ہم کتب اور دوست تھا۔ ان تین وزیروں کو ملکہ بادشاہ اور بادشاہ کی والدہ، تینوں اہم شخصیات کا اعتماد حاصل تھا۔ شاید اسی خصوصی اہمیت کے پیش نظر ان کو بابا چینا کا دربار میں توجہ حاصل کرنا کھٹکتا تھا۔

اسی طرح تقریباً ایک مہینا گزر گیا۔ جب مہینے کے اختتام پر شاہی خزانے سے ایک معقول رقم بابا چینا کو بطور معاوضہ دی گئی تو اس نے بغیر گنے رکھ لی۔ شام کو مغرب کے بعد شہزادے دانیال سے اس رقم کو تین برابر حصوں میں تقسیم کروا لیا۔ ایک حصہ خود اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیا اور بقیہ دو حصوں کو شہزادے سے کہا کہ وہ اس ماہانہ وظیفے کے لیے خود دو گھر تلاش کرے۔ شہزادے نے کہا کہ وہ ایسے گھر کیسے تلاش کر سکتا ہے، کیوں کہ اس نے آج تک کوئی غریب دیکھا ہی نہیں۔

بابا چینا نے کہا: ”تمہارے بابا تم میں وہ خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہمارے خلفائے راشدین میں تھیں۔ حضرت عمر فاروقؓ کا قول ہے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی گٹھا بھی پیاسا ہے تو اس کی ذمے داری خلیفہ وقت پر ہے۔ تم عام لوگوں کی زندگی کا مطالعہ

چوں کہ اس شہر میں اجنبی ہوں اور مسافر بھی، کیا تم چند منٹ کے لیے مجھے اپنی والدہ محترمہ اور بہن بھائیوں سے ملوا سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ وہ اپنی ماں سے اجازت لے کر مجھے اندر بلائے گی۔ تھوڑی دیر میں وہ مجھے اندر لے گئی۔ ایک ٹوٹی ہوئی چار پائی پر ایک ادھیڑ عمر کی خوش شکل عورت لیٹی تھی۔ پاس ہی ایک تخت پر اس کے تین بھائی بہن بیٹھے تھے۔ میں نے جا کر اس عورت کو سلام کیا۔ کھنکھول میں سے وہ تمام کھانے پینے کی چیزیں نکال کر اس لڑکی کو دیں اور کہا کہ تم نے مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اس لیے میرا بھی فرض ہے کہ آج جو کچھ ملا ہے، وہ ہم مل بانٹ کر کھائیں۔ منع مت کیجیے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس لڑکی کی والدہ کی طرف دیکھا تو انھوں نے بچی کو ہاتھ سے رضامندی کا اشارہ دیا۔ لڑکی نے جو کچھ بھی تھا پلیٹوں میں نکالا اور سب نے خدا کا شکر ادا کر کے کھایا۔ اور وہ رقم جو لوگوں نے مجھے فقیر سمجھ کے دی تھی وہ اصرار کر کے میں نے اس کی والدہ کو یہ کہہ کر دی کہ جب ان کی بیٹی کی تنخواہ مل جائے تو واپس لے لوں گا۔

محل واپس پہنچ کر میں نے دو قابل اعتماد خادموں کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ اس گھرانے خصوصاً اس لڑکی کے متعلق تمام حالات کا پتہ لگائیں، کیوں کہ کہیں سے بھی وہ جاہل نہ لگتی تھی۔ اس کی ماں کالب دلچہ بھی خاندانی عورتوں والا تھا۔ دونوں خادموں نے صرف ایک دن میں ہی معلومات اکٹھی کر لیں کہ اس لڑکی کا نام ماہ رخ ہے اور یہ ہمارے ایک سپاہی رحیم الدین کی بیٹی ہے، جس نے ایک جنگ کے دوران شہادت پائی تھی۔ سپاہی کے مرنے کے بعد ایک سال تک تو بیت المال سے ایک معقول رقم گھر والوں کو ملتی رہی۔ لڑکی اور اس کے بہن بھائی مکتب اور مدرسے میں پڑھتے بھی رہے، لیکن ایک سال بعد چانک یہ وظیفہ بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ایسا بادشاہ سلامت کے حکم پر ہوا ہے۔ تب سپاہی رحیم الدین کی بیوی جو ایک سپہ سالار کی بیٹی تھی، اس نے مکتب میں بچیوں کو فارسی اور عربی پڑھانے

WWW.PAKSOCIETY.COM

کے ساتھ ساتھ گھر پر دست کاری سکھانا بھی شروع کر دی، لیکن اچانک گھٹیا کے ذرے نے اسے بستر تک محدود کر دیا، اس لیے ماہ رخ نے بھی تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ بچی چار گھروں میں روزانہ کام کرتی ہے۔ ایک گھر میں کھانا پکاتی ہے، دوسرے میں صفائی کرتی ہے، برتن دھوتی ہے۔ تیسرے میں صرف صفائی کرتی ہے، لیکن چوتھے گھر میں کام کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں لیتی، کیوں کہ وہ دو بوڑھے میاں بیوی ہیں، جن کا بیٹا اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر انھیں چھوڑ گیا ہے اور جب سے گیا ہے، اس نے ماں باپ کی خبر بھی نہیں لی۔ ان دونوں کا گزارہ مرغیوں کے انڈوں پر ہے۔ ماہ رخ ان کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے اور خدمت بھی۔ ان دونوں بزرگوں کے بارے میں خادم نے یہ اطلاع دی کہ بیٹا چاہتا تھا کہ اس کا باپ مکان اس کے نام کر دے۔ باپ نے کہا کہ مرنے کے بعد خود ہی مکان اس کے نام ہو جائے گا، لیکن بہونے بیٹے کو بھڑکایا کہ یہ کام ان سے ابھی کر والو تو میں ساتھ رہوں گی اور نہ نہیں، دیکھیں پھر کون انھیں پکا کر کھلائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بچوں کو لے کر سکے چلی گئی۔ دو دن بعد بیٹا بھی چلا گیا۔ تب سے محلے والے دونوں میاں بیوی کا خیال رکھنے لگے، لیکن زیادہ دن نہیں۔ پھر ماہ رخ کی ماں نے ساتھ دیا اور اب یہی خاندان ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا ہے۔

”ان میاں بیوی کی گزر اوقات کیوں کر ہوتی ہے؟“ بابا چینا نے سوال کیا:

”صرف مرغیوں کے انڈوں کی فروخت سے تو پورا مہینا نہیں چل سکتا۔“

”بابا! یہ تو ابھی پتا نہیں چلا، لیکن دوسرا خاندان میں نے انھی کو منتخب کیا ہے۔ نام ہے

ان کا پنڈت سکھ دیو۔ اس سے زیادہ معلومات فی الحال نہیں ہیں۔“ شہزادے نے جواب دیا۔

”شہزادے تم نے جی خوش کر دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر سپاہی کو اس کی خدمات

کے بدلے ملازمت کے بعد بھی معقول وظیفہ ملتا ہے۔ اگر سپاہی نے دوران جنگ اپنی جان

خاص نمبر ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ عیسوی ۱۸۹

کاندرا نہ وطن کے لیے دیا ہو تو اس کے خاندان کو تا حیات وظیفہ ملتا ہے اور بچوں کے جوان ہوتے پر انھیں دربار میں نوکری بھی ملتی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی ہے کہ سپاہی رحیم الدین کے خاندان کو صرف ایک سال بیت المال سے ایک مخصوص رقم دی گئی اور بس۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا پتا آپ کو چلانا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ کام وزیر خزانہ اور وزیر بیت المال سے خفیہ رکھ کر کیا جائے، تاکہ آپ کو مشکلات پیش نہ آئیں۔

شہزادے نے اسی رات بادشاہ سلامت سے اکیلے میں ملاقات کر کے تمام صورت حال انھیں بتائی۔ اگلے دن دربار میں بادشاہ نے حکم دیا کہ بیت المال کے اس حساب کا کھاتہ دکھایا جائے، جس میں مستحقین کے نام درج ہیں۔ ساتھ ہی ان سپاہیوں کی تفصیلات بھی طلب کیں، جو اب زندہ نہیں تھے۔ خادموں نے فوری طور پر وہ کھاتے حاضر کر دیے۔ بادشاہ نے ان سپاہیوں کے بارے میں جاننا چاہا، جن کو باقاعدگی سے وظیفہ ہر مہینے بھیجا جا رہا تھا۔ فہرست پڑھتے پڑھتے جب سپاہی رحیم الدین کا نام آیا تو دونوں باپ بیٹوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور بھی کھاتے اپنی تحویل میں لے لیے۔ دربار ختم ہونے کے بعد شہزادے دانیال نے باپ کی توجہ اس بات پر دلائی کہ ایک مخصوص اور معقول رقم جو سپاہی رحیم الدین کی اصل تنخواہ سے کچھ زیادہ تھی، پابندی سے ان کے گھرانے کو جارہی تھی۔ ساتھ ہی رمضان اور عیدین پر بھی دوسرے شہدا اور معذور سپاہیوں کے گھروں کو دی جا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے خفیہ کارندوں کے ذریعے رحیم الدین کی بیوہ اور بیٹی کے علاوہ ان تمام سپاہیوں اور ان کے لواحقین کو دو دن بعد دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا، جنہیں شاہی خزانے اور بیت المال سے کھاتے کے مطابق تنخواہیں اور وظیفے دیے جاتے تھے، لیکن اس تمام کارروائی کو وزیروں اور وزیراعظم سے پوشیدہ رکھا گیا۔

دو دن بعد جب تمام وزیروں نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہوئے۔ خاص طور پر وہ،

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد نوبتہال جون ۲۰۱۳ء عیسوی	۱۹۰
----------	--	-----

جو ان محکموں کے کرنا دھرتا تھے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق باری باری ان ناموں کو پکارا جانے لگا جن کا اندراج ہر ماہ وظیفہ لینے والوں کے کھاتوں میں تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں کے نام پکارے جائیں، وہ سامنے آئیں۔ پہلے ان بیواؤں کے نام پکارے گئے، جن کے مرحوم شوہروں اور بیٹوں نے دوران جنگ وفات پائی تھی۔ ایسے خاندانوں کی تعداد ساٹھ تھی۔ ان میں ماہ رخ کا خاندان بھی شامل تھا، لیکن یہ جان کر سلطان محمد فاروق کو سخت صدمہ ہوا کہ سوائے چند خاندانوں کے کسی کو بھی ایک سال سے زیادہ وظیفہ نہیں ملا تھا اور یہ وہ خاندان تھے، جن کے بچے چھوٹے تھے یا جن کے گھر کوئی جوان بیٹا نہیں تھا، جب کہ ہر مہینے رقم کی وصولی کے لیے انگوٹھے کا نشان لگا تھا۔ شہزادہ دانیال نے سب سے پہلے ماہ رخ کی والدہ کو بلایا اور حقیقت جاننا چاہی تو انھوں نے بغیر کسی خوف کے وہی سب کچھ بیان کر دیا، جو مخبروں نے بتایا تھا۔ بقیہ خاندانوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ چند مہینے کے بعد وظیفہ بند کر دیا گیا تھا اور ہر ماہ وصول ہونے والی رقم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ بادشاہ نے ان سب سے حلفیہ بیان لے کر ان خاندانوں کی پچھلی تمام رقوم فوری طور پر ادا کرنے کا حکم دیا اور آئندہ سے ان کے وظائف میں اضافہ کیا گیا۔ ساتھ ہی تمام زندہ، لیکن معذور سپاہیوں کی مراعات میں بھی اضافہ کیا گیا اور فوری طور پر وزیر شاہی خزانہ اور وزیر بیت المال کو ان کے عہدوں سے برطرف کر کے انھیں ان کے گھروں میں نظر بند کر کے تاحکم ثانی کسی سے بھی ملاقات کرنے سے روک دیا گیا۔ وقتی طور پر دونوں محکموں کا نگران بابا چینا اور شہزادہ دانیال کو مقرر کر دیا گیا۔

تختیہ طور پر جو انتہائی اہم معلومات بادشاہ نے اپنے ایک معتمد خاص کے ذریعے سے حاصل کیں ان سے پتا چلا کہ قیموں اور بیواؤں میں سے اکثریت کا وظیفہ بظاہر تو انھیں دیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں یہ رقم وزیر خزانہ اور وزیر بیت المال کے قریبی دوستوں اور

رشتے داروں کو دی جاتی ہے، جس میں سے ایک مخصوص حصہ ہر مہینے خود ان دونوں وزیروں کے گھر جاتا ہے۔ پھر شہزادہ دانیال نے باباچینا کی مدد سے خفیہ طور پر تمام کہانی معلوم کر لی۔ اب فیصلے کا وقت تھا۔ بادشاہ سلامت نے باباچینا اور ان عالموں سے جو کسی نہ کسی علم کو سکھانے میں شہزادے کی مدد کر رہے تھے، مشورہ مانگا تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ سب سے پہلے ایمان دار لوگوں کا تعین کیا جائے اور رعایا کو جعل ساز وزیروں کی اصلیت بھی بتائی جائے۔ باباچینا نے یہ بھی مشورہ دیا کہ محل کے چاروں دروازوں پر فریاد کے لیے ایک زنجیر عدل لگائی جائے۔ رعایا میں سے کسی کے ساتھ اگر کوئی نا انصافی یا زیادتی ہو تو وہ بلا کھٹکے اس زنجیر کو کسی وقت بھی ہلا کر بادشاہ کے حضور حاضر ہو سکتا ہے۔

بادشاہ نے دو دن بعد دربار طلب کیا اور ان تمام لوگوں کی موجودگی میں بے ایمان وزیروں کو ان کے عہدوں سے برطرف کیا۔ ان کے لیے سخت سزائیں تجویز کیں اور ان سے اس بے ایمانی کی وجہ جاننا چاہی۔ دونوں وزیروں نے ہاتھ جوڑ کر پہلے بادشاہ سلامت سے جان کی امان مانگی اور پھر بتایا کہ ایسا کرنے کے لیے انھیں وزیراعظم ابراہیم علی خاں نے اُکسایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو اپنے عہدوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ نیز دونوں وزیروں نے اس سازش کا بھی انکشاف کیا کہ وزیراعظم شہزادہ دانیال کو موت کے گھاٹ اتار کر خود بادشاہ بننا چاہتے تھے۔ کام یابی کے بعد انھوں نے ایک وزیر کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی اور دوسرے کی بیٹی سے اپنے فرزند کی شادی بھی طے کر رکھی تھی، کیوں کہ سب آپس میں قریبی عزیز بھی ہیں۔ اس منصوبے پر باباچینا کی وجہ سے ابھی تک عمل نہ ہو سکا، کیوں کہ وہ ہر دم شہزادے پر نظر رکھتے ہیں۔

اب معاملہ بالکل صاف تھا۔ وزیراعظم نے بہت کوشش کی کہ وہ ان باتوں کو جھٹلا سکے، لیکن دونوں وزیروں نے اپنے اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ قسم کھائی تو

پھر بادشاہ کو فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگی۔ بادشاہ نے وزیر اعظم کو کال کوٹھری میں ڈلوادیا، تاکہ وہ کسی اور سازش کے تانے بانے نہ بن سکے۔

چند دن بادشاہ سلامت نے اپنی والدہ محترمہ، بابا چینا، شہزادے اور اس کے اساتذہ سے مشورے کیے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ امور مملکت چلانے کے لیے قابل بھروسہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اپنے میدان میں ماہر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ رشتہ داریوں کی۔ ضروری نہیں کہ وزیر کا بیٹا بھی وزیر بنے۔ ہر قابل شخص کو حکومت میں شامل ہونے کا حق ہے۔ محض قابلیت، تدبیر اور ہنرمندی کے بل بوتے پر موچی، لوہار، قسانی یا سبزی فروش کا بیٹا، بیٹی اعلیٰ عہدے پاسکتے ہیں۔ کوئی بھی پیدائشی طور پر نہ ٹنڈرا ہوتا ہے، نہ دھوبلی، نہ بادشاہ، نہ وزیر۔ اچھی حکومت چلانے اور رعایا کے دل میں جگہ بنانے کے لیے محنتی اور ایمان دار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بادشاہ کا کام اس جوہری کا سا ہے جو ہیرے اور کنکر پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بزرگ کہہ گئے ہیں کہ 'آدی آدی انتر، کوئی ہیرا کوئی کنکر۔ والدہ سلطان نے بھی اس بات کی تائید کی۔ بادشاہ نے تمام عاملوں اور بابا چینا کو مکمل اختیارات دے کر ایک ماہ میں ایسے قابل نوجوانوں اور ادیبوں کو لوگوں کے ساتھ ساتھ ایسی خواتین کو سامنے لانے کو بھی کہا جو روزگار کی تلاش میں ہوں اور طے پایا کہ ان خواتین کا فیصلہ ملکہ سلطان جہاں اور بادشاہ سلامت کی والدہ خود کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی پورے ملک میں اعلان کروادیا گیا کہ تمام اہل علم اور ہنرمند اپنی تفصیلات محل میں جمع کروا سکتے ہیں۔ اسی عرصے میں شہزادے کو پنڈت سکھ دیو کے بارے میں بھی آگاہی ہوئی کہ وہ عربی، فارسی اور سنسکرت کے عالم ہیں۔ پہلے ایک کتب میں تعلیم دیتے تھے، جہاں سے وزیر اعظم نے ان کی نوکری ختم کروا کر سفارش کی بنیاد پر ایک ایسے شخص کو لگا دیا تھا، جو صرف قرآن ناظرہ کی تعلیم دے سکتا تھا، باقی صفر تھا۔ ساتھ ہی ایسے بھی انکشافات ہوئے کہ

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ عیسوی ۱۹۳

خاص نمبر

وزیر اعظم اور اس کے دونوں بے ایمان وزیروں نے، راجپوتوں اور سکھوں کو ہٹا کر وہاں اپنے آدمی مقرر کر دیے تھے۔ وجہ یہ بتائی تھی کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا تو کمری چھوڑ دو۔ یہ بڑا بھیا تک انکشاف تھا، اس بادشاہ کے لیے جو تمام رعیت کو ایک نظر سے دیکھتا تھا۔ ہر انسان خواہ اس کا مذہب کوئی بھی ہو، وہ اس مملکت کا شہری تھا اور ہر معاملے میں برابر کا حق دار تھا۔

اب تمام صورت حال کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ پندرہ بیس دن کے بعد تمام علما اور اہل دانش نے آنے والی تمام درخواستوں کی جانچ پڑتال کی۔ لائق لوگوں کو دربار میں طلب کیا گیا۔ انہیں ان کے متعلقہ محکموں میں تعینات کیا گیا اور ساتھ ساتھ اختیار بھی کیا گیا کہ اگر رعایا کی جانب سے کوئی شکایت موصول ہوئی اور تحقیقات کے بعد الزام درست ثابت ہوا تو فوراً برطرف کر دیا جائے گا۔ بابا چینا نے بادشاہ سلامت کی مرضی سے پنڈت سکھ دیو کو ان کے منصب پر بحال کروایا اور جہاں جہاں وزیر اعظم نے غیر مسلموں کو ہٹا کر سفارشی بنیادوں پر مسلمان رکھ لیے تھے، ان کو برطرف کیا اور پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ زمین اللہ کی، ملک بادشاہ کا۔ یہاں کی رعایا خواہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہو، بادشاہ کے لیے اس کی اولاد کی طرح ہے۔ تمام لوگوں نے اپنے بادشاہ کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگیں اور زنجیر عدل کا خیر مقدم کیا۔

شہزادہ دانیال نے ماہ رخ اور اس کے بھائی بہنوں کی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ جاری کروایا۔ ماہ رخ کی والدہ کو ملک سلطان جہاں نے دست کاری کے اسکول کا نگران مقرر کر دیا۔ پنڈت سکھ دیو ہر لمحہ ماہ رخ کو دعائیں دیتے تھے کہ سگی اولاد چھوڑ گئی اور اجنبی بچی نے ساتھ دیا۔ ماہ رخ منطق اور فلسفے کی تعلیم حاصل کر رہی تھی اور شاعری سے بھی اسے لگاؤ تھا۔ وہ حافظ شیرازی کا فارسی کلام اور شیخ سعدی کی گلستان اور بوستان بہت شوق سے پڑھتی تھی۔

جب تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے تو ایک دن بابا چینا نے شہزادے

خاص نمبر

۱۹۳

ماہ نامہ ہمدرد توں نہال جون ۲۰۱۴ عیسوی



www.PAKSOCIETY.COM

سے پوچھا کہ اس کے دل کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ شہزادے نے جواب دیا: ”وہ ایک انصاف کرنے والا بادشاہ بننا چاہتا ہے اور ہر قیمت پر رعایا کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔“

بابا چینا نے کہا: ”ایسا تو تجھی ممکن ہے جب تم بادشاہ بن جاؤ اور جب تک سلطان محمد فاروق حیات میں تو اس بات کا کوئی امکان نہیں۔ ویسے بھی ماشاء اللہ وہ ابھی بوڑھے نہیں ہوئے اور صحت بھی ان کی بہت اچھی ہے۔“

شہزادے نے چونک کر بابا چینا کی طرف دیکھا اور بولا: ”کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کی بات سن کر۔“

”میرا مطلب ہے کہ کیا تمہارے دل میں اپنے والد محترم کو معزول کر کے یا قتل کر کے بادشاہ بننے کی خواہش تو نہیں پیدا ہو گئی؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بے خوف ہو کر بتاؤ۔ میں اس معاملے میں تمہاری پوری مدد کروں گا، کیوں کہ تم مجھے بہت عزیز ہو۔“

شہزادہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھا اور درگاہ سے باہر جانے لگا۔ بابا چینا نے اسے دوڑ کر پکڑ لیا اور سینے سے لگا لیا۔ شہزادے نے رو کر کہا: ”خدا میرے بابا جان اور اماں جان کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے۔ بابا چینا! آپ نے ایسی بری بات میرے متعلق سوچی بھی کیسے؟ میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ان کی زندگی صحت اور تن درستی کی دعا ہمیشہ کرتا رہوں گا۔“

”بیٹا! میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا اور بس۔ خدا کا شکر ہے کہ تم اپنے امتحان میں سرخرو ہوئے۔ خدا تمہارے جیسی اولاد سب کو دے۔ آمین۔“

”مگر آپ یہ امتحان کیوں لے رہے تھے۔ کیا کوئی بیٹا کبھی اپنے باپ کا دشمن ہو سکتا ہے۔ آج آپ مجھے سچ سچ بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں اور کسی کو بھی اپنے وطن یا خاندان کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ نے ایک دفعہ وعدہ بھی کیا

تھا کہ وقت آنے پر آپ سب کچھ بتادیں گے۔ آج میں حقیقت جان کر دم لوں گا، ورنہ پھر کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔“ شہزادے نے بابا چینا کے گھٹنے پکڑتے ہوئے کہا۔

بابا چینا نے نظریں اوپر اٹھائیں تو وہ سرخ ہو رہی تھیں۔ ٹپ ٹپ ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے: ”بتاتا ہوں، بتاتا ہوں شہزادے! بتاتا ہوں۔ آج میں جس فقیرانہ حال میں تمہارے سامنے ہوں، اس کی وجہ میرا اکلوتا بیٹا، میری بہن اور اس کی بیٹی ہے، جو اب میری بہو بھی ہے۔ میں ایک ملک کا بادشاہ ہوں۔ جب میرا بیٹا جوان ہوا تو میں نے اپنی سگی بھانجی کو اپنے بیٹے کی دلہن چن لیا۔ میری بیوی بھی خوش تھی۔ شادی نہایت دھوم دھام سے ہوئی، لیکن شادی کے صرف تین ماہ بعد ایک رات کچھ غدار وزیر میری خواب گاہ میں گھس آئے۔ ان کے ساتھ میری سگی بہن، میرا بیٹا اور بہو بھی تھے۔ سلطنت کا وزیر اعظم اس سازش میں شریک تھا۔ انھوں نے تلوار سونت کر میرے سامنے ایک حکم نامہ رکھا اور کہا کہ میں ولی عہد کے حق میں دستبردار ہو جاؤں، ورنہ دونوں میاں بیوی کو مار دیا جائے گا۔ میری بیوی غش کھا کر بستر پر گر پڑی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ کل کا انتہار کریں۔ اس طرح معاملات بگڑ سکتے ہیں اور میرے بیٹے کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لہذا کل دربار عام میں اس بات کا اعلان میں خود کروں گا اور اپنے ہاتھوں سے تاج شاہی اپنے فرزند کے سر پر رکھوں گا۔ میرا بیٹا بولا: اگر آپ مکر گئے اور ایسا نہ کیا تو؟

میری بہن نے آگے بڑھ کر کہا: ”ٹھیک ہے، جب تک تم تخت سے دست بردار نہیں ہو جاتے، اس وقت تک تمہاری بیوی ہماری قید میں رہے گی۔“ یہ کہہ کر اس نے غلاموں کو اشارہ کیا۔ وہ ملک یعنی میرے بیٹے کی ماں کو اس کے سامنے پکڑ کر لے گئے، لیکن میرا بیٹا اپنی دلہن کی طرف دیکھتا رہا۔

اگلے دن دربار منعقد ہوا تو میری بہن بھی وہاں موجود تھی، لیکن ملکہ، یعنی میری

بیوی نہیں تھی۔ میری اجازت سے وزیر اعظم نے شہزادے کی ولی عہدی کے ساتھ ساتھ تمام شاہی اختیارات اس کو فوری طور پر منتقل کرنے کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے تمام اہل دربار اور رعایا سے اپیل کی کہ وہ ہمیشہ میرے بیٹے کا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے خلعت فاخرہ اپنے بیٹے کے کاندھوں پر ڈالی اور تاج سلطانی اپنے سر سے اتار کر اپنے جگر گوشے کے سر پر پہنایا۔ اس کی درازی عمر کی خود بھی دعا کی اور درباریوں نے بھی میری تائید کی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تب نجانے کیوں قاضی صاحب بول اٹھے کہ ابھی شہزادے کو امور مملکت سیکھنے کے لیے آپ کی سرپرستی کی ضرورت تھی۔ آپ کو اتنی عجلت میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جنگی امور کے نگران اور فوج کے بہادر سپہ سالاروں نے بھی قاضی صاحب کی بات کی تائید کی۔ اکثریت اس فیصلے پر حیران تھی کہ ایک ہی دن میں دنیا کیسے بدل گئی۔ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہر معاملے میں دانش مند وزیروں اور عمائدین سلطنت کے مشورے سے فیصلے کیے جاتے تھے، لیکن میں نے یہ کہہ کر سب کو مطمئن کر دیا کہ ہر باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے تین روزہ جشن کا اعلان کیا اور یہ آخری فرمان بھی جاری کیا کہ تین دن تک رعایا کو مفت کھانا ملے گا۔ ملک کے تمام مذبح خانوں، سرائے کے مالکوں اور پکوان بنانے والوں کو حکم دیا کہ وہ تین دن تک کسی کو بھی کھانا دینے سے منع نہ کریں۔ جو کچھ بھی اخراجات آئیں گے، اسے میری بہن جو میری سمدھن بھی ہے پورا کرنے کی پابند ہوگی۔ دل کھول کر خوشیاں مناؤ اور غریبوں کو خیرات بانٹنے میں کنجوسی نہ دکھانا۔ خدا کرے میرا بیٹا ایک انصاف پسند اور صاحب عدل بادشاہ ثابت ہو۔ آمین۔

اتنا کہہ کر میں نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا تو مجھے وہ بالکل اجنبی لگا، جیسے وہ مجھ

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد توں ہمال جون ۲۰۱۳ عیسوی	۱۹۷
----------	--	-----

سے واقف ہی نہ ہو۔ جب میں دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھا تو میری بہن نے اعلان کروایا کہ اس کی خواہش ہے کہ بادشاہ اور ملکہ جلد ہی حج کی سعادت حاصل کرنے چلے جائیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا کہ یہ کون ہوتی ہے ہمارے معمولات طے کرنے والی؟ لیکن وہاں اجنبیت کے سوا کچھ نہ تھا۔

اسی رات جب ملکہ کو دوبارہ خواب گاہ میں لایا گیا تو وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ روتے روتے اس کی آنکھیں سوچ گئی تھیں، لیکن اس نے ایک بار بھی اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ جو قیامت اس پر سے گزر گئی تھی، اس کی پرچھائیاں پورے وجود سے ظاہر تھیں۔ ہم دونوں نے آپس میں بھی کوئی بات نہیں کی۔ مجھے یاد آیا کہ بہن کے بیوہ ہو جانے کے بعد میری بیوی نے اس کا پورا خیال رکھا تھا۔ اس کے چاروں بچوں کی تعلیم و تربیت شہزادے کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ مجھے چند رفیقوں نے بھانجی کو بہو بنانے سے بھی منع کیا تھا، لیکن ہم دونوں میاں بیوی نے کسی کی نہ سنی، کیوں کہ وہ میری چھوٹی بہن تھی، جو دو سال کی عمر میں والدین کے سائے سے محروم ہو گئی تھی۔ اسے ہم نے ماں اور باپ کا پیار دیا..... اور اس نے.....؟ بابا چینارونے لگے۔

”شاید اسی لیے آپ نے میری تربیت حضرت علی کے اس قول سے کی تھی کہ جس پر احسان کرو، اس کے شر سے بچو۔“ شہزادہ دانیال نے کہا۔

ہاں یہی حقیقت ہے..... پھر ہوا یوں کہ رات کے پچھلے پہر دروازے پر مخصوص دستک ہوئی، جسے میں بخوبی پہچانتا تھا۔ میں نے اٹھ کر آہستہ سے دروازہ کھولا تو چار جانثار اور وفادار دوست کھڑے تھے۔

”کیا ہوا؟“ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ انھوں نے ہونٹوں پر اُننگی رکھ کر مجھے خاموش کیا اور جلدی سے اندر آ کر کہا کہ ملکہ اور میں فوراً ان کے ساتھ چلیں کیوں کہ ہماری جانوں کو

خطرہ ہے۔ ہم دونوں سر جھکائے ان کے ساتھ باہر نکلے۔ چور راستوں اور سرنگ سے ہوتے ہوئے دیرانے میں نکلے تو وہاں ایک ایک کھڑا تھا، جس کے چاروں طرف پردے بندھے تھے۔ انہوں نے ہمیں اندر بٹھایا، زرد جوہر کی تھیلیاں ہمارے سپرد کیں اور بتایا کہ آپ کی بہن اور وزیر نے آپ دونوں کے قتل کا حکم دے دیا ہے۔ سچ کی کہانی بھی اسی لیے بنائی گئی ہے، تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو کہ آپ لوگ اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ پھر ان جاٹاروں نے تمہ بانوں سے کہا کہ وہ بادشاہ اور ملکہ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچادیں اور واپس آ کر خبر دیں۔ بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، اتنا کہا اور روتے ہوئے ہمارے ہاتھ چوم کر رخصت کیا تو ملکہ نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کے بیٹے کو اس کا علم ہے تو وزیر نے ایک بھیا تک انکشاف کیا کہ شہزادہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ اس پر اس کی ساس اور بیوی نے جادو کروایا ہے۔ جادوگر یعقوب مصر کا مانا ہوا ساحر ہے۔ مختلف عملیات اور جادو کے ذریعے اس کو اپنے تابع کر لیا ہے، اس لیے وہ تصور وار نہیں ہے۔ آپ لوگ شہزادے کے لیے دعا کریں، وہ بالکل معصوم ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے تمہ بانوں کو نیتہ چلانے کا حکم دیا۔ ہم دونوں کا تب تقدیر کے آگے بے بس تھے۔ قسمت کا لکھا کون مٹا سکتا ہے۔ انسان اپنی تقدیر نہ لکھ سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے۔ بس تماشائی کی طرح سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔

رات بھر چلنے کے بعد جب صبح کی روشنی پھیلنے لگی تو تمہ بانوں نے یکے رو کا اور ہمیں اترنے کو کہا، تاکہ کچھ کھاپی لیں۔ قریب ہی ایک سرائے نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ہمیں مسافروں کی طرح سرائے میں ٹھیرایا اور سامان جو نہ ہونے کے برابر تھا، لینے چلے گئے۔ جب بہت دیر تک وہ زرد جوہر کی تھیلیاں لے کر واپس نہ آئے تو میں نے باہر نکل کر دیکھا..... وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ مال لے کر فرار ہو گئے تھے۔ خدا جانے کس جرم کی سزا پائی تھی یا نہیں..... جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو چند اشرفیاں تھیں جو وفادار وزیر نے چپکے سے ڈالی

تھیں۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ دیکھو تقدیر کیا دکھاتی ہے۔ اندر جا کر جب ملکہ کو ایک اور تنگ حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا تو وہ تمام غموں سے نجات پا چکی تھی۔ سرانے کی چار پائی پر خاموشی سے سو رہی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ وہ غموں سے نجات پا گئی۔ اسے دفنانے کے بعد میں نے اس درگاہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ پھر کسی رحم دل نے مجھے اپنے گھر میں ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دیا۔ اس کے بدلے میں مجھے کوئی کرایہ نہیں دینا پڑتا، لیکن مجھے یہ بھیک گوارا نہیں تھی، لہذا میں نے اس کے دونوں بچوں کی تعلیم کی ذمے داری لے لی۔ دونوں بچے بڑے ہونہار ہیں۔ پندرہ اور بارہ سال کے ہیں۔ باقی کہانی تمہیں پتا ہے۔ یاد رکھنا اس دنیا میں سب سے زیادہ بے وفا چیز دولت ہے اور سب سے وفادار ساتھی آپ کی تعلیم ہے۔ ہنرمند اور پڑھا لکھا انسان سراٹھا کے جی سکتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ میں نے تم سے کیوں ایسا تکلیف دہ سوال کیا تھا؟ بابا چینا نے شہزادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

”آپ کی بیوی، یعنی ملکہ کی قبر کہاں ہے؟ میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔“

شہزادے نے پوچھا۔ درگاہ کے قریب جو قبرستان ہے، وہاں ایک چنگی قبر کے سر ہانے رات کی رانی کا پودا لگا ہے، جسے میں روز پانی دیتا ہوں۔ اس کے سر ہانے سبز رنگ کا ایک کپڑا بھی لہراتا ہے۔ جب میں مر جاؤں تو وہیں قریب میں دفن کر دینا۔“ بابا نے مسکرا کر شہزادے کو دیکھا اور رو پڑے۔

بابا چینا اب بادشاہ کے خاندان میں شامل تھے۔ والدۃ سلطان، ملکہ اور بادشاہ سب ان کی دکھ بھری کہانی سن کر افسردہ تھے۔ والدۃ سلطان نے بابا چینا سے سوال کیا کہ کیا ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو وہ کہنا چاہتے ہوں۔ تب بابا چینا نے کہا کہ ان کی دلی خواہش ہے کہ شہزادہ وانیال کی شادی ماہ رخ سے ہو۔ وہ ایک نیک لڑکی ہے۔ نیک ماں باپ کی بیٹی ہے۔ ذہین اور پڑھی لکھی ہے۔ بے شک وہ ایک سپاہی کی بیٹی ہے، لیکن

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ عیسوی ۲۰۰

خاص نمبر

سمجھ دار اور وقادار ہے، لیکن اس کے لیے شہزادے کی مرضی جانتا بھی ضروری ہے۔“
بادشاہ سلامت نے شہزادے کی طرف دیکھا تو اس نے سعادت مندی سے
سر جھکا دیا۔ ملکہ سلطان جہاں بیگم اور والدہ سلطان نے بھی خوش دلی سے اس رشتے کی
منظوری دی۔

اب یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ کا اصلی نام کیا ہے، آپ کہاں کے بادشاہ ہیں اور
آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے۔“ سلطان محمد فاروق نے ادب سے ان سے پوچھا۔
میرا اصل نام ظفر سلطان ہے اور میں ملک فارس کا بادشاہ ہوں۔ میرے بیٹے
کا نام بختیار ظفر سلطان ہے۔ خدا اس کی حفاظت کرے۔ بابا چینا نے اچانک روتے
ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔

☆.....

شہزادہ دانیال اپنی دلہن ماہ رخ کے ساتھ بابا چینا کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔
شہزادے کی والدہ، دادی اور بادشاہ سلامت بھی اداس کھڑے تھے۔ والدہ سلطان نے
حکم دیا کہ بابا چینا اور ان کی ملکہ کی قبریں پکی کی جائیں اور انھیں عالی شان مقبرے کی شکل
دی جائے۔ مقبرے کے اندر ان کا شجرہ نسب کندہ کیا جائے۔ ان کی داستان عبرت رقم کی
جائے اور تمام کاموں سے فارغ ہو کر ان کے اکلوتے بیٹے کی خبر لی جائے۔ اگر وہ مصیبت
میں ہے اور ظالموں کے چنگل میں پھنسا ہے تو اس کی مدد کی جائے۔

چند ماہ میں مقبرہ تیار ہو گیا۔ جس کے داخلی دروازے پہ جلی حروف میں لکھا تھا:

”جس پر احسان کرو، اس کے شر سے بچو“

پھر بھی احسان کرتے رہو کہ یہی انسانیت کی معراج ہے۔

☆☆☆

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ عیسوی	۲۰۱
----------	--------------------------------------	-----

وہ میرا بیٹا نہیں ہے

شمینہ پروین

رٹائرڈ جج مرزا راحت بیگ رات کو کسی بات پر غور کرتے ہوئے اپنی حویلی میں ٹہل رہے تھے۔ وہ اپنے نوکروں کے ساتھ اکیلے ہی رہتے تھے۔ ان کی بیگم کا انتقال ہو چکا تھا اور پچھلے دنوں ان کے جوان بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے قریبی رشتے داروں میں سے اب کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ انھیں اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، اس لیے انھوں نے اپنے بیٹے کی قبر حویلی کے ایک گوشے میں ہی بنالی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے اچانک ان کی نظر اپنے بیٹے کی قبر پر پڑی۔ انھیں محسوس ہوا جیسے قبر کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے۔

”کون ہے وہاں؟“ انھوں نے زور سے پکارا۔

قبر کے پاس بیٹھا ہوا سایہ ہڑبڑا کر اٹھا اور باڑھ پھلانگ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ آواز سن کر چوکیدار آیا تو انھوں نے پوچھا: ”کون آیا تھا یہاں؟“

”کوئی نہیں صاحب! میں تو گیٹ پر تھا۔“ چوکیدار نے صفائی پیش کی۔

مرزا صاحب چلتے چلتے بیٹے کی قبر تک پہنچ گئے۔ قبر کے اوپر گلاب کے تازہ پھول رکھے ہوئے تھے۔ کچھ اگر بتیاں تھیں جنھیں جلانے کی مہلت اسے نہیں ملی تھی۔

مرزا صاحب نے چوکیدار سے کہا: ”دیکھو، یہ ابھی کوئی رکھ کر گیا ہے۔“

”ہو سکتا ہے، چھوٹے صاحب کا کوئی دوست ہو۔“ چوکیدار بولا۔

مرزا صاحب نے اس خیال کو مسترد کر دیا: ”دوست کو رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح آنے کی کیا ضرورت تھی..... اور پھر وہ گھبرا کر بھاگا کیوں؟“

چوکیدار نے کہا: ”وہ جو کوئی بھی تھا، یہاں سے آگے حویلی میں داخل نہیں ہو سکتا،

آپ یہ باڑھ اونچی کرادیں تو یہاں بھی کوئی نہیں آ سکتا۔“

مرزا صاحب نے چوکیدار کو ہدایت کی: ”تم اس طرف کی سخت نگرانی کرو اور جو بھی ہو، اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔“

چار مہینے گزر گئے، پھر کوئی اس طرف نہیں آیا۔

ایک دن صبح دس بجے علاقے کے تھانے سے پولیس افسر کا فون آیا۔ اس نے مرزا صاحب سے کہا: ”مرزا صاحب ہم نے کچھ ڈاکوؤں کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ پلیز، دس منٹ کے لیے تشریف لے آئیں۔“

مرزا صاحب تھانے پہنچے اور اس ڈاکو کو دیکھ کر چکرا گئے۔ وہ لڑکا ہو بہو ان کے بیٹے کی شکل اور اسی کی عمر کا تھا۔ اس نے ’پاپا‘ کہہ کر انہیں مخاطب کیا تو وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھنے لگے، لیکن پھر فوراً انہیں یاد آ گیا کہ ان کے بیٹے کا تو انتقال ہو چکا ہے۔

پولیس افسر نے ان دونوں کو آمنے سامنے کرسی پر بٹھایا اور مرزا صاحب سے کہا: ”آپ دونوں تسلی سے بات کر لیں، ممکن ہے کوئی غلطی ہو۔“

”پاپا! میں آپ کا شیراز ہوں۔ آپ اتنی جلدی کیسے بھول گئے مجھے یہاں سے گھر لے چلیے۔“ لڑکے نے امید بھرے لہجے میں کہا۔

”تو تم میرے بیٹے کا نام بھی جانتے ہو، پھر تو یہ بھی جانتے ہو گے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو چند مہینے پہلے مر چکا ہے۔ میں نے خود اسے قبر میں اتارا تھا۔ تم اس کے ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھا کر میری جائداد حاصل کرنا چاہتے ہو۔“ مرزا صاحب نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔

”پاپا! مجھے گھر کے قریب سے ان ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا تھا۔ وہ مجھے سردار کے پاس لے گئے، جسے سب استاد کہتے تھے۔ مجھے یاد ہے سردار مجھے دیکھ کر چونکا تھا، پھر اس نے زبردستی اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔ میری کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔“

خاص نمبر | ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ء | ۲۰۳

مرزا صاحب کسی طرح اس کی بات ماننے پر تیار نہیں تھے: "میں تمہاری اس کہانی پر کیسے یقین کر لوں؟ جسے تم استاد کہتے ہو، ممکن ہے اس نے میرے بیٹے کو کہیں دیکھ لیا ہو اور اسی وقت اس نے سوچا ہو کہ اس شکل کا ایک لڑکا میرے گردہ میں شامل ہے، اس لیے میرے اصل بیٹے کو اغوا کر کے اس کی جگہ تمہیں میرا بیٹا بنا دیا جائے، لیکن میرا بیٹا بیمار ہو کر مر گیا تو اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اب اس نے یہ چال چلی ہے۔"

لڑکا تقریباً روتے ہوئے بولا: "پاپا! مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا، جسے آپ اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، آپ کا بیٹا تو میں ہوں۔"

"اچھا، یہ بتاؤ تم پڑھے لکھے ہو؟ مرزا صاحب نے اسے آزمانے کا فیصلہ کیا۔"

"پاپا! آپ ہی تو مجھے بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے۔ آپ نے مجھ پر چھوڑ دیا تھا کہ میں جس شعبے میں جانا چاہوں، جاسکتا ہوں اور پھر جب امتحان میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوا تھا تو آپ نے مجھے میری پسند کا کمپیوٹر خرید کر دیا تھا۔"

"یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟" مرزا صاحب کا شک اپنی جگہ برقرار تھا۔

"صرف یہی نہیں، آپ جو کچھ پوچھیں گے میں ٹھیک ٹھیک بتاؤں گا، کیوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔" لڑکے نے اعتماد سے جواب دیا۔

"اچھا، تم میرے بیٹے ہو تو بتاؤ تمہاری ماں کا انتقال کب ہوا تھا؟"

"چار سال پہلے..... اور اس کے ایک سال بعد آپ ملازمت سے رٹائر ہو گئے

تھے۔ اسی سال میں نے کالج میں داخلہ لیا تھا۔"

"تمہاری تاریخ پیدائش کیا ہے؟"

"۲۹ فروری ۱۹۹۲ء۔"

"میرا بیٹا روزانہ پابندی سے ڈائری لکھتا تھا۔ شاید وہ ڈائری بھی تمہارے ہاتھ لگ

گئی، جس سے یہ ساری معلومات تمہیں حاصل ہو گئیں۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، جو مرچکا ہے۔ اب اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ مجھے اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی۔“ مرزا صاحب نے اسے اپنا بیٹا تسلیم نہیں کیا اور فوراً جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔

گھر پہنچ کر وہ بڑی الجھن میں مبتلا ہو گئے۔ کبھی سوچتے کہ وہ میرے بیٹے کا ہم شکل ہے اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں، پھر خیال آتا کہ یہ سازش کے تحت بیٹا بننا چاہتا ہے، یہ ضرور نقصان پہنچائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنی جائیداد قلاتی ادارے کے نام کر دوں۔ سوچ سوچ کر ان کی بھوک پیاس اڑ چکی تھی۔

اسی دن شام کے وقت وہ لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے کہ ایک ادھیڑ عمر شخص گیٹ پر نظر آیا، جو چوکیدار سے اندر جانے کے لیے بحث کر رہا تھا۔ آخر چوکیدار اسے لے کر مرزا صاحب کے پاس آ گیا: ”صاحب! یہ آپ سے ملنے کو آیا ہے۔“

”ٹھیک ہے، تم جاؤ۔“

انہوں نے اجنبی کا جائزہ لیا۔ وہ ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا جس کی عمر پچاس سال سے زیادہ لگ رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ پیر مضبوط تھے۔ چہرے پر بے ہتکم کالی سفید داڑھی پر مہندی کی سرخی بھی نمایاں تھی۔ سر کے بال بھی آدھے سفید تھے۔ چہرے سے وہ کچھ تھکا ہوا سا لگ رہا تھا۔

مرزا صاحب نے پوچھا: ”کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟“

اجنبی دھیمے لہجے میں بولا: ”آپ نے مجھے پہچانا نہیں بیچ صاحب! میں دلاور

ہوں، استاد دلاور۔“

مرزا صاحب چونک اٹھے۔ انہوں نے اخبار پہلو میں رکھا اور کرسی سے ٹیک

لگا کر ماضی میں پہنچ گئے۔

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ء مئی ۲۰۵

خاص نمبر

دلاور نے پھر کہا: "میں سال پہلے آپ نے میرے بھائی کو پھانسی کی سزا دی تھی۔ میں اس بات کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ آپ کے گھر کام کرنے والی ماسی کو پیسے دے کر میں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسی سے مجھے پتا چلا کہ آپ کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ پھر اسپتال میں کام کرنے والی ایک عورت کو بڑی رقم کا لالچ دیا تو اس نے بڑی چالاکی سے بچہ میرے حوالے کر دیا۔ میں اسے ڈاکو کے روپ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا۔"

مرزا صاحب نے کہا: "اچھا، اب سمجھا۔ جو ڈاکو گرفتار ہوئے ہیں، وہ تمہارے کارندے ہیں۔ ان میں سے ایک میرا بیٹا ہونے کا دعوا کر رہا ہے۔ اور تم یہ من گھڑت کہانی اسی لیے مجھے سنانے آئے ہو کہ میں اسے اپنا مان کر سب کچھ اس کے حوالے کر دوں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ میرا بیٹا پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک میری نظروں کے سامنے رہا ہے۔"

دلاور نے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو پونچھے: "آپ اپنے جس مرے ہوئے بیٹے کی بات کر رہے ہیں، اس کی پرورش میں نے کی تھی۔ وہ مجھے اپنا ہی بیٹا لگتا تھا۔"

مرزا صاحب غصہ جلا گئے: "میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ کیا وہ میرا بیٹا نہیں تھا، جس کا انتقال میرے گھر میں ہوا تھا اور تمہانے میں بندو لڑکا میرا بیٹا ہے۔"

دلاور نے کہا: "جو فوت ہو گیا، وہ بھی آپ کا بیٹا تھا اور جو تمہانے میں بند ہے، وہ بھی آپ کا بیٹا ہے۔ آپ کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے، جو ہم شکل تھے۔"

مرزا صاحب کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔

دلاور بولتا رہا: "آپ کے جس بیٹے کو میں نے اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا، مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ ایک دن نہ جانے کیوں میں نے اسے سچ بتا دیا کہ تم میرے نہیں، ایک سچ کے بیٹے ہو اور تمہارا ایک بھائی بھی ہے۔ یہاں تک کہ میں نے اسے آپ کے گھر کا پتا تک بتا دیا۔ وہ اپنے باپ اور بھائی سے ملنے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ ایک بار وہ سخت بیمار

ہو گیا۔ اسی دوران وہ چپکے سے ڈیرے سے نکل کر اپنے باپ اور بھائی سے ملنے چل دیا۔ شاید وہ گھرتک پہنچ کر بے ہوش ہو گیا تھا اور آپ کے ملازم اسے آپ کا بیٹا سمجھ کر اندر لے گئے، جہاں ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ شاید آپ اس وقت گھر پر نہیں تھے۔“

”ہاں، مجھے فون پر اس کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع دی گئی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ مر چکا تھا۔“ مرزا صاحب نے کہا۔

دلادرنے اپنی بات جاری رکھی: ”آپ کا دوسرا بیٹا بھی اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ ادھر جب مجھے خبر ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ وہ آہ کے گھر گیا ہوگا۔ میں نے اپنے کارتدوں کو بھیجا کہ اسے پکڑ کر لائیں۔ جب میرے بھیجے ہوئے لوگ وہاں پہنچے تو انھیں شیراز نظر آ گیا اور وہ اسے میرا بیٹا سمجھ کر اٹھالائے۔ میں شیراز کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔“

مرزا صاحب کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انھیں کچھ یاد آیا: ”اس دن قبر پر پھول ڈالنے تم ہی آئے تھے؟“

”ہاں، وہ میں ہی تھا۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ اب میں آپ کے دوسرے بیٹے کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ مجرم میں ہوں کہ میں نے آپ کا ایک بیٹا چھینا اور دوسرے کو بھی چھیننا چاہتا تھا۔“

”تو تم اقرار جرم کر رہے ہو؟“

”ہاں، اور اب میں خود کو قانون کے حوالے کر رہا ہوں۔“

مرزا صاحب نے اسی وقت ڈرائیور کو آواز دی: ”جلدی گاڑی نکالو، اسی وقت تھانے جانا ہے۔“

مرزا صاحب کی آنکھوں میں غم اور خوشی کے آنسو تھے۔ انھیں ایک بیٹے کی موت کا غم تھا اور ایک بیٹے کے مل جانے کی خوشی بھی تھی۔

☆

☆	خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد تو نہال جون ۲۰۱۴ عیسوی	۲۰۷
---	----------	---------------------------------------	-----

حیاتیاتی ذرائع کے سبب پھیلنے والے وبائی امراض

احتیاطی تدابیر اور سید باب

ہمدرد نونہال اسمبلی راولپنڈی رپورٹ : حیات محمد بھٹی

ہمدرد نونہال اسمبلی راولپنڈی میں عالمی یومِ صحت سے متعلق منعقد ہونے والے اجلاس کے مہمان خصوصی محترم شہزاد عالم خان نیشنل پروگرام (پروفیشنل) عالمی ادارہ صحت پاکستان، تھے۔ رکن شوری ہمدرد معروف براڈ کاسٹر محترم نعیم اکرم قریشی نے بھی خصوصی شرکت کی۔ اجلاس کا موضوع تھا:

”حیاتیاتی ذرائع کے سبب پھیلنے والے وبائی امراض - احتیاطی تدابیر اور سید باب“

اسپیکر کے فرانسس نونہال عامرہ حفیظ نے سرانجام دیے۔ تلاوت قرآن مجید اور ترجمہ نونہال حزہ شبیر نے، حمد باری تعالیٰ نونہال عیسا مجید نے اور ہدیہ نسبت رسول مقبول نونہال ذیشان نے پیش کی۔

نونہال مقررین میں ارتحج یعقوب، اروما شہزاد، اینہ شہباز، حسن جمیل اور ذیشان حیات شامل تھے۔ اس موقع پر قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد نے نونہالوں کے نام اپنے پیغام میں کہا

کہ ویکٹر (VECTOR) ان حیاتیاتی ذرائع کو کہتے ہیں جو کسی متاثرہ انسان یا جانور سے بیماری کے جراثیم لے کر صحت مند انسانوں اور جانوروں میں منتقل کرتے ہیں۔ یہ بچھر، مکھی، گھوٹکے اور دیگر کیڑے

کوڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ وبائی امراض زیادہ تر ان علاقوں میں تیزی سے پھیلتے ہیں، جہاں پینے کا صاف پانی میسر نہ ہو اور گندے پانی کے نکاس کا انتظام ناقص ہو۔ بیماریاں منتقل کرنے والے حیاتیات کے

سبب پھیلنے والی بیماریوں میں ملیریا اور ڈینگی جیسے مہلک امراض نے ان دنوں پوری دنیا کو نگر مند کر دیا ہے۔ پاکستان میں ڈینگی کا ذکر چند برس پہلے ہی سنا گیا اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف

تدابیر پر تیزی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیاں بھی امراض کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں دنیا بھر کی حکومتوں، مختلف تنظیموں اور معاشروں نے اپنے اپنے طور پر وبائی

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ء پوری

۲۰۸





ہمدرد نونہال اسپتال راولپنڈی میں محترم شہزاد عالم خاں،
محترم نعیم اکرم قریشی اور نونہال تقریر کر رہے ہیں۔

امراض سے بچاؤ
کے لیے آگہی
پیدا کرنے میں
اہم کردار ادا کیا
ہے، لیکن ابھی
اس سلسلے میں
بہت کچھ کیا جانا

باقی ہے۔ عالمی ادارہ صحت (WHO) نے اس سال عالمی یوم صحت (۷- اپریل ۲۰۱۳ء) پر صحت
کے اس اہم مسئلے کو اپنی آگہی مہم کا عنوان بنایا ہے اور ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان اس مہم میں
عالمی یوم صحت کے شانہ بشانہ ہے۔

محترم نعیم اکرم قریشی نے کہا کہ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ آج کل ہمارے یہاں
مصنوعی خوراک (جس میں چپس اور جوس جیسی اشیاء شامل ہیں) کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، جو
صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیں اللذکی بے شمار نعمتیں میسر ہیں، جن میں سے صحت ایک انمول
نعمت ہے۔ ہمارے جسم اور اعضاء کا ہم پر حق ہے۔ ہم اسے آرام بھی دیں اور اس سے محنت طلب
کام بھی کر لیں، مگر دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ میاں رومی کو اپنائیں۔

محترم شہزاد عالم خاں نے کہا کہ ہمارا ایک ایسا یہ بھی ہے کہ ہم بیماری کا مکمل علاج نہیں
کراتے اور بیماری کے وقتی طور پر دب جانے پہ علاج چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماری پھر زور
پکڑ لیتی ہے اور اس کے علاج پر کئی گنا خرچ بڑھ جاتا ہے۔ ہماری زیادہ تر بیماریاں اور مصیبتیں ہماری
اپنی ہی لائی ہوئی ہیں، کیوں کہ ہم نے صفائی اور صحت مندر بننے کے اصولوں کو ترک کر دیا ہے۔

اس موقع پر نونہال شہیر سرفراز نے ایک خوب صورت ملی نغمہ پیش کیا۔ نونہالوں نے
ایک پڑا خاکہ پیش کیا۔ انعامات تقسیم کرنے کے بعد آخر میں دعائے سعید پیش کی گئی۔

ہمدرد نونہال اسمبلی لاہور رپورٹ : سید علی بخاری

عالمی ادارہ صحت ے۔ اپریل ۱۹۴۸ء سے ہر سال صحت کا عالمی دن مناتا ہے، جس کا بنیادی مقصد لوگوں کو صحت کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد عوامی سطح پر مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ ہر سال یہ ادارہ صحت کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی سطح کے لیے ایک موضوع کا انتخاب کرتا ہے۔ صحت سے متعلق مختلف اہم موضوعات پر تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔

رداں سال یہ موضوع ”حیاتیاتی ذرائع کے سبب پھیلنے والے وبائی امراض“ تھا۔ بائیس سال پہلے شہید حکیم محمد سعید نے انٹرنیشنل چلڈرن اینڈ یوتھ ہیلتھ کانفرنس کا انعقاد شہر کراچی سے کیا۔ اب ہر سال مختلف شہروں میں اس کانفرنس کی شمع کو روشن کیا جاتا ہے، تاکہ صحت سے متعلق پاکستانی معاشرے کی ذہن سازی کی جائے۔ گزشتہ دنوں تیسویں سالانہ انٹرنیشنل چلڈرن ہیلتھ کانفرنس منعقد کی گئی، جس کی صدارت عالمی ادارہ صحت کے نیشنل پروفیشنل آفیسر آف پیرییا کنٹرول پروفیسر ڈاکٹر قطب الدین کا کڑ نے فرمائی۔

مہمان خصوصی کی حیثیت سے نیشنل آف اسٹیٹ فار ہیلتھ سائنسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن حکومت پاکستان محترمہ سائرہ افضل تارڑ اور چیئرمین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ڈاکٹر سعید الہی نے شرکت کی۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن محترمہ سعدیہ راشد، متولیہ ہمدرد لیبارٹریز (وقف) پاکستان محترمہ فاطمہ منیر احمد، محترمہ ڈاکٹر ماہم منیر احمد و دیگر شریک ہوئے۔ کانفرنس میں مختلف ممالک اور پاکستان بھر سے خصوصی طور پر شرکت کرنے والے نونہال مندوبین نے خطاب کیا، جن میں شانزے سرفراز، سمیت اکرام، سرمد ستار، دانیال خان، صحیفہ صبیح، عروما شہزاد، عرج یعقوب، محمد شہر یار شاہد، سدرہ امتیاز، حافظ احمد طارق، نیشا زبیر، ارباز خان، مشرف ممتاز جب کہ بیرون ملک سے عبدالرحیم نیڈور (سعودی عرب)، یو تھمیت میہدولہ (سری لنکا)، محمد عزت اسرور (بنگلہ دیش)، بانیہ سلطانی (ایران)، بہادر میرت انور (ترکی)، نورفتن حافظ زین (ملائیشیا) شامل تھے۔

خاص نمبر | ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ء | ۲۱۰




ہمدرد نونہال اسپتالی لاہور میں "صحت کا عالمی دن" کے سلسلے میں

ہونے والی تقریب میں شریک مہمان اور نونہال مقررین

محترمہ سائرہ افضل تارڑ نے کہا کہ جراثیم کے ذریعے پیدا ہونے والی بیماریاں دنیا بھر میں ہر سال دس لاکھ سے زائد اموات کا باعث بنتی ہیں۔ حکومت ڈینگی اور ملیریا کے مسئلے سے پوری طرح آگاہ ہے اور ان جراثیمی پھیلاؤ والی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ انھوں نے شعور و آگہی کے سلسلے میں ہمدرد فاؤنڈیشن کے کردار کو بھی سراہا۔

دیوی کی آنکھیں

انوشوہیہ



کالے کالے جسموں والے آدمی لمبے لمبے نیزے اٹھائے ہوئے چاروں طرف دکھائی دے رہے تھے۔ مہمان کے بجائے اب میں ان کا قیدی تھا۔ میں نے اس حالت میں خود کو بہت ہی مجبور محسوس کیا۔ حماقت میری ہی تھی، جس کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے، جب بنگلہ دیش ہمارے ملک کا حصہ تھا اور مشرقی پاکستان کہلاتا تھا۔ سیر و تفریح کی غرض سے میں اپنے ایک دوست ارشاد کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ ایک کیمرا بھی ہم ساتھ لے گئے تھے کہ یادگار مقامات کی تصویریں کھینچ سکیں۔ ہرے بھرے ساحلی شہر چائنگام میں ہم اپنے ایک عزیز کے گھر ٹھہرے۔ وہیں

ماہ نامہ ہمدرد توں نہال جون ۲۰۱۴ء پوری ۲۱۳

خاص نمبر

WWW.PAKSOCIETY.COM

ہمیں چکما قبیلوں کے بارے میں پہلی بار معلوم ہوا۔ یہ قبیلے چائنگام ہلز کے دامن میں پھیلے ہوئے بہت بڑے جنگل میں رہتے تھے۔ پتا چلا کہ اس جنگل کے کئی حصے ہیں۔ اس کے ایک حصے میں خطرناک جانور پائے جاتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے وہاں نوٹس بورڈ بھی لگے ہوئے تھے کہ کوئی گھومنے پھرنے والا ادھر نہ جائے۔ قبائلیوں کی بستیاں جنگل کے اس



حصے سے دور تھیں اور وہاں تک جانا مشکل بھی نہیں تھا۔ ان میں زیادہ تر قبیلے مسلمان تھے، اس لیے بھی میری ہمت بندھی۔ شروع ہی سے مجھے سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ قبیلے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، چاہے مسلمان ہوں یا ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ ساری ضروری معلومات حاصل کر کے ہم ایک جیب کے ذریعے سے اس علاقے میں پہنچ گئے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد نوٹہال جون ۲۰۱۳ عیسوی	۲۱۳
----------	--------------------------------------	-----



میں اور میرا دوست ارشاد، ہم دونوں ہی ایک قبیلے کے مہمان بن کر بہت خوش تھے۔ ہمیں اس وقت خبر نہیں تھی کہ ہم جلد ہی ایک بڑی مصیبت میں گھر جائیں گے۔ ارشاد کو بھی میری طرح تصویریں کھینچنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے اسی شوق کی وجہ سے میں اس وقت جانوروں جیسی آوازیں نکالنے والے اور زور زور سے ڈھول بجا کر ناپتے ہوئے سیاہ جسموں کے درمیان بے بس اور حیران بیٹھا تھا۔ ارشاد میرے قریب ہی بیٹھا ہوا تنکے سے زمین کرید رہا تھا۔ ملازموں کی حیثیت سے ہمارے ساتھ اسی قبیلے کے بیس آدمی بھی تھے۔ ہم سب پر اس قبیلے کی دیوی بھوانی کی آنکھوں میں جڑے ہوئے قیمتی ہیرے چرانے کا الزام تھا۔

میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اللہ جانے میرا کیا حشر ہو کہ دور سے اس قبیلے کے پجاری کو آتے دیکھا۔ وہ ان کالے جسم والوں سے الگ، ہماری ہی دنیا کا آدمی تھا۔ اس

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ عیسوی	۲۱۵
----------	--------------------------------------	-----

علاقے میں مجھے وہی امید کی ایک کرن معلوم ہوا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو یہی پجاری بڑی محبت سے ملا تھا۔ اس نے چائنگام، ڈھا کا اور دوسرے بہت سے شہر دیکھے تھے۔ وہاں وہی ایک ایسا آدمی تھا جس نے شہروں کے رہن سہن کی جھلک دیکھی تھی، جہاں لوگ سائنسی انداز میں سوچتے اور نئی ایجادات کی مدد سے کام کرتے ہیں۔

”ناصر میاں!“ پجاری نے قریب آ کر مجھے مخاطب کیا اور میرے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے بے زاری کے ساتھ پجاری سے پوچھا: ”اب ہمارا انجام کیا ہوگا؟ بھوانی دیوی کی آنکھوں سے ہیرے چرانے کے الزام میں کیا قبیلے والوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جسموں کو بھی نیزوں میں پرو دیا جائے گا یا سر کاٹ کر.....“

پجاری نے ہنس کر بات کاٹ دی اور بولا: ”نہیں، آج کی اس تقریب کا مقصد اصل مجرم کو پکڑنا ہے۔“

میں نے کہا: ”اصل مجرم کیسے پکڑا جاسکتا ہے؟ ثبوت کہاں سے لاؤ گے تم؟ نہ یہاں پولیس کا عملہ ہے، نہ انگلیوں کے نشانات دیکھ کر مجرم کا پتا لگانے والے موجود ہیں، نہ کوئی ایسا گواہ ہے جس نے کسی کو ہیرے چراتے دیکھا ہو۔“

پجاری دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا: ”یہاں پر یہ سب نہیں چلتا۔ یہاں سیاہ اور سفید، سچ اور جھوٹ کو جانچنے کے طریقے الگ ہیں۔ ذاتی طور پر مجھے معلوم ہے کہ تم اور تمہارا دوست خواہ مخواہ اس چکر میں پھنس گئے ہو۔“

قریب ہی بیٹھا ہوا ارشاد غصے سے بول اٹھا: ”ناصر سے میں نے کہا تھا کہ اس مورتی کی تصویر کھینچنے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں۔ تصویر رات کو یادن میں کسی

خاص نمبر



وقت بھی کھینچی جاسکتی ہے۔ پھر بھی یہ ضد کرنے لگا کہ رات کے وقت ہی تصویر کھینچیں گے۔ رات کو چاند کی مدھم روشنی میں مورتی زیادہ پُر آسرا نظر آئے گی۔ اسے تو ایسی تصویریں جمع کرنے کا جنون ہے۔ رات کو قبیلے کے سردار کی اجازت لے کر یہ مجھے بھی اپنے ساتھ وہاں لے گیا۔ بد قسمتی سے اسی رات ہیرے بھی چوری ہو گئے، الزام تو ہم سب پر آیا۔ دن کو مورتی کی تصویریں کھینچ لیتے تو آج یوں قیدی بنے نہ بیٹھے ہوتے۔" اپنی بات پوری کرنے کے بعد ارشاد بہت دیر تک بڑبڑاتا رہا۔

خوف زدہ کر دینے والی ڈھول کی تھاپ بدل گئی اور ایک نئی ڈھن پر ناچ شروع ہو گیا۔ پجاری نے چونک کر میدان میں ناچنے والوں پر نظر ڈالی اور اُٹھ کھڑا ہوا۔

ارشاد نے ڈری ہوئی آواز میں پجاری سے پوچھا: "تم کہاں جا رہے ہو؟"

پجاری بولا: "رسم شروع ہونے والی ہے۔ تم لوگ بھی تیار ہو جاؤ۔"

ارشاد نے جھرجھری لی اور سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد نعروں کا شور بلند ہوا۔

سیکڑوں اُچھلتے کودتے قبیلے والوں کے درمیان سردار مسکراتا ہوا آیا اور درختوں کے تنوں سے

بنے تخت پر جا بیٹھا۔ نعروں کی آوازیں دھیمی دھیمی ہوتی گئیں اور ڈھولوں کی دھمک اچانک بڑھ گئی۔

رقص کرنے والے لنگوٹیاں باندھے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں سے پسینا پانی کی طرح بہ رہا

تھا۔ چند لمحے اور گزرے تھے کہ تخت کے پیچھے سے چند عورتیں سامنے آ گئیں۔ ان عورتوں کے

ہاتھوں میں پیالے تھے۔ ان پیالوں کو عورتوں نے سب قیدیوں کے آگے رکھ دیا۔

تخت پر بیٹھا ہوا سردار اٹھا تو ایک دم ڈھولوں کی تھاپ بند ہو گئی۔ ناچتے ہوئے

قبائلی رک گئے۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر تک سردار قبائلی زبان میں تقریر کرتا رہا،

جس کے چند الفاظ ہی میری سمجھ میں آئے۔ یہ عام بول چال کے الفاظ تھے جو چند روز میں ہر کوئی سیکھ لیتا ہے، مگر ان الفاظ سے میں سردار کی تقریر کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ یہی حال ارشاد کا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا: ”یہ کیا کہہ رہا ہے؟“

میں اسے چھیڑنے کے لیے بولا: ”میرا خیال ہے، اسے تم پر شبہ ہے کہ ہیروں کی چوری میں تمہارا ہاتھ ہے۔“

یہ سنتے ہی ارشاد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا: ”ناصر! مجھ سے اس طرح کا مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے وہ ہیرے نہیں چرائے۔ کسی نے تمہاری بات سن لی تو ابھی میری گردن اڑا دی جائے گی۔“

میں بولا: ”تم تو برامان گئے۔ میں تو ہنس بول کر اپنا اور تمہارا خوف کم کر رہا ہوں۔“ اسی لمحے سردار کی تقریر ختم ہونے پر پجاری تخت کے نیچے کھڑا ہو کر بولنے لگا: ”قبیلے کے محترم سردار نے ابھی جو تقریر کی ہے، اپنے مہمان دوستوں کے لیے میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ کل رات کسی نے اس قبیلے کی دیوی بھوانی کی آنکھوں میں جڑے ہوئے ہیرے چرائے ہیں۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ مورتی کے وہ ہیرے اس بستی کی عزت ہیں۔ قبیلے والوں کو ان بائیس آدمیوں پر شک ہے، جن میں باہر سے یہاں آنے والے دو مہمان بھی شامل ہیں۔ بستی کے بیس آدمی کل رات عبادت کے لیے مورتی کی طرف گئے تھے۔ دونوں مہمان تصویریں کھینچنے کے لیے رات وہاں پہنچے تھے۔ سب کو معلوم ہے کہ جنگل کے اس حصے کے درخت کاٹ دیے گئے ہیں اور اسے عبادت گاہ کا درجہ حاصل ہے۔ نشانی کی خاطر وہاں ایک دیوار بنا دی گئی ہے، جس میں دروازہ ہے۔ اسی دروازے سے گزر کر

ماہ نامہ بھدر نو تہال جون ۲۰۱۴ عیسوی ۲۱۸

خاص نمبر

عبادت کرنے والے مورتی تک پہنچتے ہیں۔ ان بائیس آدمیوں میں سے ہر ایک نے عبادت گاہ میں کچھ الگ الگ وقت گزارا ہے۔ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے الگ الگ وقت میں عبادت کرنے گئے تھے۔ دونوں مہمان بھی باری باری اس عبادت گاہ میں اکیلے رہے تھے، کیوں کہ یہ مورتی کی تصویریں لینا چاہتے تھے۔ ایسی صورت میں پورے قبیلے کو ان بائیس آدمیوں پر شک ہے، کیوں کہ رات بارہ بجے عبادت گاہ میں داخل ہونے کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ دروازے کے علاوہ کسی اور طرف سے عبادت گاہ میں جانا جرم ہے اور وہاں پہرے دار بھی رہتے ہیں۔ جھوٹ اور سچ کا پتا چلانے کے لیے ایک شربت تیار کیا گیا ہے، جسے تمام ملزم پئیں گے۔ قبیلے والے گواہ ہیں کہ یہ شربت برسوں سے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرتا آیا ہے۔ یہ آدمی کی روح پر اثر کرتا ہے اور اسے سچ بولنے پر مجبور کرتا ہے۔“

پجاری کی تقریر جاری تھی کہ میں نے قریب ہی بیٹھے ہوئے ارشاد پر نظر ڈالی۔ وہ بھی میری طرح پجاری کی اس احمقانہ بات پر مسکرایا تھا، جس کے تحت اس نے شربت کو سچ اور جھوٹ کی کسوٹی بتایا تھا۔

اب وہ پجاری کہہ رہا تھا: ”یہ روحانی شربت آدمی کی روح میں سچ کی قوت کو جگا دیتا ہے۔ اس کے پینے سے آدمی کے اندر چھپا ہوا شیطان زخمی ہو جاتا ہے۔ اپنے مہمانوں کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ شربت پینے کے بعد اصل مجرم کے پیٹ میں بہت زور کا درد ہوگا۔ اس کی آنتیں کٹنے لگیں گی اور دل کے قریب سیاہی چھا جائے گی۔ باقی ملزموں کے پیٹ میں یہ شربت پینے کے بعد ہلکا سا درد ہوگا، لیکن اصل مجرم کچھ ہی دیر میں درد سے تڑپنا شروع کر دے گا۔“

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد تو نہال جون ۲۰۱۴ عیسوی

۲۱۹

اس موقع پر میں نے ارشاد سے سرگوشی کی: ”میں یہ شربت نہیں پیوں گا۔ نہ جانے کون کون سی جڑی بوٹیوں سے اسے تیار کیا گیا ہوگا۔ یہ شربت پی کر مجرم نہ ہونے کے باوجود بھی میں کہیں مرنہ جاؤں۔“

ارشاد نے میری بات سن کر اطمینان سے کہا: ”ذرا اپنے پیچھے نظر ڈالو۔“
میں نے مڑ کر دیکھا، نیزہ سنبھالے ہوئے ایک کالا آدمی چوکس کھڑا تھا۔

ارشاد بولا: ”شربت تو ہمیں پینا پڑے گا۔ ہم نے اگر انکار کیا تو بھی یہ ہمیں مجرم سمجھ لیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ دیوی کی آنکھیں نکالنے کے جرم میں ہماری آنکھیں نکال کر ہمیں مار ڈالیں گے۔“

میں نے بے چینی سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بولا: ”لیکن پجاری کی تقریر تم نے بھی سنی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں پر شبہ ہے، ان کے پیٹ میں بھی ہلکا سا درد ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درد ہوگا تو سب کے پیٹ میں برابر ہوگا، ورنہ کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔“

ارشاد نے اکتائی ہوئی آواز میں کہا: ”میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں تو شربت پی لوں گا، پھر دیکھا جائے گا۔“

رقص دوبارہ شروع ہو گیا اور قبائلی ڈھولوں کی تھاپ پر تھرکنے لگے۔ ذرا دیر بعد سردار کے اشارے پر پھر خاموشی چھا گئی۔ تخت کی دائیں جانب سے ایک لمبا چوڑا آدمی سامنے آیا۔ لنگوٹی باندھنے کے علاوہ اس کی گردن میں ایک سرخ کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اس لمبے آدمی نے کڑک دار آواز میں کوئی حکم دیا۔ اگلے ہی لمحے پجاری کی آواز گونجی، اس نے

ہمیں مخاطب کیا: ”اپنے سامنے رکھا ہوا شربت پی جاؤ۔“

میں نے ارشاد کی طرف دیکھا، وہ یوں مسکرایا، جیسے اس قبیلے کی رسم کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس نے پیالہ اٹھایا اور شربت پینا شروع کر دیا۔ عین اسی وقت مجھے اپنے کمر میں چھین محسوس ہوئی۔ میرے پیچھے جو کالا آدی کھڑا تھا، اس کا نیزہ میرے جسم سے آگیا تھا، جیسے وہ دھمکی دینا چاہتا ہو کہ اگر میں نے شربت نہ پیا تو نیزہ جسم میں پیوست کر دے گا۔

میں نے مجبوری کی حالت میں ادھر ادھر دیکھا۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لکڑی کا پیالہ اٹھاتے ہوئے میرے ہاتھ کاٹنے لگے۔ پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ میرا دل کس قدر کم زور ہے۔ مجرم نہ ہو کر بھی میں خوف زدہ تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ شربت سچ سچ جھوٹ اور سچ کو پرکھنے کا ذریعہ ہے۔

اپنی ساری ہمت جمع کر کے میں نے بے رنگ شربت کا پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں اسے خالی کر دیا۔ باقی ملزم اپنا اپنا شربت پی کر مجھ پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، جیسے میں نے ہی ہیرے چرائے ہیں۔

درد دھیرے دھیرے شروع ہوا۔ مجھے پجاری کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ اصل مجرم کے علاوہ باقی ملزموں کے پیٹ میں بھی ہلکا سا درد ہوگا۔ میں اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے مسکرایا اور قبیلے والوں کی طرف دیکھا۔ وہ سنجیدہ شکلیں بنائے خاموش بیٹھے تھے۔ ارشاد سر جھکائے تنکے سے زمین پر لکیریں بنائے جا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنا دھیان بنانے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔

میرے پیٹ کا درد آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ شربت نے میری آنتوں میں جلن ہی پیدا

www.PAKSOCIETY.COM

کر دی تھی۔ مجھے اپنی بے گناہی کا یقین تھا۔ اسی یقین کی وجہ سے میں وہ جلن برداشت کر گیا۔ اس مورتی کی کچھ تصویریں میں نے اور ارشاد نے کھینچی تھیں۔ باری باری ہم دونوں وہاں گئے تھے۔ مورتی کی آنکھوں سے ہیرے نکلنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ میں بھلا ایسی حرکت کیوں کرتا؟ ارشاد کی طرف سے بھی میرا دل صاف تھا۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دروزور پکڑتا گیا۔ یوں لگا جیسے کوئی میرے معدے کو ہاتھ میں لے کر مسل رہا ہو۔ میں نے ارشاد کو دیکھا۔ اس کے چہرے سے بھی تکلیف ظاہر ہو رہی تھی، مگر وہ ابھی تک سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں قبیلے والے ایک قطار میں بیٹھے ہوئے ایک ہی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ ادھر ہی ان کی عبادت گاہ تھی۔ میں نے سوچا، شاید وہ اپنے عقیدے کے مطابق دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔

درد کو چھپانے کے لیے میں حوصلے کے ساتھ سیدھا بیٹھا ہوا تھا۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ میں پُر سکون نظر آؤں۔ اندر سے میری حالت غیر تھی۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے معدے کو چاقو سے کھرچ رہا ہے۔ پیٹ میں جیسے زخم بنتے جا رہے تھے۔ درد اتنی زور کا تھا کہ مجھے اپنی چیخیں روکنا مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ سامنے لکڑی کے تخت پر بیٹھا ہوا سردار، تخت کے ایک طرف کھڑا ہوا پجاری اور ارد گرد کھڑے قبائلی میری نگاہ میں دھندلے پڑنے لگے۔ ورداب پیٹ سے میرے دل کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر سامنے کھڑی ہوئی عورتوں کو دیکھا۔ ان کے ہولے میری نگاہ کے سامنے کبھی دھندلا جاتے، کبھی صاف ہو جاتے۔ میں نے دعا کی اور خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔

ابھی سورۃ الناس کے آخری الفاظ میری زبان سے ادا ہوئے تھے، اسی لمحے

ماہ نامہ ہمدرد تو نہال جون ۲۰۱۳ء عیسوی ۲۲۲

خاص نمبر

میرے ساتھ بیٹھا ہوا ارشاد اپنا پیٹ پکڑ کر چیخنے لگا: "اے پجاری! اے سردار! مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس عورتی کی آنکھوں سے ہیرے چرائے تھے۔ مجھے پچالو۔ یہ جرم میں نے ہی کیا ہے۔" ان الفاظ کے ساتھ ہی اس نے چیخ ماری اور پیچھے جاگرا۔

اگلے لمحے قبیلے کی عورتوں کو میں نے قیدیوں کی طرف لپکتے ہوئے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں پیالے تھے۔ ان پیالوں میں کوئی اور شربت تھا۔ درد کی وجہ سے میں بے ہوش ہوا جا رہا تھا، لیکن ارشاد کا انجام دیکھنے کے لیے کسی طرح خود کو سنبھال لیا۔ ایک عورت ارشاد کو دوسرا شربت پلا رہی تھی۔ دوسری عورت نے ایک ہاتھ سے میرے بالوں کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے شربت کا پیالہ میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ شربت کا رنگ سرخ تھا۔ اس میں روح افزا جیسی خوش بو، مٹھاس اور ٹھنڈک تھی۔ مجھے یہ شربت پی کر بڑی تسکین محسوس ہوئی۔

ٹھنڈک اور سکون کا احساس میرے پورے جسم میں پھیلنے لگا۔ ایسا جادو اثر شربت میں نے پہلے کبھی نہیں پایا تھا۔ چند لمحوں میں درد غائب ہو گیا۔ وہ مہربان عورت سیدھی کھڑی ہو گئی اور خالی پیالہ لے کر دوسری عورتوں کی طرف چل دی۔

یہ اسی دن کی بات ہے کہ پجاری نے میرے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر کہا: "میں نے قبیلے کے سردار سے تمہارے دوست کو معافی دینے کے لیے بات کر لی ہے۔ تمہارے دوست نے جنگل میں جہاں وہ ہیرے چھپائے تھے، وہ وہاں سے نکال کر واپس کر دیے ہیں اور معافی مانگ لی ہے۔ تم دونوں آج ہی یہاں سے نکل جاؤ۔"

میں بولا: "مجھے بڑی حیرت ہے کہ اس شربت کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ کا پتا

کیسے چل گیا؟“

پجاری مسکرا کر بولا: ”یہاں ابھی علم کی روشنی نہیں پھیلی۔ یہ لوگ سیدھے اور بھولے بھالے ہیں۔ یہاں ہر کام عقیدے سے ہوتا ہے۔ وہ شربت جس نے جھوٹ کا فیصلہ کیا، اس کو پی لینے سے صرف پیٹ میں زور کا درد اٹھتا ہے۔ جتنے لوگوں کو بھی شربت پلایا گیا، سب کے پیٹ میں درد ہونا ضروری تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اصل مجرم یہی سمجھتا ہے کہ اس کے پیٹ میں اتنے زور کا درد ہو رہا ہے، باقی لوگ اس تکلیف سے بچے ہوئے ہیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے موت ناچنے لگتی ہے۔ آخر وہ سچ بول دیتا ہے۔ یہ سب عقیدے کے کھیل ہیں۔ یقین کا جادو ہے۔ شاید تم ان باتوں کو نہ سمجھ سکو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تم اس جگہ گاتی اور ترقی کرنے والی دنیا سے یہاں آئے ہو، جہاں سیاہ اور سفید کو پرکھنے کے طریقے الگ ہیں۔“ یہ کہہ کر پجاری نے میرے کندھے پر تھکی دی اور اس جھونپڑی سے نکل گیا جہاں مجھے ٹھہرا گیا تھا۔

ارشاد، سردار کے جھونپڑے کے قریب ایک جھونپڑی میں قید تھا۔ اس کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے میں اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ میرے ذہن میں مختلف خیالات آرہے تھے۔ پہلا خیال مجھے یہ آیا کہ ارشاد جیسے لالچی انسان کو میں اب کبھی اپنا دوست نہیں سمجھوں گا۔ اس کی وجہ سے مجھے بھی رسوا ہونا پڑا۔ ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے جو اللہ کے احکام کی کھلی نافرمانی کرتے ہوں۔ ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا کہ جن لوگوں کو ہم جاہل اور بے وقوف سمجھتے ہیں، ان کے پاس بھی عقل ہے۔ وہ بھی جھوٹ اور سچ کی پہچان رکھتے ہیں، کھرے کھوٹے کو پرکھ سکتے ہیں۔

☆

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد توں ہال جون ۲۰۱۴ عیسوی	۲۲۳
----------	---------------------------------------	-----

اصلی شہزادی

ڈاکٹر عمران مشتاق۔ آسٹریلیا

آپ نے عجائب گھر میں مٹر کا دانہ تو ضرور دیکھا ہوگا۔ ہے نا حیرت کی بات۔ بھلا مٹر کے دانے کا عجائب گھر میں کیا کام؟ عجائب گھر میں تو قدیم تہذیب و ثقافت کے نمونے ہوتے ہیں۔ پرانے دور کے زیورات، سکے، برتن، مجسمے، کپڑے اور دوسری چیزیں ہمیں انسانی تاریخ کی حیرت انگیز باتوں سے آگاہ کرتی ہیں۔ مٹر کے دانے سے بھی ایک کہانی جڑی ہوئی ہے۔ آج ہم آپ کو وہی کہانی سنانا چاہتے ہیں۔

کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کی سلطنت اُس سے چھن گئی۔ وہ اپنے علاقے سے نکلا اور کسی اور بستی میں جا کر آباد ہو گیا۔ اب بھی اُس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ شان و شوکت سے زندگی گزار سکتا تھا۔ اُس نے ایک بڑی سی حویلی خریدی اور آرام سے رہنے لگا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ کچھ عرصے کے بعد شکست کھائے ہوئے بادشاہ کو اپنے شہزادے کی شادی کی فکر ہوئی۔ شہزادہ ویسے تو اب نام کا ہی شہزادہ رہ گیا تھا، مگر وہ کسی شہزادی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جو واقعی شہزادی ہو۔ بادشاہ اور ملکہ سے مشورہ کر کے اور اُن کی اجازت سے وہ شہزادی کی تلاش میں نکلا۔ وہ ملک ملک، شہر شہر اور گاؤں گاؤں گھوما، مگر اُسے کوئی ایسی لڑکی نہ ملی، جو واقعی شہزادی ہو۔ ویسے تو اُس کی ملاقات کئی شہزادیوں سے ہوئی، مگر ان میں کوئی نہ کوئی کمی تھی۔ اُسے یقین نہیں تھا کہ اُن میں اصلی شہزادی تھی یا نہیں۔ اُن میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا، جو اُسے پسند نہ آتا اور وہ پھر آگے چل پڑتا۔ مہینوں کی تلاش کے بعد بھی جب وہ

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ء پوری ۲۲۵

خاص نمبر



WWW.PAKSOCIETY.COM

کام یاب نہ ہوا تو واپس گھر آ گیا۔ وہ بے حد اُداس تھا۔ بادشاہ اور ملک نے اُسے تسلی دی کہ ایک نہ ایک دن اُسے اصلی شہزادی مل جائے گی۔

شام کا وقت تھا۔ موسم بے حد خراب تھا۔ طوفان کے آثار تھے۔ بجلی تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمک رہی تھی اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ بارش جیسے ہی تیز ہوئی تو اُن کی حویلی کے بڑے دروازے کو کسی نے زور زور سے کھٹکایا۔ دروازہ کھولا گیا تو باہر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اپنے حلیے اور لباس سے وہ کسی اچھے گھر کی لڑکی لگ رہی تھی۔ اُس کا لباس بوسیدہ ہو چکا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور تیز بارش نے اس کا حلیہ خراب کر دیا تھا۔

لڑکی نے کہا: ”میں ایک شہزادی ہوں۔ میرے چچا نے دھوکے سے میرے بادشاہ باپ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ میں نے بڑی مشکل سے بھاگ کر جان بچائی ہے۔“

بادشاہ کو اُس کی کہانی سن کر ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ خود بھی تو کبھی بادشاہ تھا اور اب اُس کے بھی حالات بدل چکے تھے۔ اُس کے کہنے پر ملک شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اُس نے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ شہزادی کا امتحان لے گی، تاکہ پتا چل سکے کہ وہ واقعی شہزادی ہے یا نہیں؟ اُس نے شہزادی کو کھانا کھلایا اور پینے کو نئے کپڑے بھی دیے۔

جب رات ہوئی تو ملک شہزادی کو ایک کمرے میں لے کر گئی۔ شہزادی کو اسی کمرے میں سونا تھا۔ شہزادی نے حیرت سے اپنے بستر کو دیکھا، جو زمین سے بہت اونچا تھا، مگر اس نے ملک سے کوئی سوال نہ کیا۔

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد تو نہال جون ۲۰۱۴ عیسوی ۲۲۶

شہزادی کو ساری رات نیند نہ آئی، وہ کروٹیں بدلتی رہی اور ٹھیک طرح سے سو نہ سکی۔

اگلے دن صبح کو ملکہ نے شہزادی سے پوچھا: ”مجھے اُمید ہے کہ تمہیں رات کو اچھی اور پُر سکون نیند آئی ہوگی؟“

شہزادی نے جواباً شکایت بھرے لہجے میں کہا: ”میں تو ساری رات سو ہی نہیں سکی۔ بستر میں کوئی سخت چیز تھی، جو مجھے ساری رات چبھتی رہی۔ وہ اتنی سخت تھی کہ میرے جسم کے کئی حصوں پر نیل پڑ گئے ہیں۔“

ملکہ کے کہنے پر شہزادی نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا تو ملکہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اُس کی نرم و نازک جلد پر نیلے نیلے نشان پڑ چکے ہیں۔

ملکہ کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی اور پوچھنے لگی: ”آخر ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے، جس نے تمہارا ایسا حال کر دیا؟“

شہزادی نے اپنی کمر سہلاتے ہوئے کہا: ”یہ تو میں نہیں جانتی کہ میرے بستر میں وہ سخت سی چیز کیا تھی؟ مگر اتنا جانتی ہوں کہ میری نرم و نازک جلد کو اُس سے سخت نقصان پہنچا ہے۔“

ملکہ نے شہزادی کو محبت سے گلے لگا لیا اور کہنے لگی: ”میں نے مان لیا اور جان لیا کہ تم واقعی شہزادی ہو۔ کسی شہزادی کا نرم و نازک جسم تو مٹر کے دانے کی سختی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔“

شہزادی حیرت سے پوچھنے لگی: ”کیا مطلب؟ میں کبھی نہیں؟“

ملکہ نے بتایا: ”میں نے تمہارا امتحان لیا تھا۔ میں نے تمہاری مسہری سے بستر ہٹا کر نیچے مٹر کا ایک دانہ رکھ دیا تھا۔ پھر مٹر کے دانے کے اوپر بیس رضائیاں رکھ دیں۔ یوں مٹر کا دانہ چھپ گیا۔ اگر کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو اُسے شاید پتا بھی نہ چلتا، مگر تم تو شہزادی ہو، اس لیے تمہارے جسم کی نزاکت اُس کی تختی برداشت نہ کر سکی۔“

کہتے ہیں ملکہ اور بادشاہ نے شہزادی کو اپنی بیٹی بنا لیا اور اُس کی شادی اپنے شہزادے سے کر دی، کیوں کہ یہ بات تو ثابت ہو ہی چکی تھی کہ وہ واقعی شہزادی تھی۔ بادشاہ کے کہنے پر مٹر کا دانہ عجائب گھر میں رکھ دیا گیا۔

کیا آپ نے عجائب گھر میں دیکھا ہے۔ نہیں دیکھا؟ ارے ہم آپ کو یہ بتانا تو بھول ہی گئے کہ میوزیم ڈنمارک کے اہم ترین شہر کوپن ہیگن میں ہے۔

☆☆☆

ترکیب

سولھویں صدی کا ذکر ہے۔ ہندستان کے بادشاہ شیرشاہ سوری کو کھلے میدان میں جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ دشمن اسلحے سے لیس تھا۔ مورچا بندی کے بغیر جنگ لڑنا ناممکن نظر آتا تھا۔ شیرشاہ سوری کے ساتھ اس کا سولہ سالہ پوتا بھی تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ بور یوں میں ریت بھری جائے اور ان سے مورچے بنائے جائیں۔ شیرشاہ سوری اس ترکیب پر عمل کر کے جنگ جیت گیا۔ یہ ایجاد اس وقت سے اب تک دنیا بھر میں استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے۔

مرسلہ : شریا عبدالستار انصاری، لاہور

شاعر: محمد خورشید عالم

اے ارضِ وطن

پسند: امامہ عالم

اے ارضِ وطن! تیرے گناہ گار بہت ہیں
حالت پہ تیری آج شرم سار بہت ہیں

خدمت سے پڑاتے ہوئے نظروں کو ہمیشہ
ہم تیری ترقی کے طلب گار بہت ہیں

سینوں میں کمی تبتِ وطن کی ہے وگرنہ
کاغذ کے پلندوں میں تو اشعار بہت ہیں

ہم قرض کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے آہو
آزاد فضاؤں میں بھی ناچار بہت ہیں

امید کی شمعوں کو بجھانا نہیں عالم
سنتے ہیں کہ روشن تیرے افکار بہت ہیں

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ء مئی

۲۲۹

دینی اور سبق آموز کتابیں

رسول اللہ ﷺ سب سے بڑے انسان

اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اور آپ کی عالم گیر تعلیمات کو مختصر، لیکن سہل اور سادہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ نونہالوں، نوجوانوں اور عام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی شہید حکیم محمد سعید کی ایک سبق آموز کتاب، جو طالب علموں کے لیے ایک عمدہ تحفہ ہے۔

خوب صورت ٹائٹل۔ نیا ایڈیشن

صفحات : ۳۸ — قیمت : ۳۵ روپے

امت کی مائیں

اس کتاب میں حضور اکرم کی قابل احترام بیویوں کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں، جو ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہیں اور مسلمان بچیوں اور خواتین کے لیے خاص طور پر مفید اور دل چسپ ہیں۔

حسین حسنی کی بچیوں اور بڑوں، سب کے لیے یکساں مشعلی راہ کتاب

صفحات : ۳۰ — قیمت : ۲۰ روپے

رسول اللہ کی صاحبزادیاں

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے مختصر حالات زندگی، جن کا ہر عمل ہمارے لیے مشعلی راہ ہے۔ مولانا فضل القدر ہندوی کی ایک مفید اور سبق آموز کتاب۔

صفحات : ۳۰ — قیمت : ۲۰ روپے

☆ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان، ہمدرد سینٹر، ناظم آباد نمبر ۳، کراچی۔ ۷۴۶۰۰

جاگ اٹھا سردار

مدیحہ ذکاء بھٹی

کامو موچی خوف سے کانپ رہا تھا اور گاؤں کا سردار گرج رہا تھا: ”میں نے کہا تھا کہ سالانہ میلے کے موقعے پر نئے جوتے پہنوں گا۔ بھلا بتاؤ اتنے اہم موقعے پر جب کہ دور دور سے لوگ آئیں گے، میں پرانے جوتے پہن کر جاؤں گا! لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے گاؤں کا سردار اور سلیقے کے جوتے بھی نہیں۔ تم نے جوتے انتہائی گھٹیا بنائے ہیں۔ نائکے بھی درست نہیں لگائے۔ تمہارے سفید بالوں اور پرانی خدمات کا خیال نہ ہوتا تو اتنے جوتے لگاتا کہ گھنچے ہو جاتے۔ دفع ہو جاؤ، پھر کبھی منہ نہ دکھانا۔ بے وقوف! تمہاری نظریں کم زور ہو گئی ہیں تو اپنے اس بیٹے کو کام کیوں نہیں سکھا دیتے۔ اگر یہ اب بھی نہیں سیکھے گا تو تمہارے بعد ہمارے بچوں کے جوتے بنا کر کون دے گا؟“

کامو نے کوئی جواب نہ دیا۔ اپنے بیٹے شامو کے ہاتھوں میں جوتے تھما دیے اور لاشمی نیکتا ہوا سردار کی حویلی سے نکل گیا۔ شامو نے محسوس کیا کہ اس کے باپ کامو کی کمر پہلے کی نسبت اور جھک گئی ہے، سر کے بال اور بھی سفید ہو گئے ہیں، آنکھیں بھی کم زور ہو گئیں ہیں۔ دونوں اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں داخل ہوئے تو شامو کی ماں دوڑتی ہوئی آئی۔

کامو بولا: ”شامو کل سے مدر سے نہیں جائے گا، وہ جوتے بنائے گا۔ میری نظریں کم زور ہو گئیں ہیں۔ نائکے غلط پڑ جاتے ہیں۔ شامو کی ماں! آج میں سردار کے ہاتھوں پٹے پٹے بچا ہوں۔ لگتا ہے آج صبح کسی بھلے مانس کا منہ دیکھا تھا، ورنہ غصہ، وہ بھی سردار کا، اللہ بچائے۔ ایک جوتا بھی ہلکا نہ پڑتا۔ تم تو جانتی ہو وہ زبان سے کم اور ہاتھ سے زیادہ کام لیتا ہے۔“

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد تو نہال جون ۲۰۱۴ عیسوی

۲۳۱

WWW.PAKSOCIETY.COM

کامو ہانپتا ہوا جھونپڑی کے ایک کونے میں کچے فرش پر پچھی کھجور کے سوکھے پتوں سے بنی چٹائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا، شامو کی ماں پنکھا جھلنے لگی۔

کامو نے کچھ سوچ کر دل میں ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ شامو نے ماں باپ کو اُداس دیکھ کر جوتے رکھے اور چپ چاپ باہر چلا گیا۔ جو پال پر پہنچا تو دیکھا موچھو جولا ہے کا بیٹا سوکھو گھٹنوں میں سر ڈالے بیٹھا ہے۔

”کیا ہوا؟“ شامو نے قریب جا کر اس کے شانے ہلائے۔

سوکھو نے مایوسی سے کہا: ”وہی جو غریبوں کے مقدر میں ہے۔ ہفتوں کی محنت کے بعد ململ تیار کر کے بابا جب سردار کے پاس لے گیا تو تھان دیکھتے ہی سردار غصہ ہو گیا اور اٹھا کر پھینک دیا۔ اپنے نوکروں سے بابا کو پٹوایا اور حویلی کے دروازے کے باہر پھکوا دیا۔“

شامو کچھ سوچنے لگا۔

سردار کا بیٹا کامو کے ہاں آیا اور بولا: ”جوتے تیار ہو گئے ہوں تو دے دو، بابا کو ملے میں جاتا ہے۔“

کامو بولا: ”جوتے تیار ہیں، لیکن تمہارے بابا کو نہیں دوں گا۔ آج میں خود ہی بہن کر میلا دیکھنے جاؤں گا۔“

”کیا بکتے ہو، بابا سن لیں گے تو چڑی ادھیڑ دیں گے۔“ سردار کا بیٹا بولا۔

”مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا۔“ بوڑھے کامو نے کہا اور اپنی جھونپڑی میں چلا گیا۔

تھوڑی دیر کے بعد سردار خود ہی جھونپڑی کے دروازے پر موجود تھا۔ وہ چلا یا:

WWW.PAKSOCIETY.COM

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد تو نہال جون ۲۰۱۴ عیسوی	۲۳۲
----------	---------------------------------------	-----



”کامو! باہر آگستاخ! تیری چڑی اڈھیڑ کر بھس نہ بھر دادوں تو سردار نہیں، تیری یہ مجال،

میرے سامنے سر اٹھا کے باتیں کرے، جانتا نہیں میں کون ہوں؟“

”شور کیوں مچا رہے ہو؟“ کامو جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ لہجہ نہایت نرم تھا۔

”جو تے کہاں ہیں؟“ سردار گر جا۔

”یہ بات تم دیکھے بھی کہہ سکتے ہو۔“ کامو کا لہجہ برقرار تھا: ”میں اونچا تو نہیں سنتا۔“

”بد زبان، منہ پھٹ، میں تیری زبان کھچوا دوں گا۔“

”تم دوسروں کے کب تک محتاج رہو گے۔ کب تک اوروں سے کام کرواتے رہو

گے۔ تم کام کب کرو گے نکلے انسان! کپڑا جولا ہانپنا ہے۔ درزی اسے پیتا ہے، جوتے

موچی بناتا ہے، زیورات ستار بناتا ہے، مالی بنیاں اگاتا ہے، کسان اناج پیدا کرتا ہے،

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد نوشہال جون ۲۰۱۳ عیسوی	۲۳۳
----------	--------------------------------------	-----

لیکن تم کیا کرتے ہو؟“

”ارے! کوئی ہے جو اس سگی، مچھلی بڑھے کو اٹھا کر ندی کے ٹھنڈے پانی میں ایک

غوطہ دے دے، تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آجائے۔“

”تم کسی کو سزا دینے کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہو۔ افسوس ہے تم پر۔ تمہارا

وجود صرف دوسروں کے نل پر قائم ہے۔ آخر ایسے شخص کو جینے کا کیا حق ہے جو ایک ایک چیز

کے لیے دوسروں کا محتاج ہو اور اپنی اس محتاجی پر شرمندہ ہونے کے بجائے فخر محسوس کرتا

ہو، اپنے کو بڑا سمجھتا ہو، رعب جماتا ہو۔“

وہاں خاموشی ہو گئی۔ درخت کے بھی پتے ہلنا بند ہو گئے۔ کامو کی جھونپڑی کے گرد

گاؤں کے لوگوں کی بھیڑ ہو گئی۔ کامو کا چہرہ غصے سے تھمار ہا تھا۔ وہ کہے جا رہا تھا: ”کسان

غلے کے بدلے جولا ہے سے کپڑا، موچی سے جوتے لے سکتا ہے۔ جولا ہا کپڑے کے عوض

غلہ اور ضرورت کی چیزیں خریدتا ہے۔ بتاؤ تم کیا کرو گے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تم کون

سا ہنر جانتے ہو؟ سردار تو ہم میں سے ہی کوئی ہو سکتا ہے، کیوں کہ ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ

کوئی ہنر جانتا ہے اور تم..... تم تو صرف چیخا، چلانا، گر جتا اور حکم دینا جانتے ہو۔ سردار تمہارا

باپ بھی تھا اور تمہارا دادا بھی، لیکن وہ اس کے اہل تھے۔ وہ ہم سے زیادہ محنتی، جفاکش،

نڈر اور بے باک تھے۔ وہ اپنے کھیتوں میں سب سے زیادہ اناج اگاتے تھے۔ وہ گاؤں

کے غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ہم آج بھی ان کے احسان مند ہیں، ان کے گن گاتے

ہیں۔ آج سے ہم گاؤں والے تمہیں اپنا سردار نہیں مانتے۔ ہم ایک بے ہنر انسان کو

اپنا سردار نہیں بنا سکتے۔ یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے۔“

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ عیسوی ۲۳۳

خاص نمبر





سردار سر جھکائے خاموشی سے ستار ہا۔ گویا اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ لوگ بالکل خاموش تھے۔

کامواپنی جھونپڑی میں چلا گیا تو سردار کچھ سوچتا ہوا اپنی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ ہوا تیز رفتار سے چلنے لگی۔ گنگنانے لگی۔ درخت کے پتے خوشی میں آ کر جھومنے لگے۔ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اس طرح چھپھانے لگے گویا وہ کامو کے حق میں تعریف کے گیت گار رہے ہوں۔


دوسری صبح گاؤں کے لوگوں نے دیکھا سردار اپنے کندھوں پر ایل لادے، بیلوں کی جوڑی بانگتا ہوا اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا ہے۔

☆

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ عیسوی	۲۳۵
----------	--------------------------------------	-----

ایک ٹانگ کا بادشاہ

سیدہ عین قاطرہ عابدی



ایک بادشاہ کو شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ آئے دن اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ آس پاس کے جنگلوں میں جاتا اور ہرنوں، ہرنیوں اور دوسرے جنگلی جانوروں کا شکار کھیلا کرتا تھا۔

اس بادشاہ کو گھوڑے پالنے کا بھی بہت شوق تھا، جہاں کوئی چاق چوبند اور پھرتیلا گھوڑا دیکھ لیتا جھٹ اس کے مالک سے منہ مانگی قیمت پر خرید لیتا۔

ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اس بادشاہ کے دربار میں عرب سے گھوڑوں کا ایک سوداگر آیا، بادشاہ کی خدمت میں جھک کر آداب بجالایا اور عرض کیا: ”حضور! غلام ایک

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ عیسوی

۲۳۷

گھوڑا لایا ہے۔ ایسا پھر تیتلا کہ پل بھر کو اس کے پاؤں زمین پر نہیں تکتے، آنکھ کے اشارے پر ہوا سے باتیں کرنے لگتا ہے، لیکن حضور! اس میں ایک نقص ہے کہ یہ مزاج کا بہت کڑوا ہے کسی کو اپنے پاس پھینکنے نہیں دیتا۔ ہر وقت دولتیاں چلایا کرتا ہے، اگر اس گھوڑے کو لینا چاہیں تو غلام حاضر کر سکتا ہے۔“

بادشاہ نے ہنس کر کہا: ”میاں سوداگر! تم بے فکر ہو کر اپنا گھوڑا لے آؤ، یہاں بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیا گیا ہے۔“

دوسرے دن عرب سوداگر گھوڑا لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گھوڑے کو دیکھ کر بادشاہ کی باچھیں کھل گئیں۔ ایسا خوب صورت اور پھرتیلا گھوڑا بادشاہ نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ خوش ہو کر سوداگر کو انعام سے مالا مال کر دیا اور گھوڑا اپنے اصطلیل میں بھجوا دیا اور کہا: ”کل ہم اس گھوڑے پر سوار ہو کر امیروں، وزیروں کے ساتھ شکار کھینے جائیں گے۔“

دوسرے دن صبح سویرے بادشاہ اپنے نئے گھوڑے پر سوار امیروں، وزیروں کے ساتھ شکار کھینے گیا۔ کچھ دیر تو خیر گزری، لیکن جب بادشاہ ایک شیر شکار کر رہا تھا تو یکا یک شیر بادشاہ کی طرف جھپٹا۔ اچانک شیر کے جھپٹنے سے بادشاہ کا عربی گھوڑا بھڑک اٹھا اور بادشاہ کوزمین پر بیخ کر سر پٹ دوڑ گیا۔ جب تک بادشاہ کے ساتھی مدد کو پہنچتے شیر نے اپنے تیز دانتوں سے اس کی بانہیں ٹانگ چبا ڈالی۔ پھر بھی بادشاہ نے ہمت کر کے شیر کی گردن پر تلوار سے وار کیا تو وہ بھاگ گیا۔

وزیر، بادشاہ کو اٹھا کر محل میں لائے اور حکیموں کو بلایا۔ انھوں نے اپنی پوری کوشش کر ڈالی، لیکن بادشاہ کی ٹانگ کے زخم نہ بھرے۔ آخر سب نے یہی فیصلہ کیا کہ بادشاہ کی



جان اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ ٹانگ کاٹ دی جائے۔

ٹانگ کٹنے کے تھوڑے ہی دنوں بعد زخم بھر گیا اور بادشاہ صحت یاب ہو گیا، لیکن ٹانگ کٹ جانے کا اس کو بہت رنج تھا۔ اب وہ ہر وقت اُداس رہتا، نہ کہیں جاتا نہ آتا۔ ہر وقت اپنے کمرے میں پڑا سوچتا رہتا کہ کہیں سے وہ شیر مل جائے تو میں بھی اس کی ٹانگ کاٹ لوں۔ بادشاہ کو سب سے بڑا غم یہی تھا کہ شیر نے اس کی ٹانگ چبائی ہے۔

بادشاہ کی ایک خوب صورت بیٹی بھی تھی۔ اس کا نام مہ جیس تھا۔ یہ اپنے باپ کا دل بہلانے لگنٹوں اس کے سر ہانے بیٹھی رہتی اور بتا رہا تھا کہ اپنی بیٹی سے اس کو گیت سنایا کرتی، لیکن اس کا غم کسی طرح دور نہ ہوتا تھا۔

بادشاہ کے محل سے کافی دور ایک پہاڑی تھی، اس پر ایک بوڑھا رہتا تھا، جو بہت

عقل مند تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے اور اپنی اپنی مصیبتیں اور پریشانیاں بیان کرتے اور یہ طرح طرح کے مشورے دے کر ان کے مسائل حل کیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیروں نے سوچا کہ اس عقل مند بوڑھے کو بلانا چاہیے، شاید یہ بادشاہ کا غم دور کر سکے۔

بوڑھا بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا: ”بڑے میاں! تم میرے ملک میں سب سے زیادہ عقل مند شخص ہو، اگر تم کسی طرح میرا غم دور کر دو تو میں تم کو آدھی سلطنت دے دوں گا۔“

بوڑھے نے مسکرا کر کہا: ”حضور! میں پہاڑی پر ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتا ہوں۔ تخت تاج لے کر کیا کروں گا اور پھر میری عمر بھی اسی برس کی ہو چکی ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ اپنے ملک میں منادی کروادیں کہ جو کوئی بادشاہ سلامت کی ٹانگ کے بدلے میں ٹانگ لائے گا اسے آدھی سلطنت دے دیں گے اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔ ممکن ہے کوئی ایسا عقل مند شخص نکل آئے جو حضور کی خواہش پوری کر دے۔“

یہ سن کر بادشاہ خوشی سے اُچھل پڑا اور بولا: ”مجھے تمہاری رائے بہت پسند آئی ہے۔ میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔“

دوسرے دن بادشاہ نے سارے شہر میں منادی کروادی کہ جو کوئی ہمارے لیے ٹانگ لے آئے گا، ہم اسے آدھا تخت تاج دے دیں گے اور اپنی بیٹی سے بھی اس کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔

یہ منادی سن کر سیکڑوں لوگوں کا دل لپچایا اور وہ جلد جلد ٹانگیں بنا کر بادشاہ کے محل کے سامنے جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے چلا چلا کر کہنے لگے: ”بادشاہ

سلامت کے لیے ٹانگ حاضر ہے۔“ ہر شخص کی یہ کوشش تھی کہ میں سب سے پہلے بادشاہ کے سامنے پیشپوں اور اپنی بنائی ہوئی ٹانگ پیش کر کے انعام حاصل کروں۔ آنے والے لوگوں نے اتنا شور مچا رکھا تھا کہ محل کے ملازموں نے انھیں ڈانٹ کر کہا: ”اگر تم لوگ خاموش نہ ہوئے تو ہم ابھی تم سب کے سر اڑا دیں گے۔“

آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ انھیں ایک ایک کر کے ہمارے سامنے لے آؤ۔

پہلا شخص بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوا اور وہ لکڑی کی ٹانگ دکھا کر کہنے لگا:

”بادشاہ سلامت! ذرا اس ٹانگ کو تو آزمائیے، اگر ٹھیک نہ آئے تو میں اپنی ناک کٹوا دوں گا۔“

جب بادشاہ نے اسے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ پر لگایا تو وہ ایسی بھاری نکلی کہ بادشاہ کو ہلنا

جلنا دو بھر ہو گیا۔ اس نے غصے سے آگ بگولا ہو کر وہی لکڑی کی ٹانگ اٹھا کر اس کے سر پر

دے ماری اور وعدے کے مطابق اس کی ناک کاٹ لی گئی۔

دوسرا شخص ٹین کی بنی ہوئی ٹانگ لایا، لیکن جب بادشاہ نے اسے کٹی ہوئی ٹانگ

پر لگایا تو وہ وہیں پھنس گئی۔ ٹانگ لانے والے کے چہرے پر ہوا میاں اڑنے لگیں۔ اس

نے اور بادشاہ نے بہت کوشش کی کسی طرح یہ ٹین کی ٹانگ اتر آئے، لیکن کچھ کام یا بی نہ

ہوئی۔ آخر لوہار کو بلوایا گیا اور اس نے بادشاہ کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلوایا۔ اس پر

بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کے گلے میں یہی ٹین کی ٹانگ باندھ کر اسے بطنوں والے

تالاب میں پھینک دو۔

اس کے بعد دوسرے لوگ پیش ہوئے۔ ان میں کوئی روئی اور کپڑے کی ٹانگ

بنا کر لایا تو کوئی بانس کی۔ غرض طرح طرح کی ٹانگیں بادشاہ کے سامنے پیش کی گئیں، لیکن

ان کے لانے والوں کا بھی بُرا حال کر دیا گیا اور انھیں دھکے دے کر محل سے نکال دیا گیا۔ اب پھر سے بادشاہ خاموش اور اُداس رہنے لگا۔ سارا دن غم کی صورت بنا تخت پر بیٹھا رہتا تھا۔ نہ کسی سے بات کرتا نہ کہیں آتا جاتا۔ ہر وقت فکر میں ڈوبا رہتا، اسی طرح کئی مہینے بیت گئے، مگر اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ بھی نہیں آئی، ہنسنا تو دور کی بات ہے۔ آخر حکیموں اور ویدوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر بادشاہ اسی طرح غم کھاتا رہے گا تو تھوڑے ہی دنوں میں بڑھ حال ہو کر ختم ہو جائے گا۔

ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک خوب صورت نوجوان شہزادہ آیا اور بادشاہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت بادشاہ کی بیٹی مہ جیس بھی پاس ہی ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھی تھی۔ وہ شہزادے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ شہزادے نے کہا: ”بادشاہ سلامت! غلام کو آپ کے دکھ کا سبب حال معلوم ہے۔ کل آپ اپنے سب امیروں، وزیروں کو اپنے پاس بلا لیں۔ اس وقت میں حضور کی خدمت میں ایک سچ مچ کی ٹانگ پیش کروں گا۔ لکڑی، ٹین، کپڑے کی ایسی واہیات ٹانگ نہیں، بلکہ خون اور گوشت کی بنی ہوئی ایک ٹانگ۔ ایک ایسی ٹانگ جسے دیکھ کر آپ کا غم دور ہو جائے گا۔“

بادشاہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اُٹھیں: ”سچ کہتے ہو؟“

شہزادے نے کہا: ”ہاتھ کٹگن کو آرسی کیا ہے، کل حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔“ یہ کہہ کر شہزادے نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور دربار سے چلا گیا۔

دوسرے دن بادشاہ نے اپنے سب امیروں، وزیروں کو بلا لیا۔ اس کی بیٹی مہ جیس کل کی طرح آج بھی اس کے پاس ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھ گئی اور سب لوگ بڑی

بے صبری سے شہزادے کا انتظار کرنے لگے۔

تھوڑی دیر بعد شہزادہ دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا بکس تھا۔ وہ بادشاہ کے تخت کے پاس پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا: ”بیجے بادشاہ سلامت! یہی وہ گوشت اور خون کی بنی ہوئی ٹانگ ہے، جس کا میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا۔“ یہ کہہ کر اس نے بکس کھولا اور ایک شیر کی ٹانگ نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ تمام دربار پر سناٹا چھا گیا۔ امیروں، وزیروں کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس نے شہزادے کی طرف غصے کی نظروں سے دیکھا۔

شہزادے نے کہا: ”بادشاہ سلامت! یہ اسی شیر کی ٹانگ ہے جس نے آپ کی ٹانگ چبائی تھی۔“ ایک دم ہی بادشاہ کا سارا غصہ اتر گیا اور اس نے زوردار قبضہ لگایا۔ یہ دیکھ کر دربار کے سب لوگ پہلے تو بہت حیران ہوئے، مگر جب انہوں نے بادشاہ کو ہنستے دیکھا تو خود بھی ہنسنے لگے۔ بادشاہ کی بیٹی مہ جیس کا یہ حال تھا کہ ہنسی کے مارے اس کی پیٹ میں تل پڑ گئے۔

بادشاہ نے کہا: ”اے نوجوان شہزادے! تم نے جس ہوشیاری اور عقل مندی سے شیر سے میرا انتقام لے لیا ہے، میں اس کی تمہیں داد دیتا ہوں اور اب میں کبھی بھی ادا اس اور غمگین نہ رہوں گا۔ جلد ہی تمہاری شادی مہ جیس سے ہو جائے گی۔“ دوسرے دن شہزادے اور مہ جیس کی شادی ہو گئی۔ اس روز بادشاہ نے اپنے سب امیروں، وزیروں کی دھوم دھام سے دعوت بھی کی۔

☆☆☆

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ء ۲۳۳
خاص نمبر

مٹی کا روشن دیا

مسعود احمد برکاتی

وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ وہ درزی کا کام کرتے تھے، مگر وہ بھی دل لگا کر نہیں۔ انھیں بیٹے کو بھی تعلیم دلانے سے دل چسپی نہیں تھی۔ ان کا غصہ بہت تیز تھا۔ انھوں نے کئی بار بیٹے کی کتابیں غصے ہو کر بھٹی میں جلانے کی کوشش کی۔ دلاور کی ماں بھی پڑھی لکھی نہ تھیں، ہاں قرآن شریف پڑھ سکتی تھیں اور روزانہ صبح پابندی سے پڑھتی تھیں، لیکن وہ ایک نیک، خدا ترس، خدمت گزار اور ایثار پیشہ خاتون تھیں۔ انھوں نے پوری زندگی اپنے سسرال کے ہر فرد کی خدمت کرنے میں صرف کی۔ وہ پہلے گھر کے ہر آدمی کو کھلاتیں، پھر جو بیچ جاتا اس سے اپنا پیٹ بھرتیں۔ گھر والوں کے لیے تازہ روٹیاں پکاتیں، خود باسی روٹی سے پیٹ بھرتیں۔

دلاور کی دادی نے پوتے کو پہلے ایک بڑھی کے سپرد کیا کہ اسے بھی اپنی طرح استاد بناؤ، لیکن مستقبل کا یہ مشہور ادیب چند دن سے زیادہ بڑھی استاد کی شاگردی نہ کر سکا اور ایک دن اس کے ٹخے کی چلم توڑ کر جو آیا تو پھر واپس نہ گیا۔ اس کے بعد دادی اس کو ایک لوہار کے سپرد کر آئیں، مگر دلاور کی نازک سی جان پر رحم کھا کر اور ہتھوڑے چلانے کا اہل نہ سمجھ کر لوہار نے ساتویں روز خود ہی اس کو رخصت کر دیا۔

آخر دلاور کے پھوپھا کو رحم آیا تو انھوں نے اس کو میونسپلٹی کے ایک اسکول میں داخل کر دیا۔ دلاور کے دادا پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن ان کی اولاد علم کے دانے نہ چک سکی تھی۔ دادا کے بعد پوتے دلاور کے نصیب میں تھا کہ وہ علم کے موتی چن سکے۔ ماں نے ایک سفید

کپڑے کو نیلا رنگ کر اس کا بستہ بنا دیا اور اس میں ایک قاعدہ، سلیٹ، قلم اور کاپی ڈال دی اور پہلے دن اسکول جاتے وقت بیٹے کا ماتھا چوما اور اپنے دوپٹے سے کھول کر دوپٹے ہاتھ پر ڈھر دیے اور رخصت کرتے وقت کہا: ”دلور! گند بکنا نہ کھانا، تانگے گھوڑے سے بچ کر چلنا۔“

خود علم کی نعمت سے محروم ماں کو جہالت کے اندھیرے کا خوب اندازہ تھا۔ وہ علم سے محروم تھی، مگر علم کی محبت سے محروم نہ تھی۔ علم نہ ہونا جہالت ہے، لیکن اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ جاہل ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا علم ہے جو آدمی یہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، میں اس کو جاہل نہیں کہتا۔ کم سے کم آدھا علم تو اس کو حاصل ہے۔ درزی کا بیٹا، بوھٹی اور لوہار کی دکانوں سے ناکام واپس آ جانے والا ”چوہے کی طرح کم زور“ دلاور علم کے راستے پر چلنے لگا۔ دلاور پرائمری سے ہائی اسکول اور وہاں سے کالج آیا۔ دل لگا کر پڑھا۔ یکسوئی سے امتحانات دیے۔ اس کو خوش قسمتی سے اچھے اچھے استاد بھی ملے اور لائق ساتھی بھی، جن میں بہت سے آگے چل کر خود مشہور ادیب بنے۔

دلاور کو اسکول کے زمانے ہی سے شاعری اور ادب کا شوق ہو گیا تھا۔ وہ نظمیں بھی لکھتا تھا اور کہانیاں بھی۔ اس کی تحریریں رسالوں میں بھی چھپنے لگی تھیں۔ ماں کے حوصلہ بڑھانے سے دلاور میں تعلیم کا شوق اور استادوں کے دل بڑھانے سے ادب کا ذوق بڑھتا گیا۔ یہ کم زور جسم والا لڑکا جلد ہی تعلیم سے فارغ ہو کر ادیب اور مدیر بن گیا اور مرزا ادیب کے نام سے ملک میں مشہور ہوا۔ جب اس کی پہلی کتاب ”صحرا نور کے خط“ شائع ہوئی تو میرزا ادیب نے اس کا انتساب اپنی ماں کے نام کیا اور جب ایک پڑوسی نے ماں کو یہ بات بتائی تو ماں کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ انھوں نے پوچھا: ”دلور! تُو نے میری

ماہ نامہ ہمدرد نوںہال جون ۲۰۱۴ عیسوی ۲۳۶

خاص نمبر

WWW.PAKSOCIETY.COM

کتاب لکھی ہے؟“

ادیب بیٹے کی سادہ دل ماں یہ تو نہیں سمجھ سکی کہ کوئی مصنف اپنی کتاب اُس شخصیت کے نام منسوب کرتا ہے جس سے اُسے فیض پہنچا ہوتا ہے، مگر اس کو اس پر اطمینان اور فخر ضرور ہوا کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ گیا ہے اور نام والا بھی ہو گیا ہے۔

میرزا ادیب ”ادب لطیف“ کے مدیر ہے۔ ادب لطیف ان کے زمانے میں بڑا اہم ادبی رسالہ تھا۔ اس کو انھوں نے پندرہ سولہ سال تک مرتب کیا اور ادبی رسالوں کی صفِ اول میں کھڑا کر دیا۔ میرزا صاحب ریڈیو میں بھی عرصے تک رہے اور ریڈیو کے لیے بہت لکھا، مگر افسوس ان کی صحیح قدر و عزت نہ ہوئی۔ میرزا ادیب کی اب تک کوئی پچاس کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں افسانوں کے مجموعے، ڈراموں کے مجموعے، خاکے، ترجمے، ترجمیں اور بچوں کی کتابیں شامل ہیں۔ انھوں نے اب تک بچوں کی ۲۳ کتابیں لکھی ہیں۔ بچوں کے لیے لکھنا بہت مشکل کام ہے، مگر بہت بڑی خوبی بھی ہے، اس لیے کہ ہمارے اکثر ادیبوں نے صرف اپنی ابتدائی زندگی میں بچوں کے لیے لکھا، جب ذرا شہرت مل گئی تو وہ بچوں کو بھول گئے اور انھوں نے بچوں کے ادب کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، کیوں کہ بچوں کے لیے لکھنے والے کو شاید بڑا ادیب نہیں سمجھا جاتا، لیکن میرزا ادیب کی بڑائی یہ ہے کہ وہ اب تک بچوں کے لیے بھی اسی محبت سے لکھتے ہیں جس محبت سے بڑوں کے لیے لکھتے ہیں۔ وہ ایک خاموش، شریف اور سادہ دل انسان ہیں۔ اردو ادب کی پچاس سال سے مسلسل خدمت کر رہے ہیں۔

میرزا ادیب کی بعض کتابوں کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ ”صحرا نورد کے

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ء	۲۳۷
----------	---------------------------------	-----

خطوط "دس بار" صحرا نورد کے رومان "گیارہ بار اور بچوں کی ایک کتاب" "تیس مارخان" سولہ بار شائع ہو چکی ہے۔ صرف وہی کتاب زندہ رہتی ہے جس میں جان ہو۔ جس کتاب میں زندہ رہنے والی کوئی خوبی نہ ہو وہ کتنی ہی خوب صورت چھپے اُسے کچھ دن میں ہی لوگ بھول جاتے ہیں۔ معلوم ہے کتاب کو زندہ رکھنے والی خوبی کیا ہے؟ وہ خوبی یہ ہے کہ تحریر میں انسانوں سے محبت اور اُن کے دکھ درد کا سچا اظہار ہو اور اپنی تہذیب اور تاریخ کی محبت کے ساتھ ساتھ زندگی کو سنوارنے اور آگے لے جانے کا جذبہ اور شعور ہو۔ جن تحریروں اور کتابوں میں یہ خوبی ہوتی ہے ان کے لکھنے والے بھی زندہ رہتے ہیں، چاہے لوگ ان کو کچھ دیر میں پہچانیں۔ میرزا ادیب جیسے بھلے انسان اور اچھے ادیب کے ساتھ بڑوں نے نا انصافی کی، مگر مجھے یقین ہے کہ بچے ان کو فراموش نہیں کریں گے۔ افسانے، ڈرامے اور ادبی صحافت کے علاوہ بچوں کے ادب کی تاریخ میں بھی میرزا ادیب کا نام مدہم حروف سے نہیں لکھا جائے گا۔ جس بچے نے آنکھ کھولی تو گھر میں مٹی کا دیا جلتا ہوا پایا، وہ بڑا ہو کر ادب کے چراغ روشن کرنے لگا۔ روشن کر رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ روشن کرے گا۔ اس کا نام بھی روشن ہی رہے گا۔

میرزا ادیب نے اپنی زندگی کے سچے سچے حالات ایک کتاب "مٹی کا دیا" میں لکھے ہیں۔ بڑی مفید اور مزے دار کتاب ہے۔ اسی لیے میں نے اس مضمون کا عنوان مٹی کا روشن دیا رکھا ہے۔ میرزا صاحب ۳- اپریل ۱۹۱۳ء کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال ۳۱ جولائی ۱۹۹۹ء کو ہوا۔ (جب پہلی بار یہ مضمون ہمدرد نونہال ستمبر ۱۹۸۳ء میں چھپا تھا تو میرزا ادیب صاحب نے اسے بہت پسند کیا تھا۔



تمھاری گونگی ہوشیاری اور خاموش چالاکی کی وجہ سے گھر جہنم بنتا جا رہا ہے۔"

موسلہ: سمیرہ محمد شاہد، نئی کراچی

نوکر: "صاحب! آپ کی رومی کی

نوکرہ سے سو رہے کا نوٹ ملا ہے۔"

مالک: "اسے پھینک دو، وہ جعلی ہے۔"

نوکر: "میں بھی تو آپ کو اسی لیے

بتا رہا ہوں۔"

موسلہ: انصر علی، وہاڑی

تین بے وقوف ایک موٹر سائیکل پر

جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ٹریفک پولیس کے

اہلکار نے رکنے کا اشارہ کیا۔

بے وقوف موٹر سائیکل روکے بغیر بولا:

"پاگل ہو گئے ہو کیا تم، کہاں بیٹھو گے؟"

موسلہ: علینہ وسیم، کراچی

بلدیاتی الیکشن کا ایک امیدوار فٹ بال

میچ میں مہمان خصوصی بنا۔ میچ ختم ہونے پر

اس نے کہا: "مجھے افسوس ہے کہ دونوں

ایک طالب علم ایم اے کا داخلہ فارم

یونیورسٹی میں جمع کرا کے باہر نکلا اور چٹڑی

سے پوچھا: "یہ یونیورسٹی کیسی ہے؟"

چٹڑی نے جواب دیا: "بہت اچھی

یونیورسٹی ہے، میں نے خود یہیں سے

ایم اے کیا تھا۔"

موسلہ: تحریم خان، نارنگ پور کراچی

بچہ باپ سے: "ابو! میں کل اسکول نہیں

جاؤں گا۔"

باپ: "کیوں بیٹا؟"

بچہ: "آج اسکول میں استاد نے ہمارا

وزن کیا تھا۔"

باپ: "تو کیا ہوا؟"

بچہ: "آج وزن کیا ہے، کھل بیچ دیا تو!"

موسلہ: محمد سلمان اقبال، لاہور

بیوی پندرہ منٹ تک اپنے خاموش شوہر

پر بلند آواز سے گرجنے کے بعد بولی: "میں

لڑائی ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن

😊 کراے کے مکان کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا کہ یہ مکان صرف ان لوگوں کو ملے گا جن کے گھر کوئی بچہ نہیں ہوگا۔

بورڈ دیکھ کر ایک بچہ مالک مکان کے پاس آیا کہنے لگا: ”یہ مکان مجھے دے دیں، کیوں کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے۔ البتہ دو ماں باپ ہیں۔“

مسئلہ: سمیہ طالب قریشی، نواب شاہ
 😊 ایک صاحب نے ہوٹل میں چرغے کا آرڈر دیا۔ چرغہ آیا تو اُسے چکھنے کے بعد انہوں نے دوبارہ ویٹر کو بنایا اور پوچھا: ”تمہارے ہاں چرغہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے، آگ پر یا گیس پر؟“

”ہمارے ہاں چرغہ بجلی کے ذریعے پکایا جاتا ہے جناب؟“ ویٹر نے ادب سے جواب دیا۔
 ”ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ اور دو تین جھٹکے اور لگا کر لے آؤ۔“

مسئلہ: عنقلمت حیات، پنڈو ادن خان
 😊 بچہ گھر سے ڈانٹ کھا کر اسکول جا رہا

نہیں ایک ہی فٹ بال کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ آپ مجھے ووٹ دیں، میں ہر کھلاڑی کو الگ الگ فٹ بال دوں گا۔“

مسئلہ: سمیہ وسیم، سکھر
 😊 ایک صاحب نے اپنے بے حد موٹے دوست سے کہا: ”تم جیسے موٹے آدمی عام طور پر بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ انہیں بُرا بھی کہو تو ہنس کر نال دیتے ہیں۔“

موٹے دوست نے جواب دیا: ”اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے لڑنا اور بھاگنا دونوں ہی مشکل کام ہوتے ہیں۔“

مسئلہ: نام، جگہ نامعلوم
 😊 مالک: ”کام کرتے کرتے تم بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟“

ملازم: ”جی نہیں، اس سے پہلے میں تین سال ایک جگہ رہا اور بالکل نہیں بھاگا۔“
 مالک: ”تین سال تک کہاں کام کرتے رہے؟“

ملازم: ”جیل میں۔“
مسئلہ: محمد طارق قاسم، نواب شاہ

تھا۔ راستے میں کسی نے پوچھا: "بیٹا! بیماری ہے۔"

پڑھتے جا رہے ہو؟

بچہ غصے سے: "نہیں، اسکول کی

یونی فارم پہن کر تھانے جا رہا ہوں۔"

مسئلہ: دیپاکھتری، میرپور خاص

مسئلہ: راؤ محمد طاہر وقار، ملتان

😊 ایک دوست نے دوسرے دوست سے

پوچھا: "بھئی تمہارا بیٹا انگلینڈ میں کیا کام

کرتا ہے؟"

دوسرے نے جواب دیا: "وہ انگلینڈ

میں D.C ہے۔"

پہلے نے حیران ہوتے ہوئے کہا: "ایک

پاکستانی انگلینڈ میں D.C کیسے ہو سکتا ہے؟"

دوسرے نے جواب دیا: "بھئی

D.C کا مطلب ہے ڈش کلیئر۔"

مسئلہ: روینہ ناز، کراچی

😊 ایک آدمی نے دوسرے سے افسوس کا

اظہار کرتے ہوئے کہا: "بھائی! بہت دکھ

ہوا تمہارے ابا کے انتقال کا سن کر، انھیں

کون سی بیماری تھی؟"

دوسرا بولا: "بھائی! بڑھا پا خود ایک

😊 ایک ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں ہمیشہ

کون سی بیماری تھی؟"

دوسرا بولا: "ہاں بھائی! یہ بہت خطرناک

بیماری ہے۔"

بیماری ہے، پچھلے دنوں کئی بچے اسی خطرناک

بیماری سے مر گئے تھے۔"

WWW.PAKSOCIETY.COM

WWW.PAKSOCIETY.COM

😊 ایک بچے نے اپنے والد سے پوچھا:
 ”ابو! کیا ہم ہوائی جہاز میں بیٹھ کر اللہ
 میاں کے پاس جاسکتے ہیں؟“

باپ: ”اللہ کے پاس تو ہم کار میں بیٹھ
 کر بھی جاسکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کار
 تمہاری امی چلا رہی ہوں۔“

مسئلہ : عائشہ ذوالفقار علی، سرجانی ٹاؤن
 😊 ایک کنجوس آدمی نے اپنے پسندیدہ
 رسالے کے ایڈیٹر کو خط بھیجا: ”اگر آپ نے
 اپنے رسالے میں کنجوسوں کے متعلق لطیفے
 شائع کرنا بند نہ کیے تو میں اپنے ہمسائے سے
 آپ کا رسالہ مانگ کر پڑھنا بند کر دوں گا۔“

مسئلہ : ماہ نور واد محمد بلوچ، ٹنڈوالہیار
 😊 تین آدمی نشہ کر کے ٹیکسی میں بیٹھے۔
 ٹیکسی والے نے ٹیکسی اشارٹ کر کے
 تھوڑی دیر بعد بند کر دی اور بولا: ”لو
 صاحب! پہنچ گئے۔“

پہلے نے کہا: ”شکر یہ۔“
 دوسرے نے پیسے دیے اور تیسرے
 نے ڈرائیور کو تھپڑ مار دیا۔

اپنے بل کی رقم کا خیال رہتا تھا۔ ایک مریض
 نے ان سے پوچھا: ”ڈاکٹر صاحب! کھجلی
 اور الرجی میں کیا فرق ہے؟“

ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا: ”زیادہ
 نہیں صرف ۳۰۰ روپے کا فرق ہے۔“

مسئلہ : مدثر خان آفریدی، قصبہ کالونی
 😊 ایک بے وقوف آدمی دوست سے
 بولا: ”کل کوئی میرا پرس لے گیا، جس میں
 دو ہزار روپے تھے۔“

دوست نے کہا: ”جھوٹ، پندرہ سو
 روپے تھے۔ میں نے گھر جا کر گنے تھے۔“
 پہلے نے کہا: ”ارے، پیسوں کا مسئلہ
 نہیں ہے، تم صرف چور کا پتا کرو۔“

مسئلہ : اسرئی خان، کراچی
 😊 اسکول میں ایک بچے کی سمجھ میں نہیں
 آرہا تھا کہ وہ چھٹی کے لیے کیا بہانہ
 کرے۔ کافی دیر بعد اس نے استاد سے
 کہا: ”سر! کل میرے دادا کی شادی ہے،
 اس لیے میں اسکول حاضر نہ ہو سکوں گا۔“

مسئلہ : حنا واد محمد بلوچ، ٹنڈوالہیار

ڈرائیور سمجھا کہ اس کو پتا چل گیا ہے۔
بولاً: ”کیا ہو گیا صاحب!“

اس نے جواب دیا: ”اتنی تیز نہ چلایا
کرو، کسی دن ٹکر ہو جائے گی۔“

موسلہ: عمرا جمل شاہین انصاری، لاہور
ٹینجر، لائبہ سے: ”اے بی سی سناؤ۔“

لائبہ: ”اے بی سی۔“

ٹینجر: ”اور سناؤ۔“

لائبہ: ”اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں۔“

موسلہ: نادیہ اقبال، کراچی

😊 ایک بچہ رو رہا تھا۔ باپ نے رونے
کی وجہ پوچھی تو بچے نے کہا: ”پہلے ایک رپیا
دیجیے، تب بتاؤں گا۔“

باپ نے جلدی سے رپیا دیا اور کہا:
”بتاؤ، کیوں رو رہے تھے؟“

بچے نے کہا: ”میں اس رپے کے لیے
ہی رو رہا تھا۔“

موسلہ: انصی جاوید انصاری، ساکنہ

😊 دروازے کی سیڑھیوں پر ایک بچے کو
بیٹھا دیکھ کر ایک گشتی سبز مین نے پوچھا:

”تمہاری امی گھر پر ہیں؟“

”ہاں۔“ بچے نے جواب دیا۔

سیلز مین: ”دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتا
رہا، مگر کوئی باہر نہ آیا۔ سبز مین نے غصے سے
بچے کی طرف دیکھا اور کہا: ”تم تو کہہ رہے
تھے کہ تمہاری امی گھر پر ہیں۔“

”ہاں، میری امی گھر پر ہیں، لیکن یہ
گھر میرا نہیں ہے۔“ بچے نے معصومیت
سے جواب دیا۔

موسلہ: واجد گینوی، کراچی

😊 ملزم نے وکیل سے کہا: ”کوشش کرنا کہ
مجھے عمر قید ہو جائے، مگر سزائے موت نہ ہو۔“
وکیل: ”تم فکر نہ کرو۔“

کیس کے بعد ملزم نے پوچھا: ”کیا ہوا؟“
وکیل: ”بڑی مشکل سے عمر قید ہوئی
ہے، ورنہ عدالت تو رہا کر رہی تھی۔“

موسلہ: نذیب بیگ اسلام، فیصل آباد

😊 ایک بہت موٹا آدمی ڈاکٹر کے پاس
دبلا ہونے کی دوا لینے گیا۔ ڈاکٹر نے
پوچھا: ”تم ناشتے میں کیا کھاتے ہو؟“

😊 ایک مسافر شہر میں نیا نیا آیا اور ایک ہوٹل میں جا بیٹھا۔ بیرے نے آکر پوچھا تو اس نے کہا: "ایک پلیٹ تلی ہوئی مچھلی اور ہمدردی کے دو بول بس۔"

بیرا خاموشی سے چلا گیا۔

تھوڑی دیر بعد بیرے نے مچھلی کی پلیٹ لا کر میز پر رکھی اور مسافر کے کان میں کہنے لگا: "مچھلی نہیں کھانا، باسی ہے۔"

مسئلہ : انا بیہ سو بدار، حیدر آباد

😊 شیرنی نے غار کے اندر سے اپنے بچے کو پکارا: "بیٹا! کیا کر رہے ہو؟"

شیر کے بچے نے جواب دیا: "امی! میں ہرن کے ساتھ درخت کے گرد چکر لگا رہا ہوں۔"

یہ سن کر شیرنی نے کہا: "بیٹے! میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ رزق کے ساتھ کھیلنا نہیں کرتے۔"

مسئلہ : سیدہ اریہ بٹول، کراچی

☆☆☆

اس نے جواب دیا: "پندرہ پرائٹے اور دس چائے کے کپ۔"

ڈاکٹر: "اب تم تین پرائٹے کھا کر ایک کپ چائے پیا کرو۔"

مونا آدمی: "ڈاکٹر صاحب! یہ خوراک ناشتے سے پہلے کھاؤں یا بعد میں۔"

مسئلہ : زائدہ داد محمد بلوچ، ٹنڈوالہیار
😊 راہ گیر نے بھکاری سے کہا: "تم بھیک کیوں مانگتے ہو؟"

بھکاری نے جواب دیا: "یہ دیکھنے کے لیے کہ اس دنیا میں سچی کتنے اور کجوں کتنے ہیں۔"

مسئلہ : الصر علی، وہاڑی

😊 ایک صاحب چلتے چلتے ایک خشک کنویں میں گر گئے اور مدد کے لیے پکارنے لگے تو ایک آدمی نے کنویں میں جھانک کر کہا: "کیا تم اس کنویں میں خود گرے ہو؟"

وہ صاحب جل کر بولے: "نہیں جناب! میں یہاں کھڑا تھا، لوگوں نے میرے ارد گرد دیوار بنا دی۔"

مسئلہ : مدیحہ ذکاء بھٹی، شیخوپورہ

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ عیسوی

۲۵۴

۱۰

وفا دار ہاتھی

حمیرا سید

کریم شہر سے دو ایک تہے میں رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک ہاتھی تھا، جس کی مدد سے وہ شکار کرتا اور شہر میں بیچ دیتا۔ ایک روز کریم شکار کی غرض سے اپنی بیوی اور معصوم بیٹے احمد کو ساتھ لے کر ہاتھی پر سوار جنگل کی طرف نکل گیا۔ جنگل میں ندی سے کچھ دُور اپنا خیمہ لگایا۔ دو پہر کا وقت تھا۔ پانی کے لیے اس کی بیوی باجراں نے مٹی کا ایک گھڑا اٹھایا اور ندی سے پانی لانے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر تک کریم انتظار کرتا رہا۔ جب وہ واپس نہ آئی تو کریم نے اپنے خیمہ ہی سے اُسے بلند آواز سے پکارا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے چلانے سے جنگل میں ہر آواز بند ہو جاتی۔ آواز کی گونج سے چرند پرند سب چپبھانا بھول جاتے۔

کریم کی بیوی باجراں کو گھنے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر وہ ابھی تک پانی لے کر نہیں پلٹی تھی۔ ندی کچھ دُور ہی بہ رہی تھی، مگر ذرا آنکھوں سے اُدبھل ضرور تھی۔ کریم کی پریشانی اب بڑھتی جا رہی تھی۔ کریم نے ندی پر خود جانے کا فیصلہ کیا، تاکہ اپنی بیوی کو ڈھونڈ سکے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے ہاتھی کو ایک پیڑ سے باندھ دیا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھی کے اردگرد اپنے پاؤں سے ایک دائرہ بنایا اور پھر اپنے بیٹے احمد کو اس دائرے میں لٹا دیا۔ احمد ایک سال کا تھا۔

”میرے پیارے ہنسی تو اس کی رکھوالی کرنا۔“

کریم اپنے ہاتھی کو پیار سے ہنسی کہتا تھا۔ کریم نے اس ہاتھی کو بچپن میں اپنے ایک دوست سے خریدا تھا۔ کریم نے ہاتھی کی تربیت شکاری کے طور کی تھی۔ ہنسی گھنے جنگل میں بغیر کسی خوف کے داخل ہو جاتا اور اپنے شکار کا آخروم تک تعاقب کرتا تھا۔ ہنسی کا قد دس فٹ اور وزن چارٹن تھا۔ اس کی موٹی موٹی ٹانگیں کسی بڑے درخت کے تنے کی مانند مضبوط

اور تو اتنا تھیں۔ وہ مقابلے میں کئی بار ریچھوں تک کو پچھاڑ چکا تھا۔

ہنی خاص طور پر اپنے مہاوت کریم اور اس کے نونہال بیٹے احمد کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ جب کریم یا اس کی بیوی حاجراں کو گھر داری کی طرف توجہ دینا پڑتی تو وہ یا کریم اس بھاری بھر کم چوپائے کے آگے زمین پر ایک دائرہ لگا دیتے اور پھر اس میں اپنے بیٹے احمد کو لٹا دیتے تھے۔

کریم ہاتھی کو حکم دیتا کہ وہ احمد کو اس دائرے سے باہر نہ نکلنے دے۔ یہ وفادار ہاتھی جو ایک وفادار ملازم کی طرح تھا، احمد کی رکھوالی کرتا۔ اگر احمد ریٹلتا ہوا اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو وہ اپنی سونڈ سے اُسے آہستہ آہستہ کھسکاتا ہوا مقررہ جگہ پر واپس لے آتا۔ کریم اپنے بیٹے کو اس دائرے میں چھوڑ کر خود ندی کی طرف چل دیا۔

ہنی کی سونڈ کے عین نیچے احمد بڑے مزے سے زمین پر لیٹا ہنی کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں اور ٹانگوں کو ہلا ہلا کر اس کے ساتھ اٹھکیلیاں کر رہا تھا۔ ننھا احمد جو چاہے کر سکتا تھا، مگر جونہی وہ اس مخصوص دائرے سے باہر کھسکنے کی کوشش کرتا، یہ ہاتھی اپنی سونڈ سے اُسے دھکیل کر واپس اُسی جگہ پر پہنچا دیتا۔

ہنی نے اپنی سونڈ میں تھوڑی سی مٹی بھری اور اپنے جسم پر پھیلا دی۔ بعض دفعہ وہ کھیاں اُڑانے کے لیے ننھے احمد پر بھی سونڈ سے تھوڑی سی مٹی بھونک دیتا اور بعض اوقات سبز گھاس کے پتے بھی احمد کے اوپر جا گرتے۔ پیڑ کے ٹھنڈے سائے میں جہاں ہنی بندھا ہوا تھا۔ وہاں ان دونوں ساتھیوں کے لیے وقت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔

وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ دوپہر ڈھلی اور جلد ہی شام کا ڈھندکا شروع ہو گیا اور پھر ہلکے نیلے آسمان نے تاروں بھری چادر اوڑھ لی۔

جنگل کی ہوا میں نکلی آچکی تھی۔ ننھے احمد نے بھوک کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ کریم اور اس کی بیوی حاجراں کا کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ ادھر رات کے بڑھتے

ہوئے اندھیرے میں گیدڑوں کی بھیانک آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ پرندے ڈھلتی شام میں چھپا کر خاموش اپنے گھونسلے میں چلے گئے تھے۔ ابھی تک کریم اور اس کی بیوی کا کوئی پتا نہیں تھا۔ قریب ہی ایک لگڑ بگڑ اپنے غار سے باہر نکلا۔ وہ رات کی تاریکی میں کچھ سوتگھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید اسے کچھ انسانی بومسوس ہو رہی تھی۔ بلاشبہ لگڑ بگڑ مر دار کھاتا ہے، مگر بوقت ضرورت وہ چھوٹی موٹی جان دار چیزوں کو بھی شکار کر لیتا ہے، اب اس لگڑ بگڑ کے ساتھی بھی غار سے باہر نکل آئے تھے۔ جب ان درندوں نے ایک انسانی بچے کے رونے کی آواز سنی تو وہ اپنے خوف ناک دانت نکالتے ہوئے اس آواز کی سمت چل پڑے۔

بڑھتے ہوئے اندھیرے اور خوف ناک آوازوں سے ہنی، ننھے احمد کی طرف سے پریشان ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور کوئی خاص بات ہوئی ہے، جو کریم اور اس کی بیوی اب تک نہیں آئے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے، کچھ گھاس اور پتے اپنی سونڈ میں اٹھائے اور پھر احمد کو ہوا دینے لگا، لیکن اس سے بھی بات نہ بنی۔ احمد تھا کہ چلائے جا رہا تھا۔ اب ہنی نے زور زور سے چٹکھاڑنا شروع کر دیا۔ وہ بلاشبہ کریم اور اس کی بیوی باجراں کو پکار رہا تھا، لیکن اس کوشش میں بھی اسے ناکامی ہوئی۔ اتنے میں ہنی کو لگڑ بگڑ کے اس جوڑے کی بومسوس ہوئی تو وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا اور پھر اپنی سونڈ اٹھا کر مزید بومسوس کرنے لگا۔ یہ تین لگڑ بگڑ تھے۔ وہ اندھیرے میں دکھائی تو نہ دیتے تھے، مگر خاصے قریب آ رہے تھے۔ ہنی نے احمد کو اپنے اگلے پاؤں کے قریب کر لیا اور پھر ایک خوف ناک چٹکھاڑ نکالی، تاکہ وہ درندے ڈر جائیں۔

ہاتھی کے سوتگھنے کی جس بہت تیز ہوتی ہے، جب کہ اس کی نظر کم زور ہوتی ہے، اس لیے ہنی ان درندہ صفت لگڑ بگڑوں کو اندھیرے میں نہ دیکھ سکا۔ جب تک کہ وہ اس کے بالکل قریب نہ پہنچ گئے۔ ان کو دیکھتے ہی وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اپنے پاؤں سے بندھی زنجیر کو زور زور سے کھینچنے لگا۔ ہنی غصہ سے غرآنے اور پھنکارنے لگا۔ اس کی یہ حالت

دیکھ کر لگڑ بگڑ دم بخود ہو گئے۔ ایک تو اس کے پہنچ سے ذرا ڈور ہٹ کر بیٹھ گیا اور اپنی نظریں اس معصوم احمد پر گاڑ دیں اور دوسرے درندے اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ سخت غصے میں آتے ہوئے ہنی نے بیڑ کی جڑ کو ٹکریں مارنا شروع کر دیں۔ وہ اپنی پوری قوت سے بیڑ کو توڑ کر خود آزا ہونا چاہتا تھا، تاکہ ان لگڑ بگڑوں کو مار سکے، مگر وہ کام یاب نہ ہوا، تاہم اس کی کوشش سے بیڑ اپنی جگہ سے کچھ ہل گیا تھا۔ ہنی اپنی ناکامی سے مشتعل ہو کر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اس لگڑ بگڑ کی طرف لپکا، مگر وہ درندہ ایک جست لگا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔

چکر لگانے والے بقیہ دو لگڑ بگڑ ہاتھی کے پیچھے سے ننھے احمد پر حملہ آور ہونے ہی والے تھے کہ ایک دم ہنی ان کی طرف مڑا۔ وہ بھی ایک جست سے اس کی پہنچ سے ڈور ہو گئے۔ ہنی نے بیڑ پر پھر زور آزمائی شروع کر دی۔ بیڑ کڑکڑایا۔ اب احمد بھوک کی شدت سے پوری قوت سے چیخ رہا تھا۔ اپنے ننھے منے ہاتھوں اور پاؤں کی مدد سے گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہنی کی نظر احمد پر پڑی تو بیڑ کو چھوڑ دیا اور سوئڈ کو تیزی سے ہلاتے ہوئے احمد کو اپنے قریب لے آیا۔ اب ہنی بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک طرف بیڑ سے بندھا کھڑا تھا۔ ادھر لگڑ بگڑ بھوکے اور دلیر تھے۔ وہ ان کے قریب آنے لگے۔ وہ بڑے غور سے ہاتھی کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ زنجیر کی لمبائی کو بھی مد نظر رکھے ہوئے تھے۔

ہنی نے اچانک بجلی کی سی تیزی کے ساتھ حملہ کیا اور ایک لگڑ بگڑ کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا۔ اپنی فتح کے جوش میں ہنی چنگھاڑا۔ اس نے اپنی سوئڈ سے اس کی لاش کو ایک طرف پھینک دیا۔ اس حملے سے باقی درندے خوف کے مارے بھاگ گئے اور پھر احمد اور اس کے وفادار ہنی کو چند گھنٹوں کے لیے سکون میسر آ گیا۔ بھوک سے نڈھال ننھا احمد کچی خیمہ میں بسسکیاں بھر رہا تھا۔ اتفاق سے قریب ہی گنے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا تھا۔ ہنی نے اپنی سوئڈ سے گنے کا ٹکڑا اٹھا کر احمد کے منہ کے آگے کیا۔ احمد نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں

www.PAKSOCIETY.COM

سے اُسے پکڑ لیا اور اسے چوسنے لگا اور پھر ہنی کی سانس کی گرمی سے سکون محسوس کرتے ہوئے احمد سو گیا۔ آدھی رات سے کچھ دیر بعد ہنی کو بھی تیند آ گئی۔

صبح چڑیوں کے چہچہانے سے احمد کی آنکھ کھل گئی اور وہ ریٹکنے لگا۔ جب ہنی کی آنکھ کھلی تو احمد ریٹکتا ہوا اسکی پہنچ سے ڈور نکل چکا تھا۔ صبح کی روشنی میں ہاتھی نے کچھ لگڑ بگڑوں کو واپس آتے دیکھا، تو ہنی نے احمد کی طرف دیکھا، جو ان سے کئی گز دور تھا۔ ہنی نے اپنے آپ کو پوری قوت سے کھینچا۔ لوہے کی مضبوط زنجیر کی کڑیاں اس کے پاؤں کی کھال میں دھنس گئیں۔ اس کے ٹخنوں سے خون بہنے لگا۔ لگڑ بگڑوں کو موقع ملا اور وہ تیزی سے احمد کی طرف دوڑے اور اسی لمحے ہنی نے زور سے اپنا پاؤں کھینچا تو بڑا پیڑ ٹوٹ کر ہاتھی اور ننھے احمد کے اوپر آن گرا۔ اس کی چٹختی شاخوں اور پتوں نے دونوں کو اپنے اندر ہتھپالیا۔ یہ دیکھ کر لگڑ بگڑ خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔

ادھر کریم کی بیوی پھسل کر ندی میں گر گئی اور بدحواسی میں تیرتے ہوئے کنارے تک چلی گئی تھی۔ کریم بھی وہاں تک پہنچ گیا تھا، لیکن اس وقت ندی کا پانی کافی چڑھ چکا تھا۔ صبح جب کریم اور اس کی بیوی باجراں ہانپتے کانپتے اپنے خیمے میں واپس آئے تو انھیں صرف گرا ہوا پیڑ اور اس کے نیچے پڑا ہاتھی دکھائی دیا۔ ”اور ان کا ننھا احمد؟“

یہ دیکھ کر دونوں میاں بیوی گھبرا کر پیڑ کی شاخیں توڑ کر ہاتھی تک پہنچے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا معصوم احمد، ہنی کی سونڈ کے قریب بڑے آرام سے سویا ہوا ہے۔ ماں نے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے بیٹے کو جلدی سے اٹھالیا اور پیار کرنے لگی۔ احمد مٹی میں لت پت تھا، اسے کچھ خراشیں بھی آئی تھیں، مگر وہ صحیح سلامت تھا۔

”اور ہنی؟“

وہ آنکھیں بند کیے پیڑ کے نیچے پڑا تھا

کریم غصے سے بولا: ”بے وقوف! غدار جانور! کیا ہمارا بیٹا تمہارے لیے کچھ بھی

ماہ نامہ ہمدرد تو نہ ہال جون ۲۰۱۴ عیسوی ۲۵۹

خاص نمبر



۲۵۹

ماہ نامہ ہمدرد تو نہ ہال جون ۲۰۱۴ عیسوی

خاص نمبر



www.PAKSOCIETY.COM

دادی کی باتیں

انور فرہاد

”اے بوس! اب تو صرف دو ہی اوڈر رہ گئے ہیں۔“

ابھی یہ جملہ ختم ہی ہوا تھا کہ یہ کہنے والے بچے کو اس کے ساتھیوں نے دھکا دیا اور وہ پانی اور کچیز میں جاگرا۔ دوسری طرف دادی اماں نے ڈھائی دینا شروع کر دی:

”ہائے ہائے! ان کینے لونڈوں کو روکنے والا کوئی نہیں؟ کل بھی اسی طرح انھوں نے کچیز میں اسے دھکیلا تھا، آج بھی وہی کیا۔“

دادی اماں ٹی وی پر چلنے والے اشتہار کو دیکھ کر سر پیٹ رہی تھیں اور ہم سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔

”اے کم بختو! بجائے اس کے کہ تم لوگ ہی ان شریر بچوں کو روکو، منع کرو کہ اس طرح تو وہ بیمار پڑ جائے گا۔ اُلٹا مجھ پر ہنس رہے ہو۔ ہا ہا ہا کر کے تعجبے لگا رہے ہو۔“

دادی اماں کی ایسی ہی بھولی بھالی باتوں سے آج کل ہمارا گھر زبردست تفریح گاہ بنا ہوا ہے۔ اب ہم لوگوں کو تفریح کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

دادی اماں، ہماری اصلی دادی اماں نہیں۔ ہمارے ابو کی دور کے رشتے سے چچی یا چھوٹی لگتی ہیں۔ پچھلے دنوں ابو اپنے آبائی گاؤں گئے تھے۔ وہاں سے لوٹتے وقت انھیں ساتھ لیتے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا کوئی قریبی رشتے دار اب زندہ نہیں بچا ہے اور وہ اس کے، اُس کے گھر میں پڑی رہتی ہیں، اس لیے میں انھیں اپنے ساتھ لے آیا۔ اب یہ یہیں رہیں گی۔ امی کو ابو کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ اس گرانی کے دور میں انھوں نے

ایک شخص کا خرچ اور بڑھالیا، مگر جب آہستہ آہستہ دادی اماں کے جوہر کھلے تو ان کی شکایت دور ہوگئی اور وہ بھی ہم بچوں کی طرح ان میں دل چسپی لینے لگیں۔

دادی اماں ٹی وی بہت شوق سے دیکھتی ہیں۔ ٹی وی اسکرین پر کوئی بھی مردانی شکل نظر آتی ہے تو وہ فوراً لہسا لگھوٹ گھٹ نکال لیتی ہیں یا اپنی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیتی ہیں۔ پہلی بار جب ٹی وی پر انھیں ایک مرد نظر آیا تھا تو وہ منہ پر آنچل رکھ کر ٹی وی لاؤنج سے باہر جانے لگیں۔ امی نے انھیں ٹوکا: ”امی جان! آپ کہاں جا رہی ہیں؟“

”اے ہے، تم دیکھ نہیں رہی ہو، تمہارے کمرے میں ایک مرد گھس آیا ہے۔“

”آپ بیٹھے! میں اسے بھگا دیتی ہوں۔“ کہتے ہوئے امی نے ریوٹ کا بنن

دبا کر چینل بدل دیا۔ پھر آہستہ آہستہ انھیں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ٹی وی میں نظر آنے والے مردوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ ٹی وی سے نکل کر ہماری طرف نہیں آئیں گے۔ پتا نہیں انھیں ہماری باتوں کا کس حد تک یقین آیا۔ اب وہ مردوں کو دیکھ کر ٹی وی لاؤنج سے بھاگتی تو نہیں ہیں، مگر اپنے ہاتھوں یا آنچل سے اپنا چہرہ چھپا لیتی ہیں۔

شبِ برات کی آمد آدھی۔ ہم سب اپنا اپنا پروگرام امی کو بتا رہے تھے۔ کوئی کہہ

رہا تھا کہ چنے کا حلوا، کوئی مشورہ دے رہا تھا کہ گاجر کا حلوا، کوئی کہہ رہا تھا کہ لوکی کا حلوا۔ جب کہ امی نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا: ”اس بار کسی قسم کا کوئی حلوا نہیں بنے گا۔“

ہم سب تو ڈر کے مارے خاموش رہے، مگر دادی اماں بول پڑیں: ”کیوں بھئی!

حلوا کیوں نہیں بناؤ گی؟“

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ عیسوی ۲۶۲

خاص نمبر

پاک سوسائٹی ڈاٹ کام کی پیشکش

یہ شمارہ پاک سوسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

ہم خاص کیوں ہیں :-

- ✦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز
- ✦ ہر ای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت
- ✦ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں اپلوڈنگ
- ✦ ہر ای بک کا ڈائریکٹ اور ریٹریوم ایبل لنک
- ✦ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو ہر پوسٹ کے ساتھ
- ✦ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی
- ✦ مشہور مصنفین کی کتب کی مکمل ریج
- ✦ ہر کتاب کا الگ سیکشن
- ✦ ویب سائٹ کی آسان براؤزنگ
- ✦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں
- ✦ سپریم کوالٹی، ہائر مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی
- ✦ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریج
- ✦ ایڈفری لنکس، لنکس کو میسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیا جاتا

We Are Anti Waiting WebSite

واحد ویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

✦ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

✦ ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کا لنک دیکر متعارف کرائیں

WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on
Facebook

fb.com/paksociety



twitter.com/paksociety1

امی نے کہا: "اماں جی! اتنی گرانی ہے، گھگی، چینی، دال، سب میں آگ لگی ہوئی ہے۔ کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ کے خرچ کی۔"

"مگر....." دادی اماں گال پر ہاتھ رکھ کر فکر مند لہجے میں بولیں: "تم نے یہ بھی سوچا، تم حلوا نہیں پکاؤ گی، قاتحہ نہیں دو گی، تو تمہارے گھر آنے والے مردوں کو کیا مایوسی نہیں ہوگی؟"

"دادی اماں!" میں جھٹ بول پڑی: "کیا شبِ برات کے دن مردے قبروں سے نکل کر گھروں میں آتے ہیں؟"

"ہاں..... کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم؟ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں۔"

آج ہے شبِ برات بہو ساس سے لڑی
سرنے مارا ڈنڈا بہو دھڑ سے گر پڑی
آئیں گے چار مردے بیٹھیں گے دو گھڑی
کھائیں گے حلوا، روٹی چھوڑیں گے پھلجھڑی

"ہائے دادی اماں!" شریہ ابراہیم نے دادی اماں کی نقل کرتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا: "بڑا مزہ آتا ہوگا، جب مردے حلوا روٹی کھا کر پھلجھڑیاں چھوڑتے ہوں گے؟"

پھر ایک دم مایوس ہو کر بولا: "ہمارے گھر میں تو کوئی مردہ نہیں آتا۔"
دادی اماں کے بجائے رویسا پٹ سے بول پڑی: "کوئی مردہ آئے بھی تو کیسے؟
ہمارے قبرستانوں میں تو شبِ برات کے دن اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ زندہ لوگوں کے لیے ہی

خاص نمبر ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ عیسوی ۲۶۳

آنا جانا مشکل ہوتا ہے۔ بے چارے مُردے قبر سے نکل کر آنا چاہیں بھی تو.....“

”تم تو گھاس کھا گئی ہو۔“ تسبیہ نے رو میسا کی بات کاٹتے ہوئے کہا: ”انھیں قبروں سے نکل کر آنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، جب وہیں ان کی قبروں پر پھولوں کی بارش برسائی جائے تو.....“

”یہ تم لوگ کیا بکواس کرنے لگے؟“ امی نے ڈانٹ پلائی تو سب خاموش ہو گئے۔ پھر جب وہ وہاں سے چلی گئیں تو سیریکانے کا نا پھوسی کے انداز میں دادی اماں کو مخاطب کیا: ”دادی اماں! کیا آپ کے گھروں میں آنے والے مُردوں کو دیکھ کر آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا تھا؟“

دادی بولیں: ”کیسا ڈر؟“

سیریکانے کہا: ”ہم نے تو ٹی وی پر جن مُردوں کو قبر سے نکلتے دیکھا ہے وہ ہڈیوں کے ڈھانچے ہوتے ہیں، جنھیں دیکھ کر لوگوں کی چیخ نکل پڑتی ہے۔“

”پتا نہیں، ہم نے تو ایسے مُردے کبھی نہیں دیکھے۔“ دادی نے کہا۔

میں نے پوچھا: ”تو پھر آپ کے ہاں کیسے مُردے حلوا کھانے اور پھلجھڑی چھوڑنے آتے تھے؟“

دادی بولیں: ”بھئی، ہم نے تو کوئی مُردہ کبھی نہیں دیکھا۔ مُردوں کے نام کی جو حلوا روٹی پر نیاز دلوائی جاتی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہیں رہتی پھر قصیروں کو دے دی جاتی تھی۔“

ابراہیم نے حیرت سے کہا: ”تو پھر وہ پھلجھڑی بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے؟“

ماہ نامہ ہمدرد ٹونہال جون ۲۰۱۴ عیسوی ۲۶۳

خاص نمبر

www.PAKSOCIETY.COM

دادی نے بتایا: ”یہ کام تو کلو کرتا تھا۔“

میں نے پوچھا: ”یہ کلو کون تھا؟“

دادی نے کہا: ”یہ ہمارا بھائی تھا۔ اور نام اس کا کلیم الدین تھا، مگر پہلے وہ کلو کہلاتا

تھا، جو بعد میں کلو مشہور ہو گیا۔ کلو حلوا کھا کر پھلجھڑیاں چھوڑتا، پٹانے پھوڑتا پھر گھر

آ کر لمبی تان کر سو جاتا۔ ہماری اماں خوب صلواتیں سناتیں: ”اے ہے کجخت! مردے کی

طرح آ کر ڈھیر ہو گیا۔ یہ بڑی رات ہے۔ اس رات کو سال بھر کی روزی روٹی تقسیم ہوتی

ہے۔ دکھ سکھ بانٹے جاتے ہیں۔ جا، اپنے حصے کی خیر و برکت مانگ۔“

”کہاں جاؤں اماں!“ کلو بڑی بے زاری سے کہتا۔

”اور کہاں جائے گا، مسجد جا اور رات بھر عبادت کر، پاک پروردگار سے، اپنے

لیے اور اپنے گھر بھر کے لیے گڑ گڑا کر خیر و برکت کی دعا مانگ۔“

”پھر وہ چلے جاتے ہوں گے؟“

”بڑا بد نصیب تھا وہ۔ جاتا بھی تو اپنے جیسے لڑکوں کے ساتھ نخل غپاڑہ کرتا اور

پھر وہیں مسجد میں سو جاتا۔ گھر میں بھی وہ کوئی نیک کام نہیں کرتا تھا۔ ہمارے ساتھ گھر میں

چراغ بھی نہیں جلاتا تھا۔“

”چراغ جلاتا بھی کیا نیک کام ہوتا ہے؟ دادی اماں!“ احتیال پوچھ بیٹھی۔

دادی نے حیرت سے پوچھا: ”اچھا تو کیا تم لوگ یہ نیک کام نہیں کرتے شب

برات کو؟ ہماری اماں تو گھی کے چراغ جلاتی تھیں۔“

میں نے کہا: ”ہماری امی تو گھی منہرگا ہونے کی وجہ سے حلوا نہیں پکاتیں، وہ گھی

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ عیسوی ۲۶۵

www.PAKSOCIETY.COM

WWW.PAKSOCIETY.COM

کے چراغ کیسے جلائیں گی؟“

”ہائے اللہ!“ دادی حیرت سے گال پر ہاتھ رکھ کر بولیں: ”تمہارے ہاں حلوا

نہیں پکایا جاتا، چراغ نہیں جلا یا جاتا، تو پھر تم لوگ شبِ برات کیسے مناتے ہو؟“

”ہم لوگ.....“ میں نے انہیں سمجھایا: ”دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو

عبادت کرتے ہیں۔ گھر کے سارے مرد مسجدوں میں جا کر اور عورتیں گھر میں رہ کر

تلاوت کرتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اپنی صحت اور تنِ درستی کی

دعائیں، اپنے ایمان کی سلامتی کی دعائیں، خیر و برکت کی دعائیں، ملک اور قوم کے لیے

امن اور استحکام کی دعائیں۔ ہماری امی کہتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس برکت والی رات کو

اپنے بندوں سے کہتے ہیں: ”مانگو، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔“

دادی اماں منہ کھولے حیرت سے مجھے تکی رہیں۔ وہ کچھ نہیں بولیں تو میں نے ہی

اپنی بات آگے بڑھائی: ”دادی اماں! یہ نہ سمجھیے گا کہ سارے ہی گھر ہمارے گھر جیسے

ہیں۔ یہاں بھی ایسے گھروں کی کمی نہیں، جہاں کلوا جیسے لوگ حلوا کھا کر اور پٹانے

پھوڑ کر اور گھروں میں بجلی کے قہقہے جلا کر شبِ برات مناتے ہیں۔ شبِ برات کے اصل

مقصد سے بے خبر ہیں۔ اللہ ایسے سارے گم راہ لوگوں کی ہدایت فرمائے۔“

سارے بچوں نے بیک آواز کہا: ”آمین۔“

☆☆☆

شکریہ

جدون ادیب

رحمن صاحب شہر کے ایک بڑے صنعت کار ہیں۔ وہ فلاحی کاموں میں آگے آگے رہنے کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہیں۔ دیانت دار اور نئی انسان ہیں۔ میں ایک فیچر رائٹر ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں ان کی ایک خاص میٹنگ کی رکارڈنگ سن کر اس کی روداد لکھ دوں۔ کام کافی تھا۔ میں نے دس ہزار روپے معاوضہ طلب کیا، لیکن انہوں نے مجھے سات ہزار روپے پر راضی کر لیا۔

مقررہ وقت پر میں نے کام کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ انہیں کام پسند آیا۔ اگلے دن معاوضہ لینے گیا تو انہوں نے مجھے سات ہزار کے بجائے دس ہزار روپے دے دیے۔ میں نے بے دھیانی میں اس اضافی عنایت پر ان کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ وہاں سے میں ایک اخبار کے دفتر گیا اور وہاں سے کام لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔

اس دوران میرا دوست عاصم ملا۔ وہ دکان پر موبائل کارڈ فروخت کرتا تھا۔ اس نے مجھے تین ہزار روپے دیے کہ میں آتے ہوئے اس کے لیے موبائل کمپنی سے کارڈ لیتا آؤں۔

میں گھر جانے کے لیے بس میں چڑھا تو گاڑی میں بہت ہجوم تھا۔ دروازے پر زیادہ لوگ کھڑے تھے۔ میں پھنس پھنسا کر اندر گھسا تو مجھے ایک آدمی نے دانستہ دھکا دیا، دوسرے نے میری ایک جیب سے عاصم کے دیے ہوئے تین ہزار روپے نکال لیے اور چلتی گاڑی سے اتر گیا۔ میرے دس ہزار روپے محفوظ رہے۔ یہ سب چند لمحوں میں ہوا۔

مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس جیب کترے کا ساتھی کون ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ اس کے پاس بڑا ساتھیلا ہے، جسے اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا ہے۔ فوری طور پر اگر میں اس کے خلاف کچھ کرتا تو بظاہر وہ بے گناہ نظر آتا کہ اس کے دونوں ہاتھ تو تھیلے پر ہیں، وہ کیسے جیب کاٹ سکتا ہے، مگر یہ وہی شخص تھا، جس نے مجھے دھکا دیا تھا۔ میں تیزی سے سوچ رہا تھا، مگر وہ بھی پھرتیلا نکلا اور چلتی گاڑی سے کود گیا۔ میں بے بسی سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔

گاڑیوں میں اسی طرح جیب کترے آپس میں مل کر جیبوں کا صفایا کرتے ہیں۔ ہماری توجہ اس آدمی پر چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے ہمیں جو دھکا دیتا ہے یا ایک طرف دباتا ہے اور اسی ایک دو سیکنڈ میں دوسرا ماہر جیب کترا اپنا کام کر دکھاتا ہے۔

میں بہت پریشان ہو گیا۔ تین ہزار کی رقم میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ میرے کئی کام اس سے ہو سکتے تھے۔ پھر میں نے عاصم کے لیے اپنے دس ہزار میں سے کارڈ خرید لیے، کیوں کہ عاصم کو کارڈ پہنچانا میری ذمے داری تھی۔

اس دن رات کو جب میرے بیوی بچے سو گئے تو میں نے دن بھر کی مسروفیات کے بارے میں سوچا۔ تین ہزار روپے کا صدمہ پھر محسوس ہوا اور غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکلا کہ واہ میرے مولا! تُو نے تین ہزار روپے زیادہ دیے اور تھوڑی دیر میں ہی واپس بھی لے لیے۔

یہ بات میرے منہ سے نکل تو گئی، مگر اگلے ہی لمحے میں شرمندہ بھی ہوا۔ مجھے اپنی خود غرضی، ناشکری اور چھوٹے پن پر بہت ندامت ہوئی۔

ماہ نامہ ہمدرد تو نہال جون ۲۰۱۴ء عیسوی ۲۶۸

خاص نمبر



اگلے ہی لمحے میں توبہ کرنے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگ رہا تھا تو میرے ذہن میں بجلی سی کوندی۔ مجھے ایک دم احساس ہوا کہ میرا تین ہزار کا نقصان کیوں ہوا ہے۔

بات یہ تھی کہ عبدالرحمن صاحب نے مجھے تین ہزار روپے زیادہ اس لیے دیے تھے کہ میں نے دس ہزار مانگے تھے اور انہوں نے سات ہزار کہے اور میں نے بغیر محبت کے ان کی بات مان لی۔ کام معیاری کیا تو انہیں لگا کہ اس کام کا معاوضہ دس ہزار ہی بنتا ہے لہذا انہوں نے مجھے دس ہزار دے دیے۔ میں اس وقت ان کا شکر یہ ادا کرنا بھول گیا۔ میں اس غرور میں مبتلا تھا کہ مجھے میرا حق ملا ہے، یہ کوئی احسان نہیں اور اس کیفیت کے زیر اثر میں خدا کا شکر بھی ادا نہ کر سکا۔

یہ ناشکری والی بات تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے اور ناشکروں سے نعتیں واپس لے لیتا ہے اور میں نے نہ تو خدا کا شکر ادا کیا تھا اور نہ اس کے بندے کا اور میرا نقصان ہونے کی بھی یہی وجہ تھی، ورنہ میرا سارا نقصان کیوں نہ ہوا۔

میں نے سوچا کہ خدا کے بعد ان کا شکر یہ بھی ادا کروں، پھر خیال آیا کہ کافی دیر ہو چکی ہے۔ میرا ضمیر مجھے شرمندہ کر رہا تھا اور میں عجیب الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ "شکر یہ" کتنا بیٹھا اور خوب صورت لفظ ہے، ادا کرنا بھی کتنا آسان ہے۔ میں فقط یہ ایک لفظ ادا نہ کرنے کی سزا پا چکا تھا۔

☆☆☆

معلومات افزا کے سلسلے میں سب معمول ۱۶ سوالات دیے جا رہے ہیں۔ سوالوں کے سامنے تین جوابات بھی لکھے ہیں، جن میں سے کوئی ایک صحیح ہے۔ کم سے کم گیارہ صحیح جوابات دینے والے نونہال انعام کے مستحق ہو سکتے ہیں، لیکن انعام کے لیے گیارہ سے زیادہ صحیح جوابات سمجھنے والے نونہالوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اگر ۱۶ جوابات صحیح دینے والے نونہال ۱۵ سے زیادہ ہوئے تو پندرہ نام قرعہ اندازی کے ذریعے سے نکالے جائیں گے۔ قرعہ اندازی میں شامل ہونے والے باقی نونہالوں کے صرف نام شائع کیے جائیں گے۔ گیارہ سے کم صحیح جوابات دینے والوں کے نام شائع نہیں کیے جائیں گے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جوابات صحیح دیں اور انعام میں ایک اچھی سی کتاب حاصل کریں۔ صرف جوابات (سوالات نہ لکھیں) صاف صاف لکھ کر کوپن کے ساتھ اس طرح بھیجیں کہ ۱۸۔ جون ۲۰۱۳ء تک ہمیں مل جائیں۔ جوابات کے کاغذ پر بھی اپنا نام پتا بہت صاف لکھیں۔ ادارہ ہمدرد کے ملازمین / کارکنان انعام کے حق دار نہیں ہوں گے۔



- ۱۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان کے..... تھے۔ (بھائی - والد - دادا)
- ۲۔ حضرت اسماعیل کے..... بیٹے تھے۔ (بارہ - چودہ - سولہ)
- ۳۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ پہلا تجارتی سفر ملک..... کی طرف کیا تھا۔ (ایران - چین - شام)
- ۴۔ نواب سراج الدولہ اور انگریزوں کے درمیان..... کے مقام پر جنگ ہوئی تھی۔ (پانی پت - بیسور - پلاسی)
- ۵۔ روم..... کا دار الحکومت ہے۔ (انلی - یونان - مصر)
- ۶۔ یورپ میں مسلم اکثریت والا واحد ملک..... ہے۔ (البانیا - بلغاریہ - رومانیہ)
- ۷۔ "اسونیم کلورائیڈ" (AMMONIUM CHLORIDE) کو اردو میں..... کہتے ہیں۔ (سوڈا - گندک - نوشادر)
- ۸۔ دنیا کا سب سے تیز دوڑنے والا جانور..... ہے۔ (گھوڑا - کتا - چیتا)
- ۹۔ آذربائیجان کا سکہ..... کہلاتا ہے۔ (پیسو - عنات - روبل)
- ۱۰۔ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان، جسٹس..... ہیں۔ (عبدالحمید ڈوگر - محمد افتخار حسین چودھری - تصدق حسین جیلانی)
- ۱۱۔ کوئی..... کا ایک شہر ہے۔ (سندھ - پنجاب - آزاد کشمیر)
- ۱۲۔ حق کی جمع..... ہے۔ (حقائق - حقوق - حقیقت)



- ۱۳۔ "خان"..... زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے سردار۔ (فارسی - ترکی - مصری)
- ۱۴۔ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے: "ناک پر..... نہ بیٹھے دینا۔" (پھر - کھس - چوٹی)
- ۱۵۔ نواب زادہ لیاقت علی خاں کی پہلی بیوی کا نام..... تھا۔ (رقیہ بیگم - ہاجرہ بیگم - جہانگیرہ بیگم)
- ۱۶۔ مشہور شاعر میر مہدی بخروج کے اس شعر کا دوسرا مصرع مکمل کیجیے:
- کیا ہماری نماز، کیا روزہ بخش دینے کے..... بہانے ہیں (کئی - یہ - سو)

کوپن برائے معلومات افزا نمبر ۲۲۲ (جون ۲۰۱۳ء)

نام: _____

پتا: _____

کوپن پر صاف صاف نام، پتہ لکھیے اور اپنے جوابات (سوال نہ لکھیں، صرف جواب لکھیں) کے ساتھ لگانے میں ڈال کر دفتر ہمدرد نونہال، ہمدرد ڈاک خانہ، کراچی ۷۴۶۰۰ کے پتے پر اس طرح بھیجیں کہ ۱۸- جون ۲۰۱۳ء تک ہمیں مل جائیں۔ ایک کوپن پر ایک ہی نام لکھیں۔ کوپن کو کاٹ کر جوابات کے صفحے پر چکا دیں۔

کوپن برائے بلا عنوان انعامی کہانی (جون ۲۰۱۳ء)

عنوان: _____

نام: _____

پتا: _____

یہ کوپن اس طرح بھیجیں کہ ۱۸- جون ۲۰۱۳ء تک دفتر پہنچ جائے۔ بعد میں آنے والے کوپن قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ایک کوپن پر ایک ہی نام اور ایک عنوان لکھیں۔ کوپن کو کاٹ کر کاپی سائز کے کاغذ پر درمیان میں چکائیے۔



لکھنے والے نونہال

نونہال ادیب

نہدشاہ، زینب شاہ، نوگزی، مانسمرہ	محمد صالح مراد، سکھر
محمد ہمایوں طارق، ملتان	ہادیہ نیاز احمد، لاٹھی، کراچی
محمد عرفان حیدر، ساگھڑ	محمد احتشام کاظم، شیخوپورہ
ایمان اسلم علی، کراچی	عبدالقادر، کراچی
اعراف نعیم الدین انصاری، کراچی	

علم کی اہمیت

نہدشاہ، زینب شاہ، نوگزی، مانسمرہ
 علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ علم کے معنی ہیں جانتا۔ دنیاوی اور دینی علوم دونوں حاصل کرنے چاہئیں۔ جو علم حاصل نہیں کرتا وہ بعد میں پچھتا تا ہے۔ علم کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ”ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔“

عورتوں کو بھی تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے اسکولوں کی تعداد کم ہے۔ لڑکیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ اگر لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی تعلیم حاصل کریں تو ہماری قوم ترقی یافتہ قوم کہلائے گی۔ اسلام میں علم کی فضیلت و اہمیت بہت ہے۔

مرزا اسد اللہ خاں غالب
 محمد ہمایوں طارق، ملتان

مرزا اسد اللہ خاں غالب شاعر تھے اور نثر نگار بھی، اس لیے انھوں نے نظم و نثر

دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو تعلیم یافتہ ہوں۔ مردوں کے ساتھ ساتھ

دونوں میں کئی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ کتابیں فارسی میں ہیں اور اردو میں بھی۔ غالب کے دادا کا نام فوقان بیگ تھا۔ ان کے چار بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ عبداللہ بیگ کی شادی آگرے میں عزت النساء بیگم سے ہوئی۔ عزت النساء کی ایک چھوٹی بیٹی (جسے خانم کہا جاتا تھا) اور دو بیٹے تھے۔ ایک کا نام مرزا محمد اسد اللہ بیگ خاں تھا اور دوسرے مرزا یوسف اللہ خاں کہلاتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خاں نے گیارہ سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا۔ پہلے "اسد" تخلص رکھا پھر غالب لکھنے لگے۔

غالب نے چودہ پندرہ سال کی عمر سے مستقل طور پر شاعری شروع کر دی تھی۔ پہلے فارسی کے ایک بڑے شاعر "بیدل عظیم آبادی" کے انداز میں غزلیں کہتے تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں انھوں نے

بیدل کی تقلید چھوڑ دی، کیوں کہ دوسروں کی تقلید یا نقالی کر کے کوئی بڑا آدمی نہیں بنتا۔ بڑا آدمی بننے کے لیے نیا راستہ اختیار کرنا اور مشکلوں کا مقابلہ کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ مرزا غالب میں شوخی اور مزاح کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ پھلوں میں مرزا غالب کو آم بہت پسند تھے۔ ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے اور غالب اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے بھی منگواتے تھے۔

مرزا کی نیت آموں سے کبھی نہ بھرتی تھی۔ نواب مصطفیٰ خاں بیان کرتے ہیں کہ ایک محفل میں مولانا فضل الحق اور دیگر احباب موجود تھے اور آم کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ہر شخص اپنی اپنی رائے دے رہا تھا کہ آم میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہئیں۔ جب سب لوگ اپنی اپنی رائے دے چکے تو مولانا فضل الحق نے مرزا سے

کہا کہ تم بھی اپنی رائے دو۔

مرزا نے کہا: ”بھئی! میرے نزدیک تو
آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہئیں، بیٹھا ہو
اور بہت ہو۔“ سب حاضرین ہنس پڑے۔

احسان فراموش چوہا

محمد عرفان حیدر، سائیکھڑ

ایک گھنے جنگل میں ایک بزرگ رہا
کرتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے
تھے۔ ایک دن جب وہ عبادت میں مشغول
تھے تو اُن کی گود میں ایک چوہا آگرا، جو
ایک اُڑتے ہوئے کوئے کی چونچ سے چھوٹ
گیا تھا۔ بزرگ نے اسے پیار سے اُٹھایا اور
شفقت سے اس کی پرورش کرنے لگے۔

ایک دن اچانک ایک بلی اس چوہے
پر جھپٹ پڑی اور چوہا اپنی جان بچانے
کے لیے بزرگ کی گود میں کود پڑا۔ بزرگ
نے پیار سے کہا کہ کیا تمہیں بلی سے ڈر لگتا
ہے؟ کیوں نا تمہیں بلی ہی بنا دوں! جاؤ
اور بلی بن جاؤ۔ بزرگ نے اللہ سے دعا

کی اور اسے سچ مچ بلی بنا دیا۔

مگر بلی بھی تو کتوں سے ڈرتی ہے اور
وہی ہوا، ایک دن اس بلی پر ایک کتے نے
حملہ کر دیا اور بلی جلدی سے بزرگ کے
پاس آگئی۔ بزرگ نے پوچھا کہ کیا اب
تمہیں کتے سے ڈر لگنے لگا ہے؟ جاؤ اور تم
بھی کتابن جاؤ۔ بزرگ کے دعا کرنے کی
دیر تھی اور بلی کتابن گئی۔

لیکن کیا کتا شیر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟

اس لیے اسے بھی شیر سے ڈر لگتا تھا۔
بزرگ نے کہا میں دعا کروں گا، پھر تم بھی شیر
بن جاؤ گے۔ کم از کم پھر تو تمہیں کسی سے ڈر
نہیں لگے گا نا! اور پھر سچ مچ وہ کم زور کتا
دیکھتے ہی دیکھتے ایک طاقت ور شیر بن گیا۔

شیر نے سوچا کہ جب تک یہ بزرگ
زندہ رہیں گے مجھے بھی اپنا پرانا روپ یاد
آتا رہے گا، اس لیے انہیں ختم کرنے میں
ہی میری بھلائی ہے۔ نہ رہے گا بانس، نہ
بجے گی بانسری۔ اس سے پہلے کہ شیر بزرگ
پر حملہ کرتا، بزرگ نے اس کے ارادوں کو

بھانپ لیا اور بولے: "جاؤ، احسان فراموش!
دوبارہ چوہا بن جاؤ۔ تم اسی لائق ہو۔" اور وہ
طاقت ور شیر پھر سے چوہا بن گیا۔

مشو بیٹا ہوا سویرا

مرسلہ : ایمان اسلم علی، کراچی

مشو بیٹا! ہوا سویرا
جاگو دیکھو گیا اندھیرا
آزادی کے گیت سناؤ
پنجرے سے اب باہر آؤ
مور، کبوتر، چڑیا جاگی
چوہا دوڑا، ملی بھاگی
روشن صبح آئی ملنے
پھول لگے شاخوں پر کھلنے
خوشبو سے مہکی ہیں فضا میں
مجموم رہی ہیں خوب ہوائیں
ہاتھ پہ بیٹھو ہاتھ نہ دھر کے
تم بھی تو ایک فرد ہو گھر کے
آؤ مل کر کام کریں ہم
مخت صبح و شام کریں ہم

اچھوں کے سب کام ہیں اچھے
سچ ہی بولیں سچے بچے
دقت جو پل میں اڑ جاتا ہے
لوٹ کے پھر کب ہاتھ آتا ہے

حق دار چور

محمد صالح مراد، سکھر

وہ کمرے میں داخل ہوا تو سیٹھ
فرحان چونک اٹھے۔ وہ سیٹھ کو چونکتا ہوا
دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ سیٹھ فرحان کو وہ
نخس جانا پہچانا لگ رہا تھا، مگر وہ اس سے
باتیں کر کے بھی پہچان نہ پائے تھے۔

سیٹھ فرحان کا چوکیدار نوکری چھوڑ گیا
تھا، انھوں نے ایک چوکیدار کے لیے اخبار
میں اشتہار دیا تھا۔ نوکری کے لیے صرف
چار افراد آئے تھے۔ سیٹھ فرحان نے اس کا
تجربہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو نوکری
پر رکھ لیا۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ سات
سال گزرنے کے بعد بھی اس نے کبھی



شکایت کا موقع نہیں دیا۔

تھے، مگر آج وہ غائب تھا اور ان کے بچنے کا

سارا سامان غائب تھا۔

ایک باریسٹھ فرحان کے بھتیجے کی شادی

تھی، جس میں سب کی شرکت ضروری تھی،

اس لیے وہ اپنے چوکیدار کو گھر کا نگران

بنا کر چلے گئے۔

ان کے گھر میں اب پھوٹی کوڑی بھی

نہیں تھی۔ انھیں فوراً اپنے گھر میں رکھی ہوئی

نقدی اور قیمتی زیورات یاد آئے انھیں

یقین تھا کہ وہ محفوظ ہوں گے۔ وہ اپنے

بیڈروم کی طرف دوڑے، انھوں نے لا کر کا

ہینڈل گھمایا تو ان کے پیروں تلے سے

زمین نکل گئی، کیوں کہ لا کر کا ہینڈل آسانی

سے گھوم گیا اور لا کر کھل گیا۔ اندر نظر پڑتے

ہی ان کا سر چکرانے لگا، کیوں کہ لا کر خالی

تھا۔ لا کر میں ایک لفافہ پڑا ہوا تھا۔ انھوں

نے اس کو کھول کر دیکھا تو لکھا ہوا تھا:

”سلام! سیٹھ فرحان! میں چاہتا تھا کہ کسی

طرح آپ سے اپنا حق لے لوں، مگر آپ

نے ساری جائیداد بیچ کر اپنا کاروبار شروع

کر دیا تھا۔ مجبوراً مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ آپ

مجھے نوکری پر رکھتے ہوئے چونکے تو میں

ایک ہفتے بعد جب وہ شادی سے

واپس آئے تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔

سیٹھ فرحان اپنے بچنے کی اندرونی حالت

دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انھیں اپنی آنکھوں

پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم سے

دوسرے کمروں کی طرف دوڑ پڑے، جیسے

جیسے وہ آگے جاتے جا رہے تھے، ان کی

پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں

نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ چوکیدار تو

سات برس سے ان کے گھر پر ملازمت

کر رہا تھا۔ اگر کوئی ان کے چوکیدار کے

بارے میں رائے لیتا تو وہ اس کی ایمان

داری پر قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتے

WWW.PAKSOCIETY.COM

پریشان ہو گیا تھا۔ میرا سارا منصوبہ چوہا پٹ ہو جاتا، مگر آپ مجھے پہچان نہ پائے، آپ کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ بھول گئے۔ اس لیے کہ ظالم ظلم کر کے بھول جاتا ہے، مگر مظلوم نہیں بھولتا۔ میرا اصل نام ضیا یاسر ہے اور میں سیٹھ یاسر کا بیٹا ہوں۔ میں نے آپ کو ویسا ہی کر دیا جیسے آپ پہلے تھے۔“

یہ پڑھ کر سیٹھ فرحان اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکے اور دھڑام سے گر گئے۔ ان کا بیٹا ان کو فوراً اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ انھیں شدید صدمہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے دماغ پر بہت اثر ہوا ہے اور ان کو فالج ہو گیا ہے۔ ان کا جسم حرکت کے قابل نہیں ہے۔

اسپتال آنے والے پڑوسیوں نے بتایا کہ چوکیدار چار پانچ افراد کے ساتھ سارا سامان گاڑیوں میں ڈال کر لے گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ سیٹھ فرحان نے دوسرے شہر میں بنگلہ لے لیا ہے۔ سیٹھ فرحان کو

اسپتال میں بے حس لیٹے ہوئے وہ تمام مناظر یاد آ رہے تھے، جب وہ سیٹھ یاسر کی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ سیٹھ یاسر کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کا تین سال کا ایک ہی بیٹا ضیا تھا۔ سیٹھ یاسر نے اپنے انتقال سے پہلے ساری جائیداد فرحان کے نام کر دی تھی اور اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ان کے بیٹے کی پرورش کرے گا، مگر اس نے جائیداد منتقل ہوتے ہی ان کے بیٹے کو یتیم خانے میں داخل کروا دیا اور مال دار بننے کے لیے انھوں نے آٹے کے کارہار میں ملاوٹ اور چوری کی، اس کی وجہ سے وہ فرحان سے سیٹھ فرحان بن گئے، مگر ایک چور نے ان کو دوبارہ فیکٹری میں کام کرنے والا ملازم بنا دیا۔ چوری کرتے وقت ان کو یہ احساس نہ تھا کہ دوسروں پر کیا گزرے گی، مگر آج ان کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو گیا تھا۔

دو برس کی بڑھیا

ہادیہ نیاز احمد، لاٹھی، کراچی

بہت دنوں کی بات ہے کسی جنگل میں ایک غریب لکڑہارا اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ دونوں بوڑھے اور کم زور تھے۔ لکڑہارا دن بھر کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹتا اور شام کو انھیں شہر میں بیچ آتا تھا۔ لکڑہارے کی بیوی گھر کا کام کاج کرتی تھی۔

ایک دن لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اسے زور کی پیاس لگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کوئی کنواں یا تالاب نظر آجائے تو جا کر پانی پی لوں۔ اس نے کلہاڑی ہاتھ سے رکھ دی اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔

تھوڑی دیر میں اسے ایک تالاب نظر آیا۔ یہ تالاب اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ تالاب صاف اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ پانی کو دیکھ کر لکڑہارے کی

جان میں جان آئی۔ اس نے تالاب کے کنارے بیٹھ کر دو تین گھونٹ پانی پی لیا۔

خدا کی قدرت، پانی پیتے ہی بوڑھے لکڑہارے کے بدن کی ساری جھڑیاں جاتی رہیں۔ سر کے سفید بال، سیاہ ہو گئے۔ پہلے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اب سب دانت پیدا ہو گئے اور بوڑھا لکڑہارا چند لمحوں میں جوان اور طاقت ور بن گیا۔ وہ بڑا

حیران ہوا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ اس نے جھک کر تالاب کے صاف پانی میں اپنی شکل دیکھی تو وہ بالکل جوانوں کی طرح نظر آئی۔

اب لکڑہارے کی خوشی کا ٹھکانا نہ رہا۔ اس نے لکڑیاں تو وہیں جنگل میں پھینکیں اور خوشی سے اُچھلتا کودتا گھر کی طرف چلا۔

لکڑہارے کی بیوی نے جو ایک جوان آدمی کو گھر میں آتے دیکھا تو پہلے ڈری، مگر جب لکڑہارے نے کہا کہ میں جادو کا پانی پی کر جوان ہو گیا ہوں تو وہ بہت خوش ہوئی

ادھر لکڑ ہارے کو انتظار کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی، مگر اس کی بیوی گھر نہ پہنچی۔ آخر وہ بے چارہ اسے ڈھونڈنے نکلا۔ وہ

تالاب کی طرف گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تالاب کے پاس ہی ایک درخت کے نیچے زمین پر اسے اپنی بیوی کے کپڑے پڑے ہوئے نظر آئے۔ وہ دوڑ کر وہاں گیا، دیکھا تو ایک چھوٹی سی بچی جو کوئی دو برس کی معلوم ہوتی ہے، کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہے۔

دراصل لکڑ ہارے کی بیوی نے لالچ میں آ کر جادو کا پانی اتنا پی لیا کہ وہ جوانی کی عمر سے گزر کر بچپن کے زمانے میں پہنچ گئی، اور جوان ہونے کے بجائے چھوٹی سی بچی بن گئی۔ اگر وہ پیٹ بھر کر پانی نہ پیتی اور دو تین گھونٹ پی کر چلی آتی تو جوان ہو جاتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ننھی لڑکی نے لکڑ ہارے کی طرف دیکھا اور بلک بلک کر

اور کہنے لگی: ”مجھے بھی جلد اس تالاب کا پتا بتاؤ، میں بھی وہاں جاتی ہوں اور جوان ہو کر واپس آتی ہوں۔“

لکڑ ہارے نے بہت کہا کہ ٹھیکرو میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں، مگر اس کی بیوی نے ایک نہ سنی اور کہا: ”نہیں، تم تھک گئے ہو گے۔ تم گھر میں بیٹھو اور مجھے اس کا پتا بتا دو، میں اکیلے جا کر پانی پی آؤں گی۔“ آخر لکڑ ہارے نے اسے تالاب کا پتا بتا دیا۔ وہ اسی وقت تالاب کی طرف چل دی اور تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ گئی۔

تالاب اسی طرح پانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خوشی خوشی تالاب کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس نے سوچا میں جتنا زیادہ پانی پیوں گی، اتنی ہی زیادہ جوان بن جاؤں گی۔ یہ سوچتے ہی اس نے جلدی جلدی پانی پینا شروع کیا اور ذرا سی دیر میں اتنا پی لیا کہ حلق تک بھر گیا۔

رونے لگی۔ لکڑہارا اس کی صورت دیکھتے ہی ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے بچی کو گود میں اٹھالیا اور غمگین صورت بنائے گھر کی طرف چلا آیا۔

قاتل کون؟

محمد احتشام کاظم، شیخوپورہ

بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام لوگ دربار میں جمع تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے فرش پر سرخ رنگ کے قالین پر ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ دونوں جوان جو شاہی لباس پہنے ہوئے تھے، ایک کوٹے میں سر جھکا کے کھڑے تھے۔ وہ دونوں شہزادے تھے، جن پر وزیر کے قتل کا الزام لگایا گیا تھا۔ بادشاہ نہایت انصاف پسند تھا اور اس کے انصاف کا ڈنکا دور دور تک بجاتھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کرے۔

ذیشان وزیر اعظم کا بڑا بیٹا تھا، جس نے شہزادوں پر وزیر کے قتل کا الزام عائد کیا تھا۔

بادشاہ بولا: "وزیر کے قتل پر مجھے افسوس ہے۔ حیرت ہے کہ ذیشان نے قتل کا الزام میرے بیٹوں شہزاد اور اُسامہ پر لگایا ہے، مگر ان شاء اللہ میں یہ فیصلہ نہایت انصاف کے ساتھ کروں گا اور اگر میرے بیٹے قاتل ہوئے تو انھیں وہی سزا دوں گا، جو قاتل کی سزا ہوتی ہے۔"

بادشاہ نے اپنی بات ختم کی تو ذیشان نے کہا: "بادشاہ سلامت! شہزادوں نے مجھ سے کہا تھا کہ شکار کھیلنے چلتے ہیں۔ میں مقتول وزیر کے پاس کسی کام سے جا رہا تھا، اس لیے انکار کر دیا۔ دونوں شہزادوں نے بھی شکار پر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد مقتول وزیر کوئی کاغذ لینے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں دوسرے کمرے میں تھا کہ چیخ سنائی دی، ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ یہ وہ خنجر ہیں، جن سے انھیں ہلاک کیا گیا ہے۔"

تیسرے دن لوگ دربار میں ایک
انوکھا فیصلہ سننے کے لیے جمع تھے۔ بادشاہ
تخت پر جلوہ افروز تھا۔ دونوں شہزادوں کو
دربار میں لایا گیا۔

”بولو! تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے
ہو؟“ بادشاہ نے شہزادوں سے پوچھا۔
”بادشاہ سلامت! ذیشان کے کمرے
میں کسی کو بھیجیں اور دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا
ہے؟“ اُسامہ نے سرگوشی کے انداز میں
بادشاہ سے کہا۔

”جاؤ اور جا کر ذیشان کا کمرہ دیکھ کر آؤ
کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟“ بادشاہ نے ملازموں
کو بھیجا تو وہاں بادشاہ سلامت کا قیمتی مرغ جو
بادشاہ نے دوسرے ملک سے منگوایا تھا، مرا
پڑا تھا اور اس کے سینے میں خنجر گڑا ہوا تھا۔
دونوں ملازم مرغ کو اٹھا کر بادشاہ کے پاس
لے آئے اور کہا: ”بادشاہ سلامت! آپ
کے مرغ کو کسی نے مار دیا ہے۔“

بادشاہ نے شہزادوں کی طرف دیکھ کر
کہا: ”تم دونوں اپنی صفائی میں کیا کہنا
چاہتے ہو؟“

”بادشاہ سلامت! ہم دونوں کے خنجر
کل سے غائب تھے۔ میں نے اُسامہ کو بھی
اپنے خنجر کے متعلق بتایا تو اس کا خنجر بھی
غائب تھا۔ یہ ضرور کوئی سوچی سمجھی چال
ہے۔ آپ ہمیں تین دن کا وقت دیں،
حقیقت آپ پر خود بخود کھل جائے گی۔“
اُسامہ نے رحم طلب لہجے میں بادشاہ کی
طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

”ٹھیک ہے، میں تمہیں تین دن کی
مہلت دیتا ہوں، اگر تین دن کے اندر اندر
اپنی صفائی میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے تو
تمہیں قتل کی سزا ضرور ملے گی۔“ تمام لوگ
دربار سے اُٹھ کر چلے گئے اور دربار خالی
ہو گیا۔ بادشاہ تخت پر رنجیدہ بیٹھا ہوا تھا اور
شہزادے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔

ایک شہزادے نے ادب سے کہا:
 ”بادشاہ سلامت! اس کے سینے میں جو خنجر
 اُترا ہوا ہے، کیا آپ اسے پہچان سکتے
 ہیں کہ یہ کس کا ہے؟“

بادشاہ نے انکار کیا تو بڑا شہزادہ
 بولا: ”یہ خنجر ذیشان کا ہے۔“

”کیوں ذیشان! یہ خنجر تمہارا ہے؟“
 بادشاہ نے پوچھا۔

”جی ہاں، بادشاہ سلامت!“ ذیشان
 نے جواب دیا۔

”تم نے کیوں اس مرغ کو مارا، تم
 جانتے ہو، اس مرغ کی قیمت کیا ہے؟“
 بادشاہ نے غصے سے پوچھا۔

ذیشان بولا: ”بادشاہ سلامت! میرا
 خنجر کل سے مجھے نہیں مل رہا تھا۔ میں نے
 اسے بہت ڈھونڈا، مگر نہیں ملا۔ یہ میرے
 ساتھ کھلی سازش ہے۔“ ذیشان نے اپنی
 صفائی بیان کرتے ہوئے کہا۔

شہزادہ شہزور نے کہا: ”بس بادشاہ
 سلامت! ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا ہے۔
 ہمارے خنجر چرا کر ذیشان نے خود وزیر کو قتل
 کر دیا اور الزام ہم پر لگا دیا، تاکہ ہمیں
 پھانسی یا عمر قید ہو جانے کے بعد ذیشان
 آپ کو راستے سے ہٹا کر تخت و تاج پر قبضہ
 کر لے، مگر میں ذیشان کے ملازم کرم الہی
 کا شکر گزار ہوں، جس نے مجھے یہ خط
 دکھایا، جس میں تحریر ہے کہ آپ کی کنیز
 پروین نے وزیر اعظم کے بیٹے ذیشان کے
 ساتھ مل کر یہ سازش تیار کی ہے۔“

بادشاہ نے کہا: ”خط پڑھ کر سنایا جائے۔“
 بڑے شہزادے نے خط پڑھنا شروع
 کیا: ”ذیشان! ابھی تک تم نے ایسا کوئی
 کام نہیں کیا کہ شہزادے راستے سے ہٹ
 جائیں۔ اب میں تمہیں ایک ترکیب بتاتی
 ہوں۔ شہزادوں کے خنجر چوری کر کے
 وزیر خزانہ کو قتل کر دو، تاکہ الزام

شہزادوں پر لگ جائے۔ وزیر خزانہ گھر میں اکیلے رہتے ہیں، اس لیے ان کو مارنا آسان ہوگا۔ جب دونوں شہزادوں کو پھانسی ہو جائے گی تو ہم شادی کر لیں گے اور بادشاہ کو قتل کر کے خود تخت و تاج کے مالک بن جائیں گے۔“

خط سن کر بادشاہ نے کہا: ”دونوں کو گرفتار کر لو۔ انھوں نے ہمارے ساتھ غداری کی اور ہمارے ایک قابل وزیر کو قتل کیا۔ انھیں سزائے موت دی جاتی ہے اور شہزادوں کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔“

آم مزے دار

عبدالقادر، کراچی

بازار میں آیا ہوں، مجھے آم ہیں درکار ٹھیلوں پہ نظر آتے ہیں آم کے انبار آموں کے مناظر ہیں، خوشبو ہے فضا میں محسوس یہ ہوتا ہے، لگا آم کا دربار ”انور ریٹول“ اور ”دسہری“ کے ہیں جلوے کھاتے ہیں انھیں شوق سے آموں کے طلب گار

”سندھڑی“ یہاں موجود ہے، ”لنگڑا“ بھی ادھر ہے لذت ہے خدا سب کی، ہر آم مزے دار دادا کو پسند ”چونسا“ ہے، پوتے کو ”سردی“ ہر شخص ہے آموں کی محبت میں گرفتار لذت کی یہ زنبیل ہے اور سب کو پسند ہے کرتا ہی نہیں کوئی بشر آم سے انکار یہ تختہ قدرت ہے اور سب کو میسر ہر عمر کا انسان، ہو زردار یا نادار کھاتا ہے اسے شوق سے ہر طبقے کا انسان حاکم ہو یا محکوم ہو، استاد یا لوبار میں آم کا شیدا ہوں، مجھے آم ہیں درکار ارمان یہی ہے کہ ملیں آم لگا تار

یونا، غار اور ہیرے

اعراف نعیم الدین انصاری، کراچی

بہت عرصہ گزرا کسی شہر میں دو بچے راجو اور گڑیا رہا کرتے تھے۔ یہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ایک سال کے بعد ان کے والد نے دوسری شادی کر لی، مگر افسوس کہ وہ بھی زیادہ

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد تو نہال جون ۲۰۱۴ عیسوی

۲۸۴

عرصے تک زندہ نہ رہ سکے۔ جب ان کے والد کا آخری وقت آیا تو بچوں نے محسوس کیا کہ وہ انھیں اپنے قریب بلا کر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن موت نے ان کو اتنی مہلت نہ دی۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے کہ ”کالے غار کے اندر ایک بونا.....“ پھر وہ وفات پا گئے۔

وہ دنوں جنگل میں آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ان کو سامنے ایک غار نظر آیا۔ دونوں بچے غار کو دیکھ کر ڈر گئے، لیکن راجو نے گڑیا کی ہمت بندھائی: ”میری پیاری بہن! تم باہر کھڑی رہنا میں اندر جاتا ہوں۔“ یہ کہہ کر راجو گڑیا کا جواب سنے بغیر ہی غار میں چلا گیا۔ راجو غار میں آگے آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ تاریکی زیادہ ہو گئی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے راجو کا دم گھٹ رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ کسی نرم چیز پر پڑا۔ راجو زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔

ایک دن اس نے بچوں کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانے کا حکم دیا۔ بچے جنگل میں جاتے ہوئے بہت ڈر رہے تھے، جب راجو ہوش میں آیا تو اس نے محسوس کیا وہ کسی نرم بستر پر پڑا ہوا ہے۔



سامنے ایک بوٹا اس کے پنگ کے قریب کھڑا ہے۔ راجو کو پریشان دیکھ کر بونے نے کہا: ”ڈرومت، میں تم کو سب کچھ بتا دوں گا۔ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے کہ میں درخت سے گر کر زخمی ہو گیا تھا اور نیچے پڑا کراہ رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے اٹھایا اور میری مرہم پٹی کی، جس کی وجہ سے میں بہت خوش ہوا اور کہا کہ اگر کبھی تم کو کوئی مشکل پیش آئے تو میرے پاس ضرور آنا۔ اس طرح کافی دن گزر گئے کہ اچانک ایک دن وہی آدمی میرے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ نے میرے ایک کام سے خوش ہو کر مجھے چار نہایت ہی قیمتی اور خوب صورت ہیرے دیے ہیں جو میں تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھوانا چاہتا ہوں۔ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو تم سے آکر لے جائیں گے۔

فی الحال میں ان کو اس لیے نہیں دے سکتا ہوں کہ وہ ابھی بچے ہیں اور ان کی سوتیلی ماں ان سے یہ ہیرے چھین لے گی۔ اب راجو چپ نہ رہ سکا اور اس نے پوچھا: ”وہ آدمی کون تھا؟“ بونے نے بتایا: ”وہ تمہارا باپ تھا۔ اب ان ہیروں کو تم لے جا سکتے ہو اور اگر ان ہیروں پر کوئی بری نظر ڈالے گا تو اس کا انجام بھی خود دیکھ لے گا۔“ اتنے قیمتی ہیرے دیکھ کر راجو اور گڑیا کی سوتیلی ماں کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ رات کو جب راجو اور گڑیا سو گئے تو اس نے ہیرے چرانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی اس نے ہیروں کو ہاتھ لگانا ہی چاہا تھا کہ ایک سانپ اچانک کہیں سے نکل آیا اور اس کو ڈس لیا۔ ماں کی چیخ سن کر دونوں اٹھ گئے، لیکن ماں ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے بغیر ہی ختم ہو چکی تھی۔ ☆

دنیا کے نامور ادیب

حسن ذکی کاظمی کے قلم سے

ولیم شکسپیر انگریزی ادب کے عظیم ڈراما نگار شکسپیر کے حالات زندگی، جس کے ڈرامے ساری دنیا میں پڑھنے جاتے ہیں۔ یہ کتاب اس کے کارناموں سے واقف کرانے میں بہت مددگار ہے۔

شکسپیر کی تصویر کے ساتھ خوب صورت ٹائٹل صفحات : ۲۴ قیمت : ۲۵ روپے

سیمونل ٹیلر کولرج انگریزی کے اس عظیم شاعر نے محنت، شوق اور صلاحیتوں سے خود غم سیکھا اور شعر و ادب کی دنیا میں اپنا اہم مقام بنایا۔ اس کتاب میں اس کے حالات زندگی دیے گئے ہیں۔

کولرج کی تصویر کے ساتھ خوب صورت ٹائٹل صفحات : ۲۴ قیمت : ۳۵ روپے

ولیم ورڈز ورثہ ورڈز ورثہ نے انگریزی شاعری کو ایک نیا رخ دیا۔ سائیت بھی لکھے اور مضامین بھی۔ اس کتاب میں اس کی زندگی کے حالات اور کارنامے بیان کیے گئے ہیں۔

ولیم ورڈز ورثہ کی تصویر کے ساتھ خوب صورت ٹائٹل صفحات : ۲۴ قیمت : ۳۵ روپے

برونٹے سسٹرز تین برونٹے بہنوں نے اپنی شاعری اور ناولوں کے ذریعے سے عورتوں کے حقوق اور آزادی کے لیے آواز بلند کی۔ یہ ایک دل چسپ، معلوماتی کہانی ہے، جو اس کتاب میں پڑھیے۔

برونٹے بہنوں کی خوب صورت تصویر کے ساتھ رنگین ٹائٹل صفحات : ۲۴ قیمت : ۳۵ روپے

چارلس ڈکنز عظیم ناول نگار جسے کتابیں پڑھنے کے شوق نے دنیا کے نامور ادیب کا اعلیٰ مقام عطا کیا۔

ٹائٹل پڑکنز کی خوب صورت تصویر صفحات : ۲۴ قیمت : ۳۵ روپے

ٹامس ہارڈی انگریزی کا پہلا ناول نگار جس نے گاؤں کی حقیقی زندگی کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔

ہارڈی کی تصویر سے سجا ٹائٹل صفحات : ۲۴ قیمت : ۳۵ روپے

ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان، ہمدرد سینٹر، ناظم آباد نمبر ۳، کراچی۔ ۷۴۶۰۰

آدھی ملاقات

یہ خطوط ہمدرد نونہال شمارہ اپریل
۲۰۱۳ء کے بارے میں ہیں

● بیٹے کی طرح اس بار کا شمارہ بھی رنگارنگ و دل چسپ
تحریروں سے سجا ہوا تھا۔ آجی سائیکل، ننھی مسکراہٹ لا جواب
تھیں۔ قنبر ناصر، جگنا معلوم۔

● اپریل کا شمارہ بہت ہی اچھا لگا۔ تمام کہانیاں سپر ہٹ تھیں۔
کہانیاں ننھی مسکراہٹ اور بدشگونیاں اچھی تھیں۔ ننھی گھر کے
لطف نے تو ہمیں ہنسا ہنسا کر پیٹ میں اور کروا دیا۔ انکل! کیا
ہمدرد نونہال اسپلی میں شرکت کر سکتے ہیں؟ عزیز احمد، حفیظ احمد،
خصمہ نوبہ، کراچی۔

فون ۳۶۶۱۶۳۸۲ پر رابطہ کر کے طریقہ معلوم کر لیں
اور نونہال اسپلی میں شرکت کر لیں۔

● اپریل کا شمارہ زبردست تھا۔ علم بادشاہ۔ ہے، آجی سائیکل،
ننھی مسکراہٹ، میرے ابا جان، احمق کی بیوی اور بلا عنوان
کہانی بہت زبردست تھیں۔ پڑھ کر دل خوش ہو گیا۔ چادش گل
اشت، لاٹھی، کراچی۔

● مجھے ہمدرد نونہال بہت پسند ہے، مگر مجھے اس میں کسی چیز کی
کمی لگتی ہے اور وہ ہے ڈراؤنی کہانیاں۔ میں آپ سے گزارش
کرتی ہوں کہ مہربانی کر کے ہمدرد نونہال میں ڈراؤنی کہانیوں
کا اضافہ کر دیا جائے۔ وردہ نور، جگنا معلوم۔

● اپریل کا شمارہ بہت اچھا اور عالی شان تھا۔ سردرن کی تصویر
کچھ اچھی نہیں تھی۔ باقی ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ کہانیوں میں علم
بادشاہ ہے، آجی سائیکل، احمق کی بیوی، جاگو جگاؤ، پہلی بات،
میں نہ بھولوں گا، جھوٹ کا تہوار اور دیگر کہانیاں بہت اچھی
تھیں۔ نقیسیں بھی کافی اچھی تھیں۔ ہر بار کی طرح معلومات افزا
سے معلومات میں اضافہ ہوا۔ یہ سب کچھ پڑھ کر مزہ دو با

● میں بیٹے کے لحاظ سے ایک استاد ہوں۔ مئی ۲۰۱۱ء کے مہینے
میں ہمارے اسکول کے تمام اساتذہ کو ایک ہوم ناسک دیا گیا کہ
ہر ایک استاد جب ۳۰ دن کے بعد واپس آئے تو ایک کتاب پڑھ
کر آئے گا اور اس کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار
کرے گا۔ میں ریاضی کے علاوہ کوئی کتاب نہیں پڑھتا تھا۔ مجھے
کسی طرح سے ہمدرد نونہال پڑھنے کا موقع ملا اور یہ مجھے اتنا پسند
آیا کہ جون ۲۰۱۳ء میں تین سال ہو جائیں گے۔ اس وقت سے
آج تک باقاعدہ ایک اخبار والا میرے گھر پر ہمدرد نونہال دیتا
ہے۔ میں سمجھتا ہوں نونہال پڑھنے سے جو تسکین و تازگی ملتی ہے،
اس کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا ہے۔ میری نظر میں اس کے لکھنے
والے نہایت ہی عمدہ اور بہت دل چسپ طریقے سے اپنی تحریر
پیش کرتے ہیں۔ مزید ملیاقت آ جاوے کراچی۔

● میں ہمدرد نونہال کا مطالعہ آنکھوں میں جماعت سے کر رہا ہوں
اور آج میں سندھ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں۔ لائبریری
سائنس میں ماسٹر کا طالب علم ہوں، مگر آج بھی میں ہمدرد نونہال
کا مطالعہ اسی شوق سے کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ ہمدرد نونہال اسی
طرح روشنی پھیلاتا رہے۔ محمد علی رشید، حیدرآباد۔

● سردرن بہت ہی پسند آیا، جس میں ننھے منے بچے کو ہنر رنگ
کے پس منظر کے ساتھ بڑی خوب صورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔
مستقل سلسلوں کے بعد بلا عنوان سلسلے کی کہانی تو بہت ہی اچھی
تھی، بدشگونیاں بھی ایک منفرد کہانی تھی۔ علم در پیچے سے قانون
پسند ماں کا چور بیٹا بہت ہی خوب تھی۔ نظموں میں بھائی چارہ
(ضیاء الحسن ضیا)، اپنا شاعر ہے اقبال (نئی دہلی) پیاری
تھیں۔ محمد اجمل شاہین انصاری، لاہور۔

خاص نمبر | ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ء | ۲۸۸

ہو گیا۔ فیب احمد رند جاوا، سا گھڑ۔

● اپریل کا شمارہ زبردست تھا۔ علم بادشاہ ہے (مسعود احمد برکاتی)، آسچی سائیکل (عبدالرؤف تاجور)، ننھی مسکراہٹ (محمد اقبال شمس) اور بلا عنوان کہانی تو زبردست تھی۔ طلحہ محمد اسلم، میر پور خاص۔

● اپریل کا شمارہ ہمیشہ کی طرح بہت دل چسپ تھا۔ پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ ہر تحریر قابل تعریف تھی۔ انکل! بچوں کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ آدھیہ، عائشہ، آمنہ قیصر، کراچی۔

بچوں کا عالمی دن ۲۰ نومبر کو منایا جاتا ہے اور یہ ۱۹۵۹ء سے منایا جا رہا ہے۔

● اپریل کی تمام کہانیاں اور تحریریں اچھی تھیں۔ عاقب جنید، احمد جنید، جویریہ کرن، منشی خان، چکوال۔

● اپریل کا شمارہ بہت اچھا لگا۔ نائل کچھ خاص نہیں تھا۔ اس مرتبہ کی پہلی بات واقعی ایک خاص بات تھی۔ لطیف تو بہت ہی چٹ پٹے تھے۔ واحد بھائی کی کہانی ایک بار پھر بازی لے گئی۔ کہانی امتق کی بیوی بھی اچھی تھی۔ اسما جبین، کراچی۔

● اپریل کا شمارہ پڑھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ امتق کی بیوی، آسچی سائیکل، ننھی مسکراہٹ اور میرے بابا جان، بہت چٹ پٹی اور مزے دار کہانیاں تھیں۔ نوشاد عادل کی کہانی "بدشگونیاں" پھر نمبر لے گئی۔ لجنی جبین، کراچی۔

● جاگو جگاؤ پڑھ کر نہ جانے کیوں لگتا ہے کہ حکیم سعید زندہ ہیں اور واقعی وہ زندہ ہیں۔ پہلی بات پڑھی، اس صبیحے کا خیال اچھا تھا۔ بلا عنوان نمبر دن تھی۔ دوسرے نمبر پر ننھی مسکراہٹ تھی، تیسرے نمبر پر امتق کی بیوی، چوتھے نمبر پر آسچی سائیکل۔ مزاح میں تو نوشاد عادل کمال رکھتے ہیں۔ ان پر ہم کیا لکھیں۔ مضامین میں علم بادشاہ ہے ٹاپ پر تھی۔ اپریل فول پر نسرین شاہین اور ادیب حسن کی کاوش اچھی، بلکہ اعلیٰ تھی۔ نظمیں اور

لطیف سب اچھے تھے۔ محمد تو قیصر اعزاز، کراچی۔

● ہمدردی تو نہال طالب علموں کا راہ نما، بچوں کا ساتھی، علم زدوں کا غم خوار، ہماری خوشیوں کا ساتھی، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے اور ہمارا استاذ بھی ہے۔ ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم شہید حکیم محمد سعید کا بہت شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ انھوں نے ہمیں نہال جیسا دوست دیا۔ حافظہ سعدت نسوی، کراچی۔

● کہانیاں نہایت عمدہ تھیں۔ واحد بھائی کی کہانی پڑھ کر پھر انہی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ آسچی سائیکل کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر کہانی میں کیا تھا۔ جاگو جگاؤ سے جاگتے ہوئے پہلی بات سن کر خیالات روشن کیے۔ نظمیں ساری اچھی تھیں۔ مدیحہ رمضان بھٹ، اوٹھل لیل۔

● آپ کی تحریر علم بادشاہ ہے نے سچ سچ علم کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ آسچی سائیکل پڑھ کر ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مسکراتی لکیریں بھی انہی سے بھر پور تھی۔ کہانی "بدشگونیاں" پڑھ کر تو میں زور زور سے ہنسنے لگی۔ صبا، عبدالغنی، کراچی۔

● اپریل کے شمارے کی زبردست کہانی بدشگونیاں (نوشاد عادل) یعنی واحد بھائی والی تھی۔ دوسری کہانیاں کچھ خاص نہیں تھیں۔ اپریل فول کے متعلق کہانیاں سچی آواز تھیں۔ خاص کر "میں نہ بھولوں گا" کہانی پڑھ کر ہم نے وعدہ کیا کہ کبھی اپریل فول نہیں منائیں گے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کریں گے۔ کرن فاضل حسین، نیو چر کالونی۔

● اس ماہ کا شمارہ شان دار تھا۔ امتق کی بیوی کہانی بہت پسند آئی۔ فاخرہ ساجد، منٹو، کراچی۔

● اس بار شمارہ بہت شان دار تھا۔ سرورق بہت دل کش تھا۔ تمام کہانیاں لاجواب تھیں۔ آسچی سائیکل (عبدالرؤف تاجور)، ننھی مسکراہٹ (محمد اقبال شمس)، امتق کی بیوی (امیر احسن) اور بلا عنوان کہانی بہت دل چسپ تھی۔ بدشگونیاں (نوشاد عادل)

خاص نمبر | ماہ نامہ ہمدردی تو نہال جون ۲۰۱۴ عیسوی | ۲۸۹

پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ فہد حسین، کراچی۔

● ہمدرد نونہال بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ اپریل کے شمارے میں سب کہانیاں بہت زبردست تھیں، لیکن لطیفے کچھ خاص نہیں تھے۔ کنول کیر جو، کراچی۔

● اپریل کا شمارہ ملا دل پارخ پارخ ہو گیا، جاگو جگاؤ سے داغ کو بگایا۔ اس مہینے کا خیال بہت خوب تھا، پھر روشن خیالات سے مستفید ہوئے۔ نظمیں اور کہانیاں سب اچھی تھیں۔ اجتی کی بیوی، ننھی مسکراہٹ، آہی سائیکل، علم بادشاہ ہے اور بدشگونیاں زیادہ اچھی تھیں۔ مسکراتی ٹیکریں ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ باقی سب سلسلے اچھے تھے۔ شمارہ دل، چاہ تارے والا۔

● اپریل کا شمارہ بہت عمدہ تھا۔ حکیم محمد سعید کی باتیں بہت پسند آئیں۔ اس مہینے کا خیال تو واقعی بہت زبردست تھا۔ مجھے ہمدرد نونہال بہت پسند ہے، کیوں کہ اس نے میری اردو کو بہتر بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ کہانیوں میں سب سے مزے دار کہانی "بدشگونیاں" تھی۔ اس کے علاوہ تمام تحریریں بہت دل چسپ تھیں۔ نظموں میں لکھن بھائی چارو بہت پسند آئی۔ مونس عمران، کراچی۔

● ساری کہانیاں، نظمیں، سب کچھ اچھا تھا اور بدشگونیاں (نوٹادعا دل) کی تو کیا ہی بات ہے۔ فرحین علی خان، صوابی۔

● ہمدرد نونہال کا تازہ شمارہ روح کو تازہ کر گیا۔ جاگو جگاؤ، پہلی بات اور حمد کی کیا بات ہے۔ ہر تحریر ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن آہی سائیکل، ننھی مسکراہٹ، بدشگونیاں، میں نے بھولوں گا اور بلا عنوان کہانی خاص طور پر پسند آئیں۔ نظمیں اور لطائف بھی اچھے تھے۔ محمد حسیب نواز قادری، کاموگی۔

● کہانیوں میں علم بادشاہ ہے، آہی سائیکل، جھوٹ کا تہوار، میرے ابا جان، اجتی کی بیوی، اور بلا عنوان کہانی بہت ہی مزے دار تھیں۔ انسی گھر پڑھ کر بہت انسی آئی۔ نظمیں بھی بہت خوب صورت تھیں۔ محمد حامد رضا قادری، کاموگی۔

● ہمیشہ کی طرح اس بار بھی نونہال کا شمارہ بہترین تھا۔ علم

بادشاہ ہے اور میرے ابا جان سنیق آموز مضمنا میں تھے۔ بلا عنوان کہانی پہلے نمبر پر رہی۔ نوٹادعا دل کی بدشگونیاں میں دل چسپی کا سامان وافر مقدار میں تھا۔ اس کے علاوہ حمد باری تعالیٰ (مشاق حسین قادری)، جاگو جگاؤ، پہلی بات، آہی سائیکل اور میں نے بھولوں گا بے حد پسند آئیں۔ خدیجہ نشان، کاموگی۔

● اپریل کا شمارہ بہت زبردست تھا۔ علم بادشاہ ہے، ننھی مسکراہٹ، بلا عنوان کہانی تو سب سے اچھی تھی۔ انکل نونہال مصور کے لیے اپنی ڈرائنگ کیسے بھیجیں؟ عروج اسلام اختر، قافلہ اسلام اختر، کراچی۔

جس طرح یہ خط بھیجا ہے، اسی طریقے سے بھیج دیں۔

● مشاق حسین قادری کی خوب صورت حمد نے دل موہ لیا۔ علم بادشاہ ہے (مسعود احمد برکاتی)، آہی سائیکل (عبدالرزاق تاجور)، اجتی کی بیوی (ابرار محسن) بہترین تحریریں تھیں۔ بلا عنوان کہانی (جاوید بسام) سب پر بازی لے گئی۔ نوٹادعا دل کی "بدشگونیاں" اتنی دل چسپ اور مزاحیہ تھی کہ میں نے گھر والوں کو جب پڑھ کر سنائی تو سب کا ہنس ہنس کر نرہ حال ہو گیا۔ حسن رضا سردار، کاموگی۔

● علم بادشاہ ہے، ننھی مسکراہٹ، اجتی کی بیوی، بلا عنوان کہانی، بدشگونیاں اور میں نے بھولوں گا شمارے کی جان ہیں۔ صدام حسین قادری، کاموگی۔

● علم بادشاہ ہے، بدشگونیاں، میں نے بھولوں گا اور بلا عنوان کہانی بہترین تحریریں ہیں۔ نور فاطمہ قادری، کاموگی۔

● ہمدرد نونہال کا ہر شمارہ پچھلے شمارے سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کی پوری ٹیم پوری تہذیب کے ساتھ نونہالوں کی تربیت کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ اس مہینے بہترین کہانی کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ بدشگونیاں، آہی سائیکل، علم بادشاہ ہے اور میں نے

خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ عیسوی

۲۹۰

بھولوں گا یادگار تحریریں ہیں۔ محمد معین الدین قادری، کاموگی۔

● اپریل کا شمارہ عام شماروں کی طرح زبردست تھا۔ جسے پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ خاص طور پر آئینی سائیکل (عبدالرؤف تاجور) بہت اچھی لگی۔ سکیل احمد بابوزئی، مردان۔

● مجھے نونہال ادیب پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اس دفعہ بلا عنوان کہانی بھی بہت اچھی تھی۔ معلومات افزا کے جواہرات ڈھونڈنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے۔ کیا میں نونہال مصور میں دیکھ ساتھ دو تصویریں بھیج سکتی ہوں؟ "مہر کامران" اورنگی ٹاؤن۔

ضرور، لیکن ہوں دونوں مجھ کو۔

● اپریل کا شمارہ بہت اچھا لگا۔ کہانیاں سب اچھی لگیں جن میں احمق کی بیوی، بلا عنوان، ننھی مسکراہٹ شامل تھیں۔ ننھی مسکراہٹ لگا۔ زوش شیراز، حاد، میر پور خاص۔

● میں ہمدرد نونہال بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ اس بار سب کہانیاں پسند آئیں اور ننھی مسکراہٹ بھی لیک تھا۔ عشاء، انصاف، انصافی، میر پور خاص۔

● اپریل کا شمارہ بہت زبردست تھا۔ جاگو جگاؤ میں ایک اچھا سبق تھا۔ آفتاب ہدایت بھی ایک اچھا مضمون تھا۔ علم بادشاہ ہے زبردست تحریر تھی۔ کہانوں میں آئینی سائیکل، ننھی مسکراہٹ، بدشگونیاں، احمق کی بیوی، میں نہ بھولوں گا اور بلا عنوان کہانی ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ میرے ابا جان بھی ایک زبردست مضمون تھا۔ نظموں میں اپنا شاعر ہے اقبال، بھائی چارہ اور بہار کا موسم اچھے تھے۔ غرض پورا سال زبردست تھا۔ حافظ عبدالعزیز بن عمر خطاب، کراچی۔

● اپریل کا شمارہ ماشا اللہ سے بہت اچھا تھا۔ ننھی مسکراہٹ (محمد اقبال ٹرسٹ)، میں نہ بھولوں گا (ادیب سجاد چمن)، احمق کی بیوی (امیر الحسن)، میرے ابا جان (ڈاکٹر جاوید اقبال) اور آئینی سائیکل (عبدالرؤف تاجور) بہت پسند آئی۔ سب سے

ٹاپ پر بدشگونیاں (نوشاد عادل) اردنی۔ اس کے علاوہ لطیف اور علم در پیچے بہت شان دار تھے۔ لاصہہ اعجاز، لائٹ می، کراچی۔

● اپریل کا شمارہ بھی تمام شماروں کی طرح بے حد خوب صورت اور معلوماتی تھا۔ علم بادشاہ ہے، میرے ابا جان، معلوماتی تحریریں تھیں۔ احمق کی بیوی اور بدشگونیاں تو پڑھ کر ہنستے ہنستے ہیٹ میں درو ہو گیا۔ اس مہینے کا خیال بھی اچھا تھا۔ ناویہ اقبال، کراچی۔

● اپریل کا نونہال بہت زبردست تھا۔ سرورق بھی اچھا تھا۔ کہانیوں میں بلا عنوان کہانی (جاوید بسام)، احمق کی بیوی (امیر الحسن)، آئینی سائیکل (عبدالرؤف تاجور) اور علم بادشاہ ہے (مسعود احمد برکاتی) اچھی تھیں۔ نظموں میں بہار کا موسم اور نونہال بہت اچھی تھیں۔ حبیب الرحمن، کراچی۔

● ہیٹ کی طرح اس ماہ کا رسالہ بھی خوب تھا۔ پڑھنے میں بہت مزہ آیا۔ جاگو جگاؤ سے لے کر نونہال لغت تک بہت دل چسپ اور بہترین تھا۔ فہد شاہ، نضیب شاہ، مانسہرہ۔

● بدشگونیاں بہت اچھی اور مزاحیہ تحریر تھی۔ ننھی مسکراہٹ بھی اچھی کہانی تھی۔ مضمون میرے ابا جان نے تو دل جیت لیا۔ ایسی کہانیاں ضرور شائع ہونی چاہئیں جن میں سبق اور مزاح دونوں ہوں۔ باقی تمام کہانیاں لاجواب تھیں، البتہ آئینی سائیکل کچھ خاص نہیں تھی۔ عروج، فریڈ سلطان، نسیم اختر، ڈیڑھ گاڑی خان۔

● اپریل کا شمارہ بہت بہترین تھا۔ تمام کہانیاں سپر ہیٹ تھیں۔ خاص طور پر علم بادشاہ ہے، آئینی سائیکل، ننھی مسکراہٹ، احمق کی بیوی اور بلا عنوان کہانی۔ جاگو جگاؤ اور پگلی بات بہت اچھے سلسلے ہیں۔ روشن خیالات کے تو کیا کہنے۔ مسکرائی لکھیں بھی ادا اس چہروں پر مسکرائیں بکھیرنے کا کام بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیے جارہی ہیں۔ واحد بھائی کے بارے میں بدشگونیاں نے خوب گدگدایا۔ محمد قمر الزماں، خوشاب۔

● تمام کہانیاں بہترین تھیں۔ خاص طور پر احمق کی بیوی پسند

آئی۔ علم در پیچے اور نونہال ادیب بھی اچھے لگے۔ روشن خیالات نے تو ہمیں روشن کر دیا۔ عبید الرحمن، حیدر آباد۔

● ہمدرد نونہال بہترین رسالہ ہے۔ اپریل کا شمارہ بھی بہترین تھا۔ ہر کہانی ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ علم بادشاہ ہے (مسعود احمد برکاتی) بہت اچھی تحریر تھی۔ ہنسی گھر کے لٹیفے تو شان دار تھے۔ باقی تو پورا شمارہ ہی اچھا تھا۔ کس کس کی تعریف کروں۔ سیف الرحمن، حیدر آباد۔

● اپریل کے شمارے کی ہر چیز بہترین تھی۔ جاگو جگاڈ نے تو ہمیں جگا ہی دیا۔ پہلی بات کیا زبردست لگتی ہے آپ۔ روشن خیالات بھی اچھے لگے۔ علم در پیچے بھی بہترین سلسلہ ہے۔ کہانیاں تو تمام ہی اچھی تھیں، لیکن احمق کی بیوی بہت ہی اچھی لگی۔ برکاتی صاحب کی تحریر علم بادشاہ ہے بہت ہی اچھی تھی۔ رمیدہ عمر بہت ظلیل الرحمن، حیدر آباد۔

● جاگو جگاڈ میں حکیم صاحب کی ہمیشہ یاد رہنے والی سادہ اور آسان الفاظ میں پیاری باتیں دل کو لگتی ہیں۔ اس مینے کا خیال اور پہلی بات سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ روشن خیالات، محمد ہادی تعالیٰ اور محمد عبداللہ کی تحریر آفتاب ہدایت بہت ہی بہترین رہیں۔ آپ کی تحریر علم بادشاہ ہے پڑا اثر سادہ الفاظ میں تھی۔ آپ کی تحریر تو ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہے۔ بہادر علی حیدر بلوچ، کنڈیارو۔

● تمام تحریریں زبردست تھیں۔ کہانیوں میں آئینی سائیکل، ہنسی مسکراہٹ، بدشگونیاں اور میں نے بھولوں گا پیرہٹ تھیں۔ لطائف بھی اچھے تھے۔ میرے ابا جان بہت اچھی تحریر تھی۔ سادہ حادہ، لیصل آباد۔

● جاگو جگاڈ اور پہلی بات نے بہت اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی، جب کہ روشن خیالات ہمیشہ کی طرح روشن تھے۔ آئینی سائیکل اور مسکراتی لکیریں اچھی کاڈیشن نہیں تھیں۔ بدشگونیاں نے رسالے میں مزاح اور روح چھونک دی۔ ہنسی مسکراہٹ، میرے ابا جان، احمق کی بیوی، میں نے بھولوں گا، تمام ہی ایک

سے بڑھ کر ایک تھیں۔ بلا عنوان کہانی اور ہنسی گھر نے تو خوش کر دیا۔ سیدہ عائشہ ظلیق الرحمن، کراچی۔

● اپریل کے شمارے میں نوشاد عادل کی کہانی ”بدشگونیاں“ سب پر حاوی رہی اور اسے اول نمبر قرار دے سکتے ہیں۔ جاوید بسام کی ”بلا عنوان“ بھی تجسس سے بھر پور انوکھی کہانی تھی۔ ادیب سنیچ چمن کی ”میں نے بھولوں گا“ بھی یکدم کم نہ رہی۔ عبدالرؤف تاجور کی ”آئینی سائیکل“ محمد اقبال ٹپس کی ”ہنسی مسکراہٹ“ بھی قابل تعریف کاڈیشن رہیں۔ آپ کی ”پہلی بات“ مشتاق قادری کی ”محمد ہادی تعالیٰ“ ضیاء الحسن ضیا کی نظم ”بھائی چارہ“ اور آپ کا مضمون ”علم بادشاہ ہے“ کی تعریف نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی۔ انکل سرورق کے لیے سوبائل فون سے لی گئی فونو رسالہ کر سکتے ہیں؟ پیر حیدر علی شاہ، حیدر آباد۔

سرورق فونو گراف سے ہی اچھا چھپتا ہے۔
سوبائل فون کی تصویر زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔

● اپریل کا شمارہ بہت ہی اچھا لگا۔ تمام کہانیاں اور نظمیں زبردست تھیں۔ لیکن سرورق کچھ اچھا نہیں لگا۔ طارق محمود کھوسو، کشمور۔

● سرورق سے لفت تک سب زبردست تھا۔ کہانیاں سب اچھی تھیں۔ آئینی سائیکل (عبدالرؤف تاجور)، ہنسی مسکراہٹ (محمد اقبال ٹپس)، میرے ابا جان (جاوید اقبال)، احمق کی بیوی (ابراہیم حسن)، بلا عنوان کہانی (جاوید بسام) اور لطیفوں نے تو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ اس مینے کا خیال بہت اچھا تھا۔ شہزاد علی حور میں، جگہ معلوم۔

● بدشگونیاں زبردست کہانی تھی۔ قبیبوں سے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ آئینی سائیکل، احمق کی بیوی بھی اچھی کہانیاں تھیں۔ آفتاب ہدایت، علم بادشاہ ہے اور علم در پیچے بھی پسند آیا۔ مجھے بدشگونیاں اتنی پسند آئی کہ میں نے اپنی آپنی کو بھی سنائی اور ہم مل کر خوب ہنسنے اور اسی وجہ سے میں غلط لکھنے پر مجبور ہو گئی۔ اور یہ بھی، ایک۔

● اپریل کا شمار زبردست تھا۔ تمام کہانیاں اچھی لگیں۔ کہانیوں میں پہلے نمبر پر نمنی مسکراہٹ، دوسرے نمبر پر بلا عنوان کہانی، جب کہ تیسرے نمبر پر احمق کی بیوی اور میں نے بھولوں کا زبردست تھیں۔ نونہال ادیب میں تانق شاگرد اور نیولین بونا پارٹ کہانیاں اچھی تھیں۔ نغموں میں "نونہال" نظم اچھی لگی۔ انکل پیاری سی پیاز کی لڑکی اور موٹی کر سنو کا نواب کی کیا قیمت ہے؟ میں یہ کتابیں منگوانا چاہتی ہوں۔ عرشہ نوید، کراچی۔

پیاری سی پیاز کی لڑکی ۶۵ روپے کی اور موٹی کر سنو کا نواب ۳۰ روپے کی ہے اور دس روپے ڈاک خرچ یعنی کل ۱۱۵ روپے کا سنی آرڈر بھیج کر منگوا سکتی ہیں۔

● ہر ماہ کی طرح اس ماہ کا شمار بہت زبردست تھا۔ مجھے بچوں کے رسالوں میں ہمدرد نونہال بہت پسند ہے۔ نام پتا معلوم۔

● ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی جاگو جگا ڈاؤر پہلی بات نے دل پر اثر کیا۔ روشن خیالات اور جذبہ باری تعالیٰ سے مستفید ہوتے ہوئے آفتاب ہدایت اور علم بادشاہ ہے پر پینچے دونوں مضامین دل پر اثر کرنے والے تھے۔ اپنا شاعر ہے اقبال خوب صورت نظم ہے اور بھائی چارہ بھی اچھی لگی۔ میرے ابا جان معلوماتی مضمون تھا۔ پڑھ کر اچھا لگا۔ آبی سائیکل اچھی نہیں لگی۔ نمنی مسکراہٹ، بدشگونیاں، جھوٹ کا تہوار، میں نے بھولوں کا اچھی کہانیاں تھیں۔ آمنہ مصعبیہ، عائشہ حسن، نارنگی نام آہو۔

● کہانیوں میں نمنی مسکراہٹ (محمد اقبال شمس)، بلا عنوان کہانی (جاوید بسام) اور آبی سائیکل اچھی تھیں۔ نظمیں تو تمام ہی پسند آئیں اور تمام سلسلے ہی زبردست ہیں۔ شریا کوثر عبدالستار انصاری، لاہور۔

● اپریل کا شمار بہت دل چسپ تھا۔ انسی گھر کے لطیفے بہت مزے دار تھے اور نظم میں عبد باری تعالیٰ اور کہانی میں بدشگونیاں بہت اچھی تھی۔ ایمان اسلم علی، کراچی۔

● اپریل کا شمار زبردست تھا۔ جاگو جگا ڈاؤر پہلی بات سبق آموز تھی۔ تمام کہانیاں زبردست تھیں۔ فاطمہ الزہراء، اسلام آباد۔

● اپریل کا شمار بہت زبردست تھا۔ خاص طور پر آبی سائیکل، میرے ابا جان اور احمق کی بیوی بہت زبردست تھیں۔ حظل فاروق، جگ معلوم۔

● اپریل کا شمار بہت ہی دل چسپ اور مزے دار تھا۔ احمق کی بیوی (ابرار حسن) پڑھ کر بہت ہی مزہ آیا، غرض ساری کہانیاں اچھی تھیں۔ محمد اذعان خان، کراچی۔

● اپریل کا شمار بہت مزے دار تھا۔ ساری ہی کہانیاں مثلاً احمق کی بیوی، نمنی مسکراہٹ، آبی سائیکل وغیرہ بہت پسند آئیں۔ یہ رسالہ بہت ہی معیاری ہے۔ جیرہ صابر، کراچی۔

● تمام سلسلے چمک دکھ لیے موجود تھے۔ کہانیاں تو سب ہی پسند آئیں۔ بدشگونیاں، احمق کی بیوی اور میں نے بھولوں کا، اچھی تھیں۔ نظم نونہال اور بیمار کا موسم زبردست تھیں۔ محمد افضل انصاری، چوہنگ سٹی۔

● اپریل کا شمار بہت تھا۔ بدشگونیاں (نوشاد عادل)، آبی سائیکل (عبدالرؤف تاجور)، بہت مزید کہانیاں تھیں۔ انیس پڑھ کر بہت ہنسی آئی۔ نمنی مسکراہٹ، جھوٹ کا تہوار، میں نے بھولوں کا، بہت سبق آموز تحریریں تھیں۔ بلا عنوان کہانی طویل، لیکن بہت خوب صورت تھی۔ مریم زیدی، کراچی۔

● بلا عنوان کہانی (جاوید بسام)، نمنی مسکراہٹ (محمد اقبال شمس) یہ دونوں کہانیاں بہت اچھی لگیں اور انکل آپ تو نکلتے ہی خوب ہیں۔ میرے ابا جان (جاوید اقبال) پڑھ کر اچھا لگا۔ آفتاب ہدایت (محمد عبدالقد) بھی اچھی تحریر تھی۔ علم ورپے کے تمام اقتباسات بہترین لگے۔ نظمیں بھی سب عمدہ تھیں۔ غرض پورا رسالہ ہی آپ کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ مافد محمد عثمان، نیو کراچی۔

خاص نمبر ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ عیسوی ۲۹۳

جوابات معلومات افزا - ۲۲۰

سوالات اپریل ۲۰۱۳ء میں شائع ہوئے تھے

اپریل ۲۰۱۳ء میں معلومات افزا-۲۲۰ کے جو سوالات دیے گئے تھے، ان کے جوابات ذیل میں لکھے جا رہے ہیں۔ ۱۶ صحیح جوابات بھیجنے والے نونہالوں کی تعداد صرف پندرہ تھی، اس لیے قرعہ اندازی نہیں کی گئی۔ ان پندرہ نونہالوں کو انعامی کتاب بھیجی جائے گی۔ باقی نونہالوں کے نام شائع کیے جا رہے ہیں۔

- ۱۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ۳۳ سال کی عمر میں آسمان پر اٹھایا گیا۔
- ۲۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صلح حدیبیہ سنہ ۶ ہجری میں طے پائی تھی۔
- ۳۔ سب سے پہلے پولیس کا محکمہ حضرت عمر فاروقؓ کے دور حکومت میں قائم کیا گیا تھا۔
- ۴۔ عظیم مسلمان سائنس دان بوعلی سینا نے ۱۰۳۷ء میں وفات پائی۔
- ۵۔ عربی زبان کے حروف تہجی کی تعداد ۲۸ ہے۔
- ۶۔ پاکستان میں سب سے طویل دورِ صدارت محمد ایوب خاں کا تھا۔
- ۷۔ پاکستان میں تیار کردہ پہلی جیب کا نام نشان رکھا گیا تھا۔
- ۸۔ ”رستم پاکستان“ کا خطاب بھولو پہلوان کو دیا گیا تھا۔
- ۹۔ ”کاسابلانکا“ مراکش کا ایک شہر ہے۔
- ۱۰۔ ترکی کے قدیم شہر ”سمرنا“ کا نام تبدیل کر کے از میر رکھا گیا ہے۔
- ۱۱۔ شہری دفاع کا عالمی دن یکم مارچ کو منایا جاتا ہے۔
- ۱۲۔ مغل بادشاہ شاہجہاں کے سب سے بڑے بیٹے کا نام دارا شکوہ تھا۔
- ۱۳۔ ”بڑب“ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں، گردہ، جماعت، جنتا۔
- ۱۴۔ ”WALNUT“ انگریزی زبان میں اخروٹ کو کہتے ہیں۔
- ۱۵۔ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے: اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا۔
- ۱۶۔ مرزا داغ دہلوی کے اس شعر کا دوسرا مصرع اس طرح درست ہے:
خبریں کمرے مرنے کی وہ بولے رقیبوں سے خدا بخشے، بہت سی خوبیاں تمہیں مرنے والے میں

قرع اندازی میں انعام پانے والے خوش قسمت نونہال

☆ کراچی: ناعمہ تحریم، اریبہ امجد، حافظہ عبدالعزیز، سعیدہ شفیق، تحریم خان
 ☆ ساکنٹر: محمد ثاقب منصور، نیب احمد رندھاوا، پشاور: ہانیہ شہزاد، عبدالعزیز اسلم خان
 ☆ تلہ گنگ: عاطف ممتاز، حیدرآباد: ماورخ، ٹوبہ ٹیک سنگھ: سعیدہ کوثر مغل، عاتکہ طاہر
 ☆ ڈیرہ اللہ یار: شیراز سکندر بلنگی، کرک: روحین زمان۔
 (اس بار سولہ درست جواب دینے والے نونہال صرف پندرہ تھے۔)

۱۵ درست جوابات بھیجنے والے سمجھ دار نونہال

☆ کراچی: سعیدہ محمد شاکر، عائشہ قیصر، ماثورہ بلال، مریم عبدالرب، سارہ مظفر، سید اعظم مسعود، گوجرانوالہ:
 خدیجہ نشان، حسن رضا سردار، صدام حسین قادری، نور فاطمہ قادری، محمد حامد رضا قادری، محمد معین الدین قادری،
 محمد حسیب نواز قادری، حیدرآباد: شمیم خان، سید محمد عمار حیدر، راولپنڈی: فارحہ عافیہ، محمد ارسلان ساجد
 لاہور: امتیاز علی ناز، وہاب عرفان، صفی الرحمن، مطیع الرحمن، میر پور خاص: بلال احمد، ڈیرہ اللہ یار: عمران
 خان کٹہار، ملتان: ثمینہ کاشف شجاع، اسلام آباد: فرحین، میانوالی: عبیرہ حنا، پشاور: شبیر احمد
 خوشاب: محمد قمر الزماں، بہاول پور: بشرہ حسین، صوابی: فرحین علی خان۔

۱۳ درست جوابات بھیجنے والے علم دوست نونہال

☆ کراچی: سید عثمان علی جاوید، سیدہ جویریہ جاوید، سیدہ باذل علی اظہر، سیدہ شہباز علی اظہر، عائشہ عمران احسن،
 کرن مرسلین، علیزہ سہیل، شمسہ کنول عثمانی، حسن رضا قادری، ملیکہ زیدی، رضی اللہ خان، سیدہ مریم محبوب، سیدہ
 ساکنہ محبوب، سیدہ سبطین احمد، عشاق ملک، علیہ لطیف، نور الصباح محمد اوریس، سید حسن نبیل، سیدہ عائشہ خلیق الرحمن،
 بہت محمد طارق عبدالباری، لقمان، سید حسن نبیل، حیدرآباد: عائشہ ایمن عبداللہ، اریبہ انجم، ٹنڈوالہیار: مدثر
 اختر، شازمہ اختر، اول تھل، لسبیلہ: مدیحہ رمضان، بہتہ، سیالکوٹ: صبیح الحسن، میر پور خاص: طلحہ محمد اکرم

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ عیسوی	۲۹۵
----------	--------------------------------------	-----

☆ واہ کیت: محمد شعیب انور ☆ بھکر: محمد مجیر خان ☆ اسلام آباد: حسین ☆ کوٹ ادو: فاکہ شیراز خان
☆ راولپنڈی: شایان علی، سہیل ناصر ☆ بے نظیر آباد: فضلہ سعید خانزادہ ☆ سرگودھا: زین خان ☆ اوٹھل: مدیحہ
رمضان بٹ ☆ آزاد کشمیر: محمد جواد چغتائی ☆ پشاور: محمد حیات خان۔

۱۳ درست جوابات بھیجنے والے مخلصی توںہال

☆ کراچی: سید محمد طیب، ماہم شہباز احمد، لاعبہ اعجاز، سید زین العابدین، یریرہ، محمد سلمان شاہد، جاوید نیر قریشی،
اریب، محمد مصعب علی، اقرا، فصیح، نوید احمد فرید، معز احمد نوین، جاوید خانزادہ، محمد آصف انصاری، ہانیہ حبیب، حمزہ
ایمان، نوید احمد فرید، معز احمد ☆ بھکر: عمر رضا ملک، رانا بلال احمد ☆ انک شہر: اسماء عثمان ☆ میرپور خاص: تازش
محمد اکرم، روضہ محمود ☆ حیدرآباد: ملائکہ خان ☆ ٹنڈو الہیار: محمد صمیان خان ☆ گھوگی: زینب اشتیاق
☆ چامشورو: حافظہ مصعب سعید ☆ سرگودھا: ارفع افتخار ☆ راولپنڈی: فاطمہ الزہرا ☆ بہاول پور: محمد احمد شاکر
☆ لاہور: محمد شادمان صابر۔

۱۲ درست جوابات بھیجنے والے پُر امید توںہال

☆ کراچی: آسیہ جاوید، مریم سرور، فہد فدا حسین کیریو، عریشہ بنت حبیب الرحمن، عریشہ نوید، حمنہ رحمن، عائشہ
افضل، محمد ازعان خان، واجد گیسوئی، آسیہ جاوید احمد شیخ ☆ ملتان: محمد طلحہ صغور، ایمن ☆ ساہیوال: حافظہ خدیجہ
آمنہ ☆ دریا خان: عبداللہ شاہ ☆ بھکر: محمد ارسلان تبسم ☆ نواب شاہ: حفصہ محمد طاہر قریشی ☆ کشمور: طارق
محمود کھوسو ☆ صادق آباد: مقدس لطیف ☆ شیخوپورہ: احسان الحسن ☆ سکمر: قلزہ مہر، عمارہ ثاقب ☆ راولپنڈی:
عبدالرحمن ☆ انک: بی بی سارہ شعیب۔

۱۱ درست جوابات بھیجنے والے پُر اعتماد توںہال

☆ کراچی: وردہ نور، تحلیل ارشد، عبیر کامران، روسن، طاہر مقصود، محمد فیضان ملک، رضوان ملک، اقبال احمد
خان، ایمان اسلم علی، منزل عبدالعزیز، ولید جلال راولپنڈی: حاجرہ ابرائیم درک ☆ لاڑکانہ: انظیر علی پٹھان ☆ میر
پور خاص: حفصہ اکرم ☆ واہ کیت: عبداللہ ☆ بھکر: محمد حظلہ فاروق ☆ واہ: صائمہ ارشد ☆ حیدرآباد: پیر حیدر
☆ علی شاہ ☆ سرگودھا: محمد علیان جاوید۔

☆ خاص نمبر

ماہ نامہ ہمدرد توںہال جون ۲۰۱۴ عیسوی

۲۹۶



بلا عنوان کہانی کے انعامات

ہمدرد نونہال اپریل ۲۰۱۳ء میں جناب جاوید بسام کی بلا عنوان انعامی کہانی شائع ہوئی تھی۔ اس کہانی کے بہت اچھے اچھے عنوانات موصول ہوئے۔ کمیٹی نے بہت غور کرنے کے بعد ایک عنوان ”تصویر کی حقیقت“ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ عنوان ہمیں مختلف جگہوں سے تین نونہالوں نے ارسال کیا ہے۔ ان نونہالوں کو انعام کے طور پر ایک کتاب بھیجی جا رہی ہے:

۱۔ امامہ حسن، کراچی

۲۔ سیدہ سبیکہ زہرہ، کراچی

۳۔ محمد طہ اصفدر، ملتان

﴿ چند اور اچھے اچھے عنوانات ﴾

جعلی تصویر۔ خواب اور حقیقت۔ مصنوعی خواب۔ تصویر کا دھوکا۔

تصویر کی دنیا۔ ناکام منصوبہ۔ پراسرار تصویر۔ تصویر کے دیس میں۔ سچا خواب۔

ان نونہالوں نے بھی ہمیں اچھے اچھے عنوانات بھیجے

☆ کراچی: ورینا جرات، بلال احمد، عائشہ الیاس، اریبہ امجد رند حاد، سمیہ محمد شاگر، نمرہ اقبال، سیدہ سبیکہ زہرہ، عیشہ عظیم، واجد عقیقوی، کنول فدا حسین کیریو، فاخرہ ساجد، محمد نبیل افتخار، حسن رضا قادری، صبا، عبدالغنی، عائشہ قیصر، محمد سعد تونسوی، نشا فاطمہ، رضی اللہ خان، خدیجہ الشفاء، کرن مرسلین، مصاص شمشاد غوری، محمد توقیر حسین، محمد سلمان شاہد، ماریہ بنت فیض، صدق آسیہ، ماہم خان، ایمان اسلم علی، محمد فارس خان، ناعمہ تحریم، حانیہ فاطمہ، لبتی

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ء ص ۲۹۷

خاص نمبر

۲۹۷

جبیں، محمد رحمن، احمد نبھال، شمس کنول عثمانی، عبیرہ صابر، ہانیہ شفیق، محمد اسفندیار خان، علیزہ
 سہیل، مریم عبدالرب، شمیم جاریہ، احزم جاوید، سید مرتضیٰ حسین رضوی، وردہ نور، زوبیہ
 جاوید رانا، عشاق ملک، سید باذل علی اظہر، سید شہباز علی اظہر، سیدہ جویریہ جاوید، سید عقاب علی
 جاوید، محمد عزیز، محمد فہد الرحمن، فضل قیوم خان، احمد حسین، احسن محمد اشرف، محمد اولیس، طاہر
 مقصود، محمد ذیشان ریاض، محمد فیضان ملک، رضوان ملک، علی حسن نواز، فضل وود خان، محمد
 عثمان نواز خان، مریم سرور، رمیز لطیف، عریشہ نوید، صارم بن وسیم، سیدہ مریم محبوب، سیدہ
 سالک محبوب، ایمن شہباز احمد، سید حسنین احمد، قلیل الرحمن، سویا خان، ربیعہ توقیر، محمد صہیب
 علی، فاطمہ عمران احسن، عبدالوہاب خان، زاہد محمود، بریرہ، حافظ عبدالعزیز قرآنی العین
 ادریس، عبیرہ کامران، محمد ذیان خان، مریم حسن خان، عریشہ بنت حبیب الرحمن، فضیلہ نسج،
 عریش علی، شمیم بلال، سید محمد فیضان، سید محمد حدیفہ، نادیا اقبال، لاعبہ اعجاز، نوین جاوید
 خانزادہ، سیدہ عائشہ خلیق الرحمن، ازما جویریہ، حانیہ اشرف، عروج اسلام اختر، سیدہ نمیرہ
 مسعود، مومنہ عمران، قانز محمد فاروق، امامہ حسن حیدر آباد، ملائکہ خان، سید محمد عمار حیدر،
 مقدس، آفاق اللہ خان، ماہ رخ، اریبہ انجم، میرونیہ ثناء، عبداللہ ضیاء الدین، عائشہ ایمن
 عبداللہ، پیر حیدر علی شاہ، انوشیہ سلیم الدین، میر پور خاص: طلحہ محمد اسلم، دیپا کھتری اوم
 پرکاش، وقار احمد، زونش رندھاوا، نازش محمد اکرم، طلحہ محمد اکرم، احمد عبید الرحمن، ملا سائیکھڑ:
 علیزہ کاز منصور، نیب احمد رندھاوا، ملا نواب شاہ: محمد طارق قاسم، حفصہ محمد طاہر قریشی،
 ایمن فاطمہ ظفر اقبال، ملا ٹنڈو الہیار: شاہ زین اختر، شازمہ اختر، محمد سیف اللہ خان
 ، ملا ڈیرہ اللہ یار: عمران خان کٹیار، شیراز سکندر ملنگی، ملا ملتان: شمیمہ کاشف شجاع، ربیعہ

خاص نمبر

۲۹۸

ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۴ عیسوی



نعیم، محمد طلحہ صفدر، امین ☆ فیصل آباد: زہنب ناصر، سارہ حامد ☆ لاہور: وہاب عرفان، ثریا
 کوثر انصاری، زویا زاہد، عطیہ جلیل، ماہین صباحت ☆ گجراتوالہ: خدیجہ شان قادری، حسن
 رضا سردار، صدام حسین قادری، نور فاطمہ قادری، محمد معین الدین قادری، محمد حامد رضا
 قادری، محمد حبیب نواز قادری ☆ ٹوبہ ٹیک سنگھ: سعدیہ کوثر مغل، محمد ولید طاہر ☆ ڈیرہ غازی
 خان: ایمان فاطمہ، عروج خان ☆ بھکر: رانا بلال احمد، محمد حظلہ فاروقی ☆ پشاور: شہیر
 احمد، مانیہ شہزاد، محمد حمدان خان ☆ راولپنڈی: حور شائل، مہر محمد احمد، ماہ نور ایمان، فاطمہ
 الزہرہ، ماہین گلزار، داؤد ابراہیم ملک، عبدالرحمن ☆ اسلام آباد: عیسا مریم، فاطمہ الزہرہ،
 فرحین ☆ اوٹھل: محمد بسطین حاشر بھٹہ، شفق محمد علی ☆ سکھر: عمارہ ثاقب، قلزہ مہر ☆ بہاول
 پور: محمد احمد شاکر، مبشرہ حسین ☆ آزاد کشمیر: در شہوار خان، شہریار احمد چغتائی، اصباح احمد
 ☆ کنڈ یارو: بہادر علی حیدر بلوچ، محمد ضرار بن مزا احمد ☆ چوآسیدن شاہ: عاقب جنید
 ☆ جامشورو: حافظ مصعب سعید ☆ بھکر: محمد مجیر خان ☆ صادق آباد: مقدس لطیف
 ☆ انک: عائشہ اعوان، پی بی سارہ شعیب ☆ واہ کینٹ: محمد شعیب انور ☆ سرگودھا:
 عبدالرحمن افتخار ☆ نوشہرہ کینٹ: محمد مجتبیٰ صدیق ☆ تلہ گنگ: عاطف ممتاز ☆ مردان:
 سہیل احمد بابوزئی ☆ بے نظیر آباد: فضہ سعید خانزادہ ☆ گھونگی: زہنب رانیہ ☆ بدین: ماہ
 نور فاروق ☆ کشمور: طارق محمود کھوسو ☆ سیالکوٹ: صبح الحسن ☆ میلسی: شارودل ☆ گوجر
 خان: مریم لاثانی ☆ میانوالی: عبیرہ ہمنہ ☆ کوہاٹ: ولید اللہ خان ☆ سرگودھا: زین
 خان ☆ دریا خان: عبداللہ شاہ ☆ صوابی: فرحین علی خان ☆ چارسدہ: رنڈا ظفر
 ☆ خوشاب: محمد قمر الزماں۔

☆

نونہال خبر نامہ

سلیم فرخی



۲۵ سال سے ٹھوس

غذا نہیں کھائی

بھارت میں ایک
۲۵ سالہ لڑکی پیدائش کے
بعد سے اب تک ٹھوس

غذا کے بغیر زندہ ہے۔ دارالحکومت نئی دہلی کے قریب "سونی بیٹ" نامی قصبے میں رہنے والی "مونیجو دھرو" کو پیدائشی طور پر "اشالا سیا" نام کی ایک انوکھی بیماری لاحق ہے، جس کے نتیجے میں وہ ٹھوس غذا نہیں نگل سکتی۔ اس مرض کے شکار مریض کی خوراک کی تالی بند ہونے کی وجہ سے ٹھوس چیز معدے میں نہیں جا سکتی ہے۔ مونیجو کے خاندان میں جیسے بہن بھائیوں میں سے کسی کو یہ بیماری لاحق نہیں ہے۔ اس انوکھے مرض میں جہلاً مریض اگر ٹھوس غذا کھانے کی کوشش کرے تو اسے خوراک معدے میں پہنچنے سے قبل ہی تے ہو جاتی ہے۔ البتہ دودھ، چائے اور پانی وغیرہ معدے تک پہنچ جاتا ہے۔



پانچ سال سے خوراک کے بغیر

زندہ رہنے والا سری لنکا کا شہری

دنیا میں عجیب و غریب قسم

کے انسان پائے جاتے ہیں۔

ڈاکٹروں کے مطابق آدمی خوراک

کے بغیر صرف دو مہینے زندہ رہ سکتا

WWW.PAKSOCIETY.COM

ہے، لیکن سری لنکا میں ایک ایسا شخص ہے، جس نے پانچ سال سے کوئی چیز نہیں کھائی، لیکن پھر بھی زندہ ہے۔ "ڈی رینول" نامی اس نوجوان نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس کی خوراک صرف ہوا ہے۔ اسے جب بھوک لگتی ہے تو کسی باغیچے میں جا بیٹھتا ہے اور وہاں تازہ ہوا کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ سری لنکا کے قومی کھیل کے مقابلوں میں "میرا تھمن" میں گولڈ میڈل حاصل کر چکا ہے۔



دنیا کا سب سے

غلیظ آدمی

کہا جاتا ہے کہ صفائی نصح ایمان ہے، لیکن ۸۰ سالہ "اموہاجی" نامی اس ایرانی شخص کو وہم ہے کہ صفائی اسے بیماری میں مبتلا کر دے گی اور اسی

وجہ سے وہ گزشتہ ۶۰ سالوں سے نہایا نہیں ہے۔ اخبار تہران ہائمنر کے مطابق اموہاجی کو پانی چھونا تک پسند نہیں ہے اور جب کوئی اس سے نہانے کے لیے کہتا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ ۶۰ سال تک پانی اور صفائی ستھرائی سے دوری کے اثرات اموہاجی پر پوری طرح نمایاں ہیں اور اس کی جلد کی رنگت زمین کی طرح ہو چکی ہے۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ دھوکا کھا سکتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں، بلکہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اخبار کا مزید کہنا ہے کہ صرف نہانا ہی وہ چیز نہیں ہے جو اموہاجی کو سخت ناپسند ہے، بلکہ وہ صاف کھانے اور پانی سے بھی دور بھاگتا ہے۔ وہ سڑے ہوئے بدبودار جنگلی جانوروں کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے۔ اموہاجی کو دنیا کا سب سے غلیظ انسان ہونے کا اعزاز دیا جا رہا ہے جو کہ اس سے قبل ایک بھارتی شخص کو حاصل تھا۔

☆

WWW.PAKSOCIETY.COM

خاص نمبر	ماہ نامہ ہمدرد نونہال جون ۲۰۱۳ء	۳۰۱
----------	---------------------------------	-----

ہنڈکلیا

ڈرم اسٹک : مرسلہ : سمعیہ خلیل الرحمن، جھڈو

مرغی : ران کے پیس چار عدد کالی مرچ پسی ہوئی : ایک کھانے کا چمچ
 لہسن (پیس لیں) : ایک پوتھی (درمیانی) پودینہ پسا ہوا : تین چائے کے چمچے
 ادراک پسی ہوئی : دو چائے کے چمچے کارن فلور : حسب ضرورت
 ہری مرچ : ایک عدد (پیس لیں) تیل : تھننے کے لیے
 نمک : حسب ضرورت

ترکیب: مرغی کی ران کے بڑے ٹکڑے دھو کر خشک کر لیں۔ اب تمام مسالوں کا آمیزہ بنا کر اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیں، پھر ران کے ٹکڑے ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھ دیں۔ پانی خشک ہونے پر ٹکڑوں کو باہر نکال لیں۔ اب حسب ضرورت کارن فلور لے کر اس کا آمیزہ بنا لیں اور ان ٹکڑوں کو ان میں ڈبو کر ڈیپ فرائی کر لیں۔ مزے دار خستہ ڈرم اسٹک تیار ہیں۔ کچپ یا اٹلی کی چٹنی کے ساتھ نوش فرمائیں۔

کھجور کے لڈو : مرسلہ : نادیہ اقبال، کراچی

کھجور (بغیر کھنٹی) : ایک کپ کشمش : آدھا کپ
 پھیکا کھویا : آدھا کپ ناریل (کدو کش کیا ہوا) : ایک کپ
 پستے، بادام، اخروٹ وغیرہ کی باریک کٹی ہوئی بگری : آدھا کپ

ترکیب: کھجور اور کشمش پیس لیں اور اس میں کھویا مسل کر ملا دیں۔ حسب ضرورت آمیزہ ہاتھ میں لے کر دبائیں۔ درمیان میں کٹی ہوئی بگری رکھ کر ناریل میں پیٹ کر پلیٹ میں رکھ دیں۔ تمام لڈو اسی طرح بنالیں اور غذائیت سے بھرپور ان لڈوؤں سے لطف اٹھائیں۔ جلا

خاص نمبر : ماہ نامہ ہمدرد تو نہال جون ۲۰۱۴ عیسوی ۳۰۲

اشاعت سے معذرت

نوٹہال بہت اچھی اچھی کہانیاں لکھتے ہیں اور بہت لکھتے ہیں۔ جگہ کی جگہ سے ان کہانیوں میں سے بھی زیادہ اچھی کہانیوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ننھے ننھے لکھنے والے بدل نہ ہوں۔ صبر اور مقابلہ جاری رکھیں۔

ہذا کراچی محنت میں عظمت، جھوٹ، زبان کا استعمال، بیمار معاشرہ، بیمار اطرز زندگی، قرآن پڑھنے کے آداب، سونے کی تاک، تنگ لڑکی، نوریوں، جیادولی جھاڑو، محنت کا پھل، پھیلی کے پال، ایک انار سوچا، انصاف، بولتی آنکھیں، ننھے بول انمول، معاشرتی کہانی، پہلا سبق، عروج اور نیلیم، سیکت ایک پیاری سی بیٹی، تاریخ آفاق کا درخشاں ستارہ، اصلی چراغ، آبیہ انگری پڑھنے کا فائدہ، ہمدردی، ملی کے بچے، بے زندگی کا مقصد، ابولہب، مہوئی کی شرارت، سنہری پھول، جھوٹ، بولنے کا تجربہ، سنڈریل، نقش کا انجام، چھوٹی چھوٹی باتیں، رحمت نظیر، وادی کشمیر، معجزات کا تراجم، عظیم کی سیر، معجزات پاکستان، چھوٹی کا انجام، انجام کا ستن، چار سو سو ہم کا جوا، بیار بھری قربانی، نیا سال، وقت کا کھیل، معیار، سونو کا ڈروٹی گھر، ماں باپ کا ادب، بسم اللہ کی برکت، ماں، بیادولی حق، دو ناگ، والدین، محنت، تصویریں بنانے کا شوق، پھل اور جھنڈی، ماں کی ضرورت، افسوس، علم لازوال، دولت ہے، ملی کولت کس نے ماری، رزق، ہاتھوں شہزادہ، سب سے زیادہ طاقت ور کون، جلن میں، عقل مند بادشاہ، افسانہ، فقیر کی بدعا، نیند، خوب اور بے وقوف چیل، ماں پیاری ماں، بے وقوف کون، انجینئر کے طالب علم کا خط، خمیر کی آواز، خزانے کی تلاش، چار فقیر ایک انجیر، سنہری انارگی، گڑیا خور، گناہ حسین، محبت اچھی ہو تو، شرارت، انوگی، واردات، ساتویں بیٹی، ہمارا پرچم، روشن چراغ، راجہ، اہیت، نعمت شریف، فرمودات اقبال، کراچی (نکلیں)، طلاق، ہلفدا، فضول خرمی، برسات، خدا کی قدرت، بیمار دوست، پیاری ماں، کراچی، کراچی ہے میرا شہر، کیا پادش ہے، صبح کا منظر، کراچی، ٹوٹ، ٹوٹ نے کھیر پکائی، حیدرآباد، قلعہ، تین سوال ایک جواب، صبح کا بھولا، کراچی، جب چاند و گلے سے ہوا، علم کی محبت، پھل کی خویاں، سر ملی چہ یا مرض شناسی، جیسے کو تیسرا، لاکھ لاکھ، عقل مندی کی شادی، بہادر لڑکا، لاکھ لاکھ، دولت، ملائی اور بان، شہزادی اور سزوان، ہلاکمران، بلوچستان، انسانی جسم، مشتری پر زندگی، مین، سینا، شہری چہ یا، پر ایادیس، دنیا کے چار مشہور شہر، پرانے زمانے کا ایک اویب، اوپکس، فیصل آباد، میری، مین، گولڈن گازی چلائی، ممکن پر صلہ کیوں نہ ہوا، ابو الحسن معمری، حکایات اقبال، لاکھ لاکھ، جھوٹ کی سزا، تنگی کا بدل، ڈاکو کا نانا، دھنک، ہلا جہلم، آپ جی، ابرام معمر، لاکھ لاکھ، بے نہ حرسے کی بات، صبح کا بھولا، کسے، دیر نہ ہو جائے، ہلا اسلام آباد، فرور کا سر نچا، انسی گھر، سنہری حرف، ہلا ڈیرہ غازی خان، حسد مندی، بلا، امید کی کرن، عقل کی فتح، ہلا پشاور، کپور، شیطان کا چہنچہ، پز پزانا، ہوا آواز، یہ آنکھیلوں کا وقت نہیں، منہ کھولے، ابو القاسم کی معراوی کی تصنیف، ہلا کسکر، عقل مند تاجر، لاکھ لاکھ، بسم اللہ کی برکت، ڈیرہ اسماعیل خان، جرم کا احساس، ہلا حاصل پور، ایسے کو تیسرا، لاکھ لاکھ، لومڑی اور گوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، لومڑی اور گوا، خوشاب، ننھی چہ یا کی عقل مندی، ہلا کوسک، جسے اللہ رکھے، ہلا تاک، قلعہ سے سقل، بیکٹا، ہلا مروان، بیٹی تو بے ہلا خذ و لہیا، محنت کا صلہ، صادق آباد، ماں کی دعا، ہلا کشمور، اچھا سا نام، ۲۳ مارچ، لازوال دولت، ہلا جھنڈو، شرارت کا انجام، ہلا شہر پور، کہانی پرانی دور نیا، چروں کی اقسام، ہلا کوٹ اور، میرا سفید خرگوش، ہلا بہاول نگر، طوسی گڑیا، ہلا کوٹڑ جام بھگر، احسان فراموش، ہلا لہوال، تین شرطیں، قائم پور، ایک خوف ناک، بھینریا، ہلا شہداد پور، کوڑستان، ہلا پتو، عاقل، حضرت ابو بکر صدیق، ہلا تربت، البیرونی اور سوماتھ کا مندر، ہلا تربت، کچھ کمران، ان جیسا کوئی نہیں، ہلا صبر پور خاص، کام یابی کا راز، حسین شہزادی، ہلا مسعود، اختلاف، ہلا سیالکوٹ، چہرہ گلاب، پینہ خوشبو، نوٹہال (نعم)، ہلا ہری پور، ایک کہانی بڑی پرانی، پورے ملک کا حسن، ہلا کشمور، معاہدہ، پیار سے، بیٹی، ہلا مروان، آخری خواہش، ہلا پیل، بلوچستان، لائی کی سزا، ہلا بہاول پور، سرخ راوی، ہلا لوہا، شاہ، صبر کا پھل، کاش کا لنگر، ہلا گوجرانوالہ، سچائی کی طاقت، ہلا رحیم یار خان، کوئی حق نہیں، ہلا لمان، روائے، گڑیا، ہلا پاپور، استاد کا مقام، مرتبہ، ہلا فیصل آباد، خدا کے وجود کی، پیل، ہلا خان پور، محنت کا کام، پاپی کی ننھی ہے، ہلا سرانے مسعود، احسان کا بدلہ، ہلا اسکرو، فتح ممکن ہے، ہلا اسلام آباد، ہلا تنسیاگی کی سیر، ہلا م، لاپرواہی، ہلا خوشاب، صبر کا پھل۔

نوٹہال لغت

کتاب	۱۰	۱۰	۱۰
پہلی	۱۰	۱۰	۱۰
دوسری	۱۰	۱۰	۱۰
تیسری	۱۰	۱۰	۱۰
چوتھی	۱۰	۱۰	۱۰
پانچویں	۱۰	۱۰	۱۰
شیشویں	۱۰	۱۰	۱۰
ساتھویں	۱۰	۱۰	۱۰
آٹھویں	۱۰	۱۰	۱۰
نواں	۱۰	۱۰	۱۰
دسواں	۱۰	۱۰	۱۰

مبارک باد۔ مبارک بادوینا یا لینا۔	تہا ہنی بیت	تہنیت
سستی۔ کاہلی۔ کام سے جی چرانا۔	آ ل ک ری	آکسی
بادل۔ ابد۔ گھا۔	س کاب	سحاب
لڑائی۔ جگ۔ کارزار۔	خ ز ب	خرب
کسی چیز سے غیر معمولی وابستگی۔ تعلق یا نسبت۔ کسی شخص سے خاص ربط۔ تقریب۔ کسی بات میں امتیاز و برتری۔	ا خ ت ص	اختصاص
جگ۔ آزمودہ۔ جنگلی۔ بہادر۔ شجاع۔ دلیر۔ دلاور۔	ن ب ر ذ آ ز ما	نبرد آزما
ٹھیل۔ وزنی۔ بھاری۔ بوجھل۔ منہگا۔ ناگوار۔ تکلیف دہ۔	گ ر ا ا	گراں
چپکے چپکے باتیں کرنا۔	ک ا ن ا پھ ڈ ری	کانا پھوسی
دلیل۔ قطعی دلیل۔ جس میں شک و شبہ نہ ہو۔	ب ر ہ ا ن	برہان
سائنس کی جمع۔ حادثات۔ حالات۔	س و ا ن خ	سوانح
رمز کی جمع۔ اشارہ۔ نکتہ۔ پارکی۔ راز۔ مخفی یا پوشیدہ بات۔	ر م و ز	رموز
اعتبار کیا گیا۔ بھروسہ کیا گیا۔ قابل اعتبار۔ سیکرٹری۔	م م خ ت م و	مستند
زبان۔ بولی۔ بھاشا۔	ل س ا ن	لسان
بہت بولنے والا۔ چرب زبان۔ چکنی چڑھی باتیں بنانے والا۔	ل س س ا ن	لسان
خان کی موٹ۔ اعلا خاندان کی عورتوں کا لقب۔ امیرزادی۔ بیگم	خ ا ن م	خانم
پریشان۔ آزرده۔ شکستہ دل۔ رنجیدہ۔ ناخوش۔	خ س ک ح ا ل	خستہ حال
برن۔	آ ہ و	آہو

❶ کر اے کے مکان کے باہر یورڈ لگا ہوا تھا کہ یہ مکان صرف ان لوگوں کو ملے گا، جن کے گھر کوئی بچہ نہیں ہوگا۔

یورڈ دیکھ کر ایک بچہ مالک مکان کے پاس آیا کہنے لگا: "یہ مکان مجھے دے دیں، کیوں کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے۔ البتہ دو ماں باپ ہیں۔"

موصلاً: سید طالب قریشی، نواب شاہ

❷ ایک صاحب نے ہوٹل میں چرنے کا آرڈر دیا۔ چرند آیا تو اسے جھکنے کے بعد انہوں نے دوبارہ ویٹر کو بنیاد اور پوچھا: "تمہارے ہاں چرند کس طرح تیار کیا جاتا ہے، آگ پر یا گیس پر؟"

"ہمارے ہاں چرند بجلی کے ذریعے پکایا جاتا ہے، جناب؟" ویٹر نے ادب سے جواب دیا۔

"ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ اور دو تین بجکے اور لگا کر لے آؤ۔"

موصلاً: عظمت حیات، پٹو دادن خان

❸ بچہ گھر سے ڈانٹ کھا کر اسکول جا رہا

نہیں ایک سی فٹ بال کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ آپ مجھے روٹ دیں، میں ہر کھلاڑی کو ایک ایک سی فٹ بال دوں گا۔"

موصلاً: سمیعہ وسیم، منگھر

❹ ایک صاحب نے اپنے بے حد موٹے دوست سے کہا: "تم جیسے موٹے آدمی عام طور پر بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ انہیں نہ ابھی کہوتو نہیں کرائل دیتے ہیں۔"

موٹے دوست نے جواب دیا: "اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ٹوٹنا اور بھاگنا دونوں ہی مشکل کام ہوتے ہیں۔"

موصلاً: نام، جگتا معلوم

❺ ماگ: "کام کرتے کرتے تم بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟"

ملازم: "جی نہیں، اس سے پہلے میں تین سال ایک جکیر ہاؤس بالکل نہیں بھاگا۔"

مالک: "تین سال تک کہاں کام کرتے رہے؟"

ملازم: "جیل میں۔"

موصلاً: محمد طارق کام، نواب شاہ